

عطا اللہ شاہ بخاری  
سید

سوانح و افکار



شورش کاشمیری


# سید عطاء اللہ شاہ بخاری

سوانح و افکار

بقلم مولانا محمد رفیع

مطبوعات چٹان

۸۸ میکلوڈ روڈ ○ لاہور





فَاللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

مُحَمَّدٌ  
مُحَمَّدٌ

أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ

وَلَا تَسْئَلُوا اللَّهَ عَنِّي سِوَى هَذَا

محمد باپ نہیں کسی کا تھما ہے مردوں میں، لیکن رسول ہے اللہ کا اور سب نبیوں

Muhammad is not the father of any one of your men, but the Messenger of ALLAH (God) and the Seal upon all the Prophets.

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَبِيَّعَةَ

میں "خاتم النبیین" ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں

# فہرس

۹ سفر	۱ - شروع کی بات
۱۳	۲ - ایک کہانی - ایک تاریخ
۳۵	۳ - خاندانی حالات
۷۷	۴ - قید و بند
۹۳	۵ - جماعت احرار
۱۲۳	۶ - میرزا نیت در پاکستان سے پہلے
۱۶۱	۷ - میرزا نیت در پاکستان کے بعد
۱۹۵	۸ - لاثانی خطیب
۲۱۵	۹ - تحریک ختم نبوت
۲۵۳	۱۰ - احرار کی تحریکیں
۲۷۵	۱۱ - چند یادیں





حکایت از قدس آں یارِ دل فواز کنیم  
بایں فسانہ مگر عمرِ خود دراز کنیم

---

○ — میں نے قر سے زیادہ واعظ، کتاب سے زیادہ مخلص  
دوست اور تنہائی سے زیادہ بے ضرر ساتھی کوئی نہیں  
دیکھا —

— عبد اللہ بن عبد العزیز



# شروع کی بات

اس کتاب کے لکھے کا خیال فسادات پنجاب کی انکوائری کمیٹی کے مختلف اجلاسوں (ازیکم جوائن ۱۹۵۳- تا فروری ۱۹۵۴ء) کی کارروائی سے پیدا ہوا جب رپورٹ چھپی تو یہ خیال اور بھی سخت ہو گیا۔ اس کی دو وجہیں تھیں۔

اولا : ان لوگوں کا طرز عمل جو بزمِ خود علما کے استخفاف پر قہقہے اڑا رہے تھے۔  
ثانیاً : پولیس افسروں کی یادداشتوں کا وہ حصہ جس میں شاہ جی کی ذات کو زیرِ بحث لایا گیا تھا۔

میں نے "چٹان" میں علما کی اہانت کے خلاف اسی وقت احتجاج کیا تھا۔ باوجودیکہ میں نے اپنی سیاسی زندگی کے بہت سے لیل و نہار داعیانِ شریعت کی ہمراہی میں بسر کیے ہیں لیکن نہ تو میرا نقطہ نگاہ ان سے موافق رہا نہ میں نے حیاتِ مستعار کے پیرا میں میں منبر و محراب کا کوئی پیوند قبول کیا اور نہ شرعی برہمنوں کو مافوق البشر سمجھا۔ مجھے شکایت یہ تھی کہ بغیر امتیازِ علما کے خلاف جو باتیں کہی جاتی ہیں ان رعایت سے قطعاً مختلف ہوتی ہے جو ظاہراً بیان کی جاتی ہے۔ کس گروہ میں کالی بھیڑیں نہیں؟ کیا اربابِ سیاست کی جماعت اس سے خالی ہے؟ لیکن کالی دینے کے لئے ہمیشہ علما ہی کو نشانے پر رکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ سیاسی سازش کے تحت بعض مقدس الفاظ بھی ذلیل کئے گئے ہیں۔ مثلاً یار غار، خلیفہ، مٹا، نذیر، بکر، بکر۔

اس سازش سے جس بدگوئی کا سراغ ملتا ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ان کا استعمال روزمرہ ہو گیا ہے۔

ملا کے خلاف طعن و تشنیع کی گرم بازاری بے شبہ سیاسی وجہ سے ہے۔ بعض شب کو رنقاؤں نے اپنی نفسی کوتاہیوں کا جواز پیدا کرنے کے لئے نہ صرف ملا کو بدتمیز بنا بلکہ اس کی آرٹ میں ان صلحائے اُمت کو بھی رگیدہ جن کا تنہا قصور یہ تھا کہ وہ انگریزی حکومت اور اس کی بیوروکریسی کے خلاف لڑتے رہے، جن علمائے تکفیر المسلمین میں ظالمانہ حصہ لیا ان کے خلاف سیاست دانوں میں کبھی مزاحمت یا مداخلت کی کوئی آواز نہیں اُٹھی مگر جن علما نے قربانی و ایثار کی زندگی بسر کی یا یورپی دانشوروں کی اس کھپ کو اس کے اعمال و افعال پر ٹوکا ان کے خلاف سب و شتم کے بازار میں ہمیشہ ہی رونق رہی ہے۔ ۱۹۷۰ء میں پاکستان کے عام انتخابات میں یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔

شاہ جی کے خلاف سرکاری یا واداشتوں کی حیثیت محض تعض کا ڈھیر ہے۔ اس کی سزا کا تقاضا تھا کہ اصل حقیقت بے نقاب ہو۔ میرا خیال تھا کہ وہ اہل قلم جنہوں نے شاہ جی کی رفاقت میں عمر کا بڑا حصہ بسر کیا۔ اس فرض سے عہدہ براہوں گے لیکن چاروں طرف طویل سٹانا چھایا رہا۔ جن لوگوں نے میری اس کتاب کے عرصہ بعد شاہ جی کے سوانح پر قلم اٹھایا انھیں نزولیکان پبلشرز کو اپنا نسب ہوگا۔

میں اپنے سوانح اسیری بے عنوان پس دیوار زنداں لکھنے میں مشغول تھا۔ بعض دوستوں نے مجبور کیا کہ جوابی تصریحات لکھوں لیکن اولاً رپورٹ کا محاسبہ میرے بس کا روگ نہ تھا۔ ثانیاً تحریک کے پس منظر میں جو گل کھلے تھے ان کے پیش نظر کچھ عرصہ توقف و انتظار زیادہ مناسب تھا۔ بہر حال میں نے شاہ جی کی سوانح عمری لکھنے کا قصد کیا۔ اب جو حالات فراہم کرنے شروع کئے تو سب سے بڑی روک خود شاہ جی تھے یا بعض ایسے دوست جن سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا لیکن وہ تعاون کے لئے آمادہ نہ تھے۔ اسی اثنا میں بعض ناشدنی باتیں مجھ تک پہنچیں

نے ارادہ توڑ ڈالا اور قلم کی اداری میں مصیبتوں میں داخل ہو گیا۔

ایکا ایک یہ تمام تقاضے پھر سامنے آ گئے اور دوستوں کی رضا کے آگے جھکنا پڑا۔ میں اس ساری کتاب کو محض نفسیاتی مطالعہ تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ مگر جس شخصیت کے یہ سوانح ہیں اس کا گرد و پیش اسے قبول نہ کرتا۔ بہر کیف جس طرز پر یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فی الجملہ یہ کوئی مکمل سوانح عمری نہیں، کچھ خاکے اور کچھ طعنے ہیں۔ مگر مکمل جامع اور مبسوط۔ بجز اللہ اب کوئی خلا نہیں رہا، حتی الامکان سب غلطیوں سے بچ گئے ہیں، شاہ جہاں کی دفتر فرخندہ اختر نے اپنے ایک نامہ گرامی سے خاندانی حالات کی تصحیح فرما دی۔ ان کا خط میری اہلیہ کے نام تھا، اب یہ محض خاکے یا طعنے نہیں رہے، سوانح عمری ہے۔ میں چاہتا تھا شاہ جہاں کی کم سے کم خاندانی حالات کے حصہ ہی کو سن کر تصحیح فرما دیتے لیکن انہوں نے گوارا نہ کیا اور میں نے بھی اصرار مناسب نہ سمجھا، وہ فقر و استغنا کے انسان تھے، قلم سے انہیں چڑھتی۔

کوئی سی کرتا ہی رہ گئی ہو تو مجھے اس کی تصحیح و اصلاح میں خوشی ہوگی میں نے جو کچھ لکھا، لہجہ جذبے سے لکھا اور کوشش کی ہے کہ تحریر کا دامن کسی آلودگی سے داغدار نہ ہو۔ میں نے الفاظ کے چناؤ میں پورے غور و فکر سے کام لیا اور بار بار قلع و برید کی ہے اس پر بھی اگر کوئی لفظ تم سے ایسا نکل گیا ہو جو نفس معنوں کی ثقاہت کے خلاف ہو تو مجھے اپنی ذوق سے عفو خواہی میں تامل نہ ہوگا۔ البتہ سی آئی ڈی کی یادداشتوں کے بارے میں دوپار فقرے عام اسلوب سے ذرا مختلف نظر آئیں تو یہ ان یادداشتوں کا رد عمل ہے جن کی تلخی اور سختی ذہن تک متھی۔ قطعاً کہتا ہے۔

”میں ان بیجان چہروں سے خوف کھاتا ہوں جو صبح کے اجالوں پر اپنی کھوکھی

ہنسی پھینکتے ہیں۔“

حاشیہ گزاری ہوگی اگر میں محب گرامی مولانا تاج محمود لائل پوری کے ان مخلصانہ

تفانوں کا اعتراف نہ کروں جن کی شدت کا نتیجہ یہ کتاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے محاسن انہی کی مساعی مشکور کاثرہ ہیں اور جو قباہت آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام تر میرے قلم کی درماندگیوں ہیں۔ بہر حال وہ تمام دوست میرے پاس دتشرکے حقدار ہیں جو قلم کے اس سفر میں اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں۔

ہمیں عشقِ امت بر خود چیدہ چنیں داستانِ وند  
کے از معنی یک حرف صد دفتر نہی سازد

شورشش کاشمیری

لاہور

۱۱ ستمبر ۱۹۵۶ء

## ایک کہانی — ایک تاریخ

شاہ جی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی زندگی ماضی میں بسر ہوتی ہے اور جو اپنی متوجہ زندگی کے باعث مجموعہ اہلداد ہوتے ہیں ان شخصیتوں کا صحیح تاثر ان کے قریب ہی سے مرتب ہوتا ہے۔

شاہ جی کے چہرے مہرے سے عنان خیال معاً ان یونانی فلسفیوں کی طوط مُڑ جاتی جن کے فکر و نظر کی بہت سی ماہیں صدیوں کی شب کاری کے باوجود روشن چلی آتی ہیں اور جن کے تصویری پیراہن ان شدہ ماغوں کی یاد دلاتے ہیں جن کی صورتوں سے ایک ساحرانہ شکوہ کا اظہار ہوتا ہے۔ شاہ جی کا بگ سک قرون وسطیٰ کے ان حکما و فقہا اور حکما و خطبا سے مشابہ تھا جو طلوع تاریخ سے پہلے یونان و روم میں اور طلوع تاریخ کے بعد بغداد و دہلی میں پائے جاتے تھے۔

اتفاق کہیے کہ بعض داعی شخصیتیں آپس میں ایک گونہ مماثلت منور رکھتی ہیں، مثلاً فیثا غورث، کارل مارکس، رابندر ناتھ ٹیگور اور شاہ جی میں فکر و نظر، عقیدہ و ایمان اور علم و عمل کی کوئی راہ بھی مشترک نہ تھی لیکن کچھ ایسا بائبلین منور تھا کہ ان کا چہرہ مہرہ پر صفائی بعد کے باوجود ایک سا تھا۔ بہر حال یہ ایک شاعرانہ چیز ہے ان بڑوں کی زندگی ایک خاص طرز رکھتی ہے جس سانچے میں سبھی ڈھلے، ہمیشہ امیر سے ہمتے ملیں گے یہ کسی کے نقشِ پانہیں ڈھونڈتے بلکہ لوگ ان کے نقشِ پاکی تلاش میں رہتے ہیں۔

شاہ جی کی زندگی میں بیچ پر استوار ہوئی اس میں ادب و سیاست کا ایک رومانی امتزاج تھا، ظاہر ہے کہ ایک رومانی زندگی کھلی کتاب ہوتی ہے اس میں سو سے اوق عبارتیں ہوتی ہی نہیں، ایسا شخص جذبات پر جیتا اور جذبات پر مرتا ہے۔ اس میں احساس کی شدت اور استغما کی شرافت تا حد کمال ہوتی ہے۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں کون کیا سوچتا ہے اس کی ذات ہی اس کا پیمانہ ہے وہ گرد و پیش سے متاثر ہوتا اور پاتا ہے کہ گرد و پیش اس سے متاثر ہوں اس کی روح اس وقت معراج پر ہوتی ہے جب وہ عام چہروں میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے۔

یک چراغ است درین خاک کہ از پر تو آں  
ہر کجائی نگری اینجمنے ساخته اند

۱۹۴۷ء کا ذکر ہے غالباً مارچ کا مہینہ تھا۔ پنجاب میں عام فسادات چھوٹ چکے تھے شاہ جی اس سے تو خوش تھے کہ انگریزوں کا چل چلا ہے لیکن اس کا انہیں بہت ہی دکھ تھا کہ ملک بھر میں خون خرابا بے قابو ہو گیا ہے۔

ہمارے اصرار پر وہ امرتسر سے لاہور چلے آئے اور دفتر احرار میں مقیم تھے۔ دن بھر محفلین جمعیتیں۔ گئی رات تک دربار لگا رہتا۔ عام عقیدت مند جمع ہوتے اور ان کے انوار سخن سے جھولیاں بھرتے لیکن ان دنوں ان کے چہرے پر ہنسی کے آثار بہت تھوڑے تھے۔ اس سے پہلے وزارتی مشن کے زمانے میں ہم کوئی دو ماہ جہلی میں اکٹھے رہے تھے۔

وہ زمانہ اپنی بولچوٹیوں کے باعث تاریخ کا ایک یادگار دور تھا۔ میں نے شاہ جی سے عرض کیا کہ میری بعض یادداشتیں ادھوری ہیں اگر آپ اپنے خاندانی حالات پر روشنی ڈالیں تو یادداشتیں مکمل ہو سکتی ہیں۔ وہ طرح دے گئے ان کے نزدیک اس کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ تحریر کو ایک حقہ سمجھتے اور اپنے اس عقیدے کو ہمیشہ دہراتے کہ جب سے حافظہ کی جگہ تحریر نے لی ہے انسان کو صرف عقلی اختیار سے صنعت پہنچا ہے بلکہ ہر کہیں عجیب الخلقیت سازموں کی

آب دہوا پھیل گئی ہے۔ وہ عام لوگوں کی طرح اس دور کو ترقی کا دور نہیں کہتے تھے بلکہ ان کا نزدیک یہ خسران کا دور تھا اور تحریر اس خسران کی پیچ دار بنیادوں میں سے ایک ہے۔

”جہانی میرے حالات لکھ کر کیا کرو گے؟ — مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں ابوطالب کلیم کی زبانی اپنی ہی نہیں، ہماری بھی سرگزشت لکھو دنی ہے۔

بدنامی حیات دوروزے نہ بود و میش  
 آن ہم کلیم با تو چگونم چساں گزشت  
 یک روز صرف بستم دل شد بایں واکں  
 روزے و گر بکندن دل زیں واکں گزشت

تفصیل طلب کی تو مسکرا دیتے، آغا فہیدیم اور بس — لیکن مولانا ابوالکلام آزاد سے ان کا روپ قطعی مختلف تھا۔ مولانا اپنے سے باہر جھانکتے نہیں تھے اور شاہ جی نے اپنے کو دیکھنے کی کبھی کوشش نہ کی تھی، مولانا کے لئے تخلیق صحبت میش نفا شاہ جی کے لئے جان کئی مولانا کتابوں کی رفاقت کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہ کر پاتے تھے، شاہ جی نے عمر بھر کتابوں کی گرد بھی نہیں جھاڑی تھی۔

ماقتہ سکندر و داران خواندہ ایم  
 از ما بجز حکایت مہر و وفا پیرس

یہاں لاہور میں ان کی آرزوگی بڑھتی ہی گئی۔ ہر روز ایک نیا سانحہ! پہلے انہیں ہندوستان کی بربادی کا غم تھا اب وہ مسلمانوں کے لئے بے چین تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو تیار ہی کے بغیر ایک ایسی آگ میں جھونک دیا گیا ہے جس کا واحد نتیجہ ہمہ گیر تباہی ہے۔ وہ کلکتہ، نواکھالی اور بہار کے حالات سے پہلے ہی مغموم تھے۔ اب جن حالات میں خضر وزارت کا استعفیٰ ہوا تھا اور اس استعفیٰ سے پہلے مسلم لیگ نے جو مظاہرے اور مجاہدے کئے تھے شاہ جی کی طبیعت پر ان کا ایک منفی اثر تھا۔ فسادات جنگل کی آگ تھی اور وہ انسانی خون کا تاشا دیکھ ہی نہ سکے تھے فرماتے:

”بند ٹوٹ چکا ہے اور سیلاب کا گڑنا محال ہے“

نصرت وزارت کے خفات بلاناغہ احتجاجی جلوس نکل رہے تھے۔ ان جلوسوں میں زبانِ طیش کی ساری قصوہیتیں جمع ہو گئی تھیں۔ شاہ جی مغرب کے وقت دفتر کے چھبے میں اکھڑے ہوتے، ان مظاہروں کا نظارہ کرتے اور جب بے قابو توجہ انوں کی آوازیں شفق میں گھٹنے لگتیں تو دروازہ بھرتے اور کہتے :-

شورش! — مجھے نظر آیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دو روز تک آگ لگی ہوئی ہے، مکان جل رہے۔ دکانیں لٹی جا رہی اور قزاق عصمتیں اڑائے سر پٹ دوڑ رہے ہیں، ماں بیٹے کو چھوڑ چکی۔ باپ بیٹی کو پار چکا ہے، چاروں طرف تباہی کا ماحول چھک گیا ہے :-

پھر ایک ایکی منگلوں کے انداز میں نعرہ گونجانے لگتے۔

”کر دے چٹیل میدان مولا کر دے چٹیل میدان — لعنت برپدر فرنگ“

اور لفظ فرنگ پر خاص زور دیتے۔ تبری کی یہ آواز کبھی کبھار شاہ محمد غوث کی مسجد سے اٹھتی ہوئی اذان سے جا ملتی تھی۔ نیاز مند شاہ جی کے اس قلندرانہ نعرے پر مسکراتے اور شاہ جی جھنجھلا کر فرماتے۔

”میاں آج ہنستے ہو گل روو گے، تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ بیت رہا اور جو کچھ بیتنے والا ہے۔ ایک وبا پھوٹ چکی، ایک وبا آرہی ہے تب ان کی زبان پر قرآن مجید کی آیتیں جاری ہو جاتیں۔ ان کی قرأت میں گداند پیدا ہو جاتا، ان کے لعن میں آنسو آجاتے اور ہم تھے کہ ان کا منہ لٹکا کرتے۔ ہمارا وجد ان شہادت دینا کہ فقیر غلط نہیں کہہ رہا لیکن عقل سپر انداز ہونے سے انکار کرتی، ہم کہتے :-

”شاہ جی! حالت ابھی اتنے خراب نہیں انگریزوں کا مفاد.....؟“ اور وہ فقرہ

ہی توڑ لیتے۔



”ہاں مجائی انگریزوں کا مفاد اسی میں ہے کہ بستیاں کو نلکہ ہو جائیں، لوگ قتل ہوں۔ آخر جاتے دے پہلے فرنگی بابا آزادی کی قیمت لے کر ہی جاتے گا۔ تم نے آزادی مانگی تھی یہ لو آزادی —؟ یہ اس کی پہلی قسط ہے“

شاہ جی! سیاست؟

”ہاں میں جانتا ہوں، سیاست کے معنی میں مگر، کلام اللہ میں بھی یہی معنی بیان ہوئے ہیں۔ میں نے لفظ سیاست سے زیادہ کوئی شریہ لفظ نہیں دیکھا۔ یہ خدرے و فریب کے ایک ایسے اجتماعی کاروبار کا نام ہے جس سے بالور لوگ اغراض کی دکان چمکاتے ہیں“

اور میں جی ہی جی میں سوچ کر چپ ہو رہتا ہوں  
اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو

بظاہر یہ باتیں بے وزن تھیں، جس شخص کی نصف زندگی خود سیاست میں گزری ہو جس نے قبرستانوں میں ”اذانیں“ دی ہوں۔ اس کا سیاست کے بارے میں یہ ذہن ایک لطیف تھا۔ یہ ذہن انہوں نے تحریک خلافت کے بیٹھ جانے پر زعمانی گرفت سے متاثر ہو کر قائم کیا تھا اور اس پر سمجھتی سے قائم تھے تقسیم ملک کے بعد تو وہ سیاست ہی کو منکرات میں سے سمجھتے تھے مگر تحریک خلافت کے بعد بھی انہوں نے سیاست میں وافر حصہ لیا لیکن اپنی مرضی سے کم دوش کی مرضی سے زیادہ۔ ان کا ایک خاص معیار تھا جس سے حالات کے بجائے افراد کا جائزہ لیتے۔ انہیں اس سے غرض نہ تھی کہ حالات کیا کہتے ہیں ان کے لئے بس یہ کافی تھا کہ اجاب کیا کہتے ہیں، جب تک دوست ان کے اعتماد کو مجروح نہ کریں وہ ان کے دماغ سے بھی سوچ لیتے، ملک کی سیاسی تحریکوں کے اٹھانے میں ان کے دماغی فیصلے شاذ ہی شریک ہوتے لیکن ان تحریکوں کے جگمانے میں ان کی زبان برقی لہر ثابت ہوتی۔

وہ سب سے بڑے عوامی خطیب تھے لیکن عوام کو کالا نعام ہی سمجھتے۔ انہیں جدید سیاسی اصطلاحوں سے کوئی رغبت نہ تھی، ان کا خیال تھا کہ تحریکات میں عوامی قوت فعال ضرور ہوتی

ہے لیکن سرچشمہ نہیں۔ وہ نتائج کو مشیت ایزدی کے تابع سمجھتے تھے ان کی بے نیازی حد سے بڑھی ہوئی تھی، انہیں اخبارات سے نفرت تھی ان کا عقیدہ تھا کہ اخبارات نے آغاز سے اب تک بڑے بڑے جھوٹ گھڑے ہیں، اگر اس جھوٹ کا بوجھ ماؤنٹ ایورسٹ پر پڑتا تو وہ زمین میں دھنس چکی ہوتی۔ انہیں اشتہار دینے یا بننے سے سخت نفرت تھی۔ ایسی کوئی ترغیب یا تحریک انہیں بہلا یا پھسلانہ سکی اور نہ وہ خوشامد ہی سے رام ہوتے۔ ان کے نزدیک یہ انسان کی ملعون کمزوریاں تھیں۔ یہاں بڑے بڑے تخلیق دوست رہنما اور گوشہ نشین مہاتما بھی اخباروں میں چھپنے کی آرزو سے بے نیاز نہ رہ سکے لیکن شاہ جی غالباً تنہا انسان تھے جنہیں اس کو چسے سے رسم و راہ رکھنے میں عار تھی، وہ غصہ میں اکثر اس کو جہنم کی آگ کہہ اُٹھتے اور ہمیشہ اس سے کئی کتراتے رہے۔

”بالو! میں اس میدان کا کھلاڑی نہیں“

جب کسی فوٹو گرافر نے ان کی تصویر لینے چاہی تو چہرے پر رومال ڈال لیا یا ڈانٹ کر بٹھا دیا، کیا کرتے ہو میاں؟ یہ میری تصویر بنا کر کیا کر دے گا؟ میری تصویر میرے انکار ہیں، میرے نیالات کو اتار سکتے ہو تو دل کے فوکس میں اتار لو یہ سب سے اچھی تصویر ہوگی۔ دنیا میں نہ سہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر —

بیٹا پاس بیٹھا ہو تو اس سے کہتے، ”کھڑے ہو جاؤ شاہ جی!“

فوٹو گرافر سے مخاطب ہو کر،

”میری تصویر میرا یہ بیٹا ہے اس کو دیکھ لو“

”اور ہاں میری نظر سے دیکھنا کتنی اچھی تصویر ہے؟“

خود غم بھر میں ایک آدھ تصویر کھنچوائی، اس کے علاوہ دو چار تصویریں اور ہوں

گی لیکن سب چوری چھپے کی، وہ تصویر کار کھنا اور کھنچوانا شروع سمجھتے تھے۔ انہیں مصویٰ و رعکاسی کی خلقی اور غیر خلقی بحثوں سے کوئی واسطہ نہ تھا وہ انہیں کٹ جتنی سمجھتے عرض کیا کہ

فلاں فلاں بزرگ کی تصویر بن چکی ہے مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد (جن سے شاہ جی کو خصوصی ارادت تھی) فرماتے:

”تم ٹھیک کہتے ہو لیکن میں سیاست میں ان کا مقلد تھا۔ شریعت میں نہیں۔ میرے لئے ان کا کوئی فعل حجت نہیں، بالبو! میرے میاں (صلی اللہ علیہ وسلم) نے منع فرمایا ہے ان کے قول کے بعد سب اقوال بیچ ہیں۔“

اور وہ میاں کے لقب سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم (فدا امی و ابی) کا نام لیتے اور ذکر کرتے تھے۔

راقم نے عرض کیا:

”شاہ جی! آپ تو کرتے کے ساتھ شلوار پہنا کرتے تھے لیکن یہ کچھ دنوں سے آپ نے تریبند پہننا شروع کر رکھا ہے؟ فوراً ہی بات کاٹ لی:

”مجائی حضور کا لباس ہے، میاں پہنتے تھے۔“

ظاہر ہے کہ اس جواب کے بعد ہر سوال ختم ہو جاتا، شاہ جی کی دو تہائی زندگی سیاسیات میں کٹی، ہندوستان کا کونہ کونہ چھان مارا، ان دنوں کے سوا جو قید خانے میں بسر ہوئے کوئی دن بھی تقریر کے بغیر گزارا، سیکڑوں قومی و ملکی مسائل پیدا ہوئے اور ہر سٹے میں لوگوں سے کہا سنا لیکن اخباروں میں بیان بازی سے ہمیشہ گریز کیا۔ جہاں اور جب نامہ نگاروں نے گھیرا دامن چھیڑ لیا، تمام عمر کسی عنوان سے اخبارات میں کوئی بیان نہ دیا۔ اس اعتبار سے ان کی زندگی میں ایک دلچسپ خموشی تھی۔ مجلسِ احرار نے اپنا اخبار جاری کیا لیکن وہاں بھی کبھی کوئی بیان نہیں چھپوایا جو بیان یا پیغام ان سے منسوب ہیں ان میں بھی ان کی منشا تھی، قلم نہیں، راقم کے علم میں صرف ایک مثال ایسی ہے جو اس سے مستثنیٰ ہے اور وہ ایک خط ہے جو پاکستان بن جانے کے بعد روزنامہ ”آزاد“ میں ان کے قلم سے نکلا۔ تقریباً تمام بڑے ایڈیٹروں سے ان کے تعلقات رہے، لیکن چھپنے چھپانے سے فرار ہی کیا۔ کسی نامہ نگار نے گھیر لیا، کوئی سٹاف رپورٹر اٹکلا

یا کسی نمائندے سے ٹکر ہو گئی اور وہ سوال کر رہا ہے، شاہ جی فلاں مسئلہ میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شاہ جی کئی کترا کے نکل جاتے، فرماتے:

”بھائی میں آج کل قرآن مجید کی فلاں آیت پر غور کر رہا ہوں، میرا خیال ہے فلاں فلاں مفسر نے اس بارے میں مٹھو کر کھائی ہے البتہ شاہ عبد القادر کے ترجمہ میں بات اُٹھتی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر سامنے نہیں، غالباً انہوں نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے۔“

اخبار نویس پوچھتا ہے:

”دو قومی نظریے کے مسئلے میں آپ علامہ اقبال سے متفق ہیں یا مولانا حسین احمد دینی سے؟ آپ نے بحث تو دیکھی ہو گی؟ بھائی میں نے جانیں کے فرمودات کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ آج کل بیاض کھنگالنے میں لگا ہوں۔ کوئی ۳۵ برس پہلے جب آتش جو ان تھائیہ بیاض مرتب کی تھی۔ سنو یہ شعر کس قدر پیارا ہے۔“

ہر کے رادامن ترہست اما دیگر ان

بازمی پوشند و مادر آفتاب اندامتیم

اخبار نویس کہتا ہے: ”شاہ جی عالمی وفاق کا قیام ممکن ہے؟ جمہوریت اس وفاق کا

ذریعہ بن سکتی ہے یا فسطائیت یا اشتمالیت؟“

شاہ جی موڈ کے آدمی تھے یہ سوچنے کی مہلت ہی نہ دیتے کہ انہوں نے عصری تحریکوں کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں؟ ان کے نزدیک ہر چیز کی ایک ہی ترازو ہے اور وہ ہے قرآن مجید اسوہ رسول، سیر صحابہ اور علمائے امت کا فہم و تدبر۔ ان ائمہ اربعہ کے سوا جن کی فقہ چلتی ہے وہ کسی جدید فقہ کے قابل نہ تھے، ان کا واحد معیار اسلاف تھا۔ اس دور کی بیشتر تحریکیں ان کے نزدیک ذہنی بدکاری تھیں۔ انہوں نے سرے سے ان تحریکوں کا مطالعہ ہی نہ کیا تھا۔ ان کے بارے میں ان کی معلومات محدود اور بالواسطہ تھیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی

کہ وہ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے اور عصری تحریکوں کا علم انگریزی میں سوخ کے بغیر حاصل نہ ہوتا تھا۔ گو ایک حد تک انگریزی زبان کے مزاج سے آشنائی بھی اس خٹاکو پورا کرتی ہے لیکن شاہ جی دونوں سے دست کش تھے۔

ان کا تعلق دیوبند کے اس مدرسہ فکر سے تھا جس نے انگریزی پڑھنا پڑھانا حرام قرار دیا تھا وہ دیوبند کے فارغ التحصیل نہیں تھے لیکن ان کی ذہنیت کا خمیر اسی خاک سے اٹھا تھا جن اکابر علماء نے مرستہ کے مشن کی مخالفت کی وہ ان پر ہزار ہزار رحمتیں بھیجتے۔ ان کے عقیدہ میں خرابی کی اصل جو انگریزی تعلیم تھی جس نے مسلمانوں کے بدن سے روح محمدؐ نکال لی اور انہیں مغربی افکار کے حوالے کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا اس خرابی کو ابتداً روک لیا جاتا تو آج نقشہ مختلف ہوتا اور مسلمان اس طرح نہ گرتے جس طرح گر چکے ہیں پھر ان کا یہ خیال معاً درست تھا کہ زبان کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عربوں نے جن ملکوں کو فتح کیا وہاں کی زبان عربی بنا ڈالی اور عام باشندے اسلامیات میں گھل مل گئے۔ جہاں عربی زبان کا تسلط نہ ہو وہاں جہان باقی کی مدت گزرتے ہی عمارت بیٹھ گئی۔ ہندوستان کی نظیر سلطنت ہے۔ یہاں اسلام حکمرانوں کی معرفت نہیں بلکہ اہل اللہ کی وساطت سے آیا لیکن عام آبادی میں اسلامی فکر رچ بچ نہ سکی۔ عربی اثر سے قاہرہ ہمیشہ کے لئے اسلام کا شہر ہو گیا لیکن وہی مسلمانوں کی طویل مگرانی کے باوجود اس شرف سے محروم رہا۔ جن مسلمان خاندانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ان کا اسلام کئی واسطوں سے متاثر تھا وہ اسلام کی اصل زبان ہی سے نا آشنا تھے۔ فارسی کو مسلمان ہونے میں دیر لگی، لیکن قبول اسلام کے باوجود اس میں عجی رنگ برقرار رہا۔ اس کی کوکھ سے اردو پیدا ہوئی جس نے خاص قسم کے اثرات پیدا کئے باوجودیکہ اس زبان کے بنانے اور بولنے والے مسلمان تھے لیکن زبان مسلمان ہو گئی۔ اسلام اردو نہ ہو سکا۔ انگریزی کا معاملہ ہی دوسرا تھا۔ اولاً نصاریٰ کی زبان، ثانیاً فاتحوں کی بولی، ثالثاً اسے وہ لوگ لے کر آئے تھے جو کلیسا کے رد عمل سے نفس مذہب کے خلاف ابھرتی ہوئی تحریکوں کے ہراول تھے۔

حدیہ کہ صنعتی انقلاب نے زبان کا مزاج ہی بدل ڈالا۔۔۔۔۔ ان حالات میں جن علماء نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے روکا اور ان میں اس کے خلاف ایک عمومی تحریک کی نیواٹھائی۔ ان کے ذہن میں یقیناً حالات کی خرابیوں کا یہ نقشہ ہو گا لیکن اب دنیا ایک صدی آگے بڑھ چکی ہے اور آج انگریزی کو دنیا میں وہی عروج حاصل ہے جو کبھی عربی کو تھا۔ پھر انگریزی محض ایک زبان ہی نہیں رہی بلکہ سائنسی انکشافات کی طرح ناگزیر ہو گئی ہے لیکن شاہ جی کے نزدیک انگریزی پڑھنا پڑھانا دونوں حرام تھے۔

ایک دفعہ میں نے ان کے بچوں سے متعلق عرض کیا:

”شاہ جی انہیں انگریزی پڑھائیے، انگریزی مدرسوں میں بھیجیے اور ممکن ہو تو وکیل بنائیے آئندہ معاشرے کی باگ ڈور قانون دانوں کے ہاتھ میں ہے۔“  
بس اس پر بگڑ گئے۔

”تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہیں زندہ دفنا دو۔۔۔۔۔ لعنت بر پدر فرنگ۔“  
اور یہ ان کا قلندرانہ نعرہ تھا۔

کیونسلوں اور سوشلسٹوں کی ایک خاص کھیپ سے ان کے دوستانہ مراسم تھے، ہندوستان ایک تھا تو ان کے نیاز مندوں میں بڑے بڑے کیونسلٹ اور سوشلسٹ (ہندو اور مسلمان) شامل تھے۔ ان کی ایک بڑی جمعیت کو ہمیشہ آپ سے لگاؤ رہا، سبھی آپ کا احترام کرتے لیکن نہ وہ انہیں ہم خیال بنا سکے اور نہ یہ انہیں قابل معقول کر سکے۔ دونوں کے درمیان جذباتی رشتہ رہا۔ ان میں سے اکثر آپ کے صحبت یافتہ تھے، مثلاً منشی احمد دین سوشلسٹوں کے سب سے بڑے مقرر تھے ان کا سیاسی راستہ ہمیشہ ہی مختلف رہا لیکن خطابت میں شاہ جی ہی کے خورشہ چین تھے۔

شاہ جی کیونزوم کو بھی اسلام کے خلاف یہودیوں کی لائقناہی سازشوں کا ایک حصہ سمجھتے تھے دیل یہ تھی کہ کارل مارکس یہودی تھا اور یہودی ہمیشہ سے اسلام کے خلاف سازشیں

کرتے آئے ہیں۔ اس ضمن میں وہ اسلام کے خلاف کی گئی سازشوں کی پوری تاریخ اپنے خطیبانہ جوش میں بیان کر جاتے۔ ان کی یہ باتیں نئی نسل کے لئے سطحی ہوتیں یا اجنبی یا پھر جذباتی لیکن ان کا بہاؤ اتنا تیز ہونا کہ سامعین متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔

کابل مارکس نسلا یہودی ضرور تھا لیکن اس نے انسان کے اجتماعی اور انفرادی دکھ کو صرف محسوس کیا بلکہ ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جس کی اساس جدلیات پر ہے، صیہونیت پر نہیں، مگر شاہ جی تاریخ کی مادی تعبیر، طبقاتی کش مکش، جدلیاتی اصول اور سرمایہ و محنت کے معاشی مباحث کو اپنی خطابت میں کوئی اہمیت نہ دیتے، فرماتے تھے

ایں دفتر بے معنی غرق میںے ناب اولیٰ

جس تحریک یا جماعت میں خدانہ ہو، اخلاقی قدریں اضاتی سمجھی جائیں اور پیغمبر صرف مادی حالات کی تاریخی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے آئے ہوں، شاہ جی اس تحریک یا جماعت کے داعیوں پر غضب ناک ہو کر نکتہ چینی کرتے، عام اشتعالی نوجوانوں کو گمراہ مگر مخلص خیال کرتے لیکن دکاندار علماء کی طرح وہ نہ تو سرمایہ داری کا جواز پیدا کرتے اور نہ بڑی زمیندار یوں ہی کے حق میں تھے، فرماتے زمینیں خدا کی ملکیت ہیں اور جو لوگ ان میں ہل جوتے ہیں وہی از روئے اسلام ان کے حقدار ہیں۔ جس نظام معیشت سے بھی استحصاں پیدا ہو وہ اس کے سخت خلاف تھے انہیں خونیں انقلاب برپا کرنے میں کوئی عار نہ تھی، لیکن ان کے نزدیک رہنما "قرآن" تھا سرمایہ "نہیں۔

دوسری جنگ عظیم کے دنوں میں دہلی دروازہ لاہور کے باہر حکومت الہیہ کے موضوع پر بول رہے تھے۔ جانے کیونکر اشتراکیوں کا ذکر آگیا، کسی نے لقمہ دیا، حضرت ان کا تو عقیدہ ہے کہ زمین سے سرمایہ داری اور آسمان سے خدا کو نکال دو۔ بس پھر کیا تھا، گھنگھریلے بالوں کو جھٹکا دیا، پہلے ہنسنے پھر تاؤ میں آگئے۔ "ٹھیک ہے سبائی ٹھیک ہے، ہائے ابراہ آبادی کس وقت یاد آگئے۔" (لے کے ساتھ)

صدیوں فلاسفی کی چناں اور چہنیں رہی

لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی

کہاں خداوند ایزد متعال کہ گن کے لفظ سے کائنات پیدا کی کہاں روس، تو سے پر

دانہ اسپند، اٹا دو تو سور ہو جائے“

بات کچھ نہیں محض الفاظ کا اٹھ پھیر تھا لیکن اس ایک ادا نے مجمع کو گرویدہ کر لیا،

نعرہ ہائے تکبیر گونج اُٹھے، اس سحر ہی سے خوفزدہ ہو کر ڈاکٹر اشرف نے ایک دفعہ شاہ جی سے

کہا تھا آپ لوگوں پر ایسا جا دو کرتے ہیں کہ ان کے سوچنے کی قوتیں ماؤف ہو جاتی ہیں آپ

کا علاج کوئی ہے؟

غرض شاہ جی بعض عجیب و غریب خصوصیتوں کا مجموعہ تھے، ان کی باتیں اکثر دہلیشہر حقائق

پر ملتے جلتے ہوتیں جب وہ کسی تحریک کے انکار و حالات پر گفتگو کر رہے ہوتے تو سیاسی ترازو میں

ٹھیک نہ بیٹھتیں لیکن نتائج کے اعتبار سے اس طرح صورت پذیر ہوتیں کہ لوگوں کو شاہ جی کے

علم ہونے کا گمان ہوتا۔ ان کی قلندرانہ شوخیاں اکثر دہلیشہر حقائق پر ملتے جلتے ہوتیں۔ یہ درویشی جس

سے سیاست کو دور کی نسبت بھی نہ تھی ان لوگوں میں جھنجھلاہٹ پیدا کرتی جو سیاست کو

مادیات کے آئینے میں دیکھتے تھے لیکن اس جھنجھلاہٹ کے باوجود جب نتیجوں کی منزل سامنے

آتی تو ان باتوں کا بہت بڑا حصہ صحیح ہوتا، خضر وزارت ٹوٹی تو ان کی قلندرانہ پیش گوئیاں حرف بحرف

پوری ہوتی گئیں۔

چڑھتے دن سے گئی رات تک وہ مکانوں سے اُٹھتے ہوئے شعلوں کا نظارہ کرتے،

کوئی پوچھ لیتا تو فرماتے:

”میاں کیا پوچھتے ہو؟ شعلے نہیں ٹوانوں کے طرے ہیں طرے“

شاہ جی نے فسادات کے آغاز ہی میں امرتسر چھوڑ دیا تھا، امرتسر سے کوئی دوست آتا

تو اس سے کہتے۔ ”وہاں کیا رکھا ہے چلے آؤ جو خط کھنچ چکا ہے وہ اب ٹٹنے کا نہیں“ مجھے



دیکھو سخن متروکہ ہو گیا ہوں ص

کہ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہیں پائے بند تر سے

عمر میر ایک ہندو اور ایک مسلمان اخبار پڑھتے رہے لیکن ان دونوں وہ التزام بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اخبار مل گیا، پڑھ لیا۔ نہ ملا تو دوستوں سے خبریں معلوم کر لیں یا ریڈیو سن لیا۔ ان کی سفری کائنات ایک چھوٹا سا بستر، ٹین کا بیمار بکس، بید کی ٹوکری، تانبے کا ٹوٹا اور گول سا پاندان تھا۔ کوئی نئی کتاب ہاتھ آگئی تو جب تک پڑھ نہ لی شریک سفر رہی، ان دونوں اخبار خاطر کا دستخطی نسخہ ہمراہ تھا۔ اس کا مطالعہ شروع کیا تو اپنی کہانی بھی کہنے لگے، حافظہ کی گہ میں کھلنے لگیں انہیں عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور ملتان کے بے شمار شعر، مثنویاں، قصیدے، مسدس، مخمس، نوے، نصتیں، غزلیں، نظمیں از بر تھیں اور مولانا آزاد کی طرح اپنے حافظے پر انہیں بھی بڑا ناز تھا۔

”یہ اشعار آج سے کوئی تیس سال پہلے پڑھے تھے، فلاں شعر شاہ عظیم آبادی سے سنا تھا اب تک یاد ہے، نظیری کے فلاں فلاں شعر نام مرحوم کے بیاض سے نقل کئے تھے میاں افارسی کا ذوق تو اب عنقا ہو رہا ہے، ادھر اردو بھی اب نئے نئے تجربوں کی زد میں ہے۔ شاعری نے ایک نیا بچہ جنا ہے، نظم معری یا نظم آزاد، مرزا غلام احمد کی نبوت اور نظم معری میر سے لئے ناقابل فہم ہیں۔ لعنت بر پدر فرنگ!“

دت العمر پنجابی کی شوخ و شنگ شاعری کا شوق رہا۔ لیکن عمر کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک دفعہ مولانا آزاد کو ہیروارث شاہ کا ایک بند سنایا۔ اس وقت تو مولانا حادثا ہاں میر سے بھائی کہہ کر چپ ہو رہے لیکن ۲۵-۲۶ برس بعد ملے تو فرمایا شاہ جی سا کہ آپ تقریر میں گالی دینے لگے ہو؟

”حضرت، آپ سے کس نے کہا؟“

”میر سے بھائی، نام تو یاد نہیں آ رہا۔ بہر حال کوئی صاحب ضرور تھے۔“

” تو حضرت آپ نے اے بارگاہِ نبویؐ

” میرے بھائی اعتبار کی بات نہیں، ایک زمانہ میں آپ نے ہیر وارث شاہ کے چند شعر سنائے تھے ان میں کچھ ایسے ہی کلمات تھے، میں نے سمجھا شاید زبان لڑکھڑا گئی ہو۔ شاہ جی نے تہقہہ لگایا، مولانا نے تبسم فرمایا اور بات ہوا ہو گئی۔

انہیں بلھے شاہ کی کافیاں اور بابا فرید کا کلام بھی خوب یاد تھا بابا فرید کی زبان دو ضلعی ہے اور مقابلہٴ دشوار۔ بلھے شاہ سریع الفہم ہیں اور ان کے ہاں کھلی صاف گوئی ہے سچ کہندیاں بھانڑ مچا لے

” ہاں بھائی سچ کہنا فرنگی کے دور میں بہت بڑا جرم ہے۔“

” جی نہیں شاہ جی ہر دور میں جرم رہا ہے۔“

” تم ٹھیک کہتے ہو بھائی لیکن ہمارا معاملہ تو اس دور سے ہے۔“

میں چاہتا تھا شاہ جی اس موضوع پر کھلیں اور میں ان پر بزمِ خود ثابت کر لیا کہ انسان کو اس دور میں مقابلہٴ زیادہ حقوق و مراعات حاصل ہیں اور پہلے تمام دور سیاست گھناؤنے اور ڈراؤنے تھے۔ میں نے ان سے کہہ ہی دیا، شاہ جی مسلمان بادشاہوں نے بھی تو راستباز زبانوں کے کاٹنے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی؟ آج جن لوگوں کو تاریخ اسلام کی سب سے بڑی شخصیتیں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ حکام اور عوام نے ایک سا برتاؤ کیا آج استبداد کی اجتماعی حمایت میں کم سے کم عوام تو شریک نہیں ہوتے؟

”سیاں! یہ سب کچھ میں نے بھی پڑھا ہے، تم فرنگی بابا کہہ نہیں جانتے، اس نے روئیں قتل کر دی ہیں، روئیں! اسلام اٹھ گیا مسلمان رہ گئے۔ ہائے اکبر کس وقت یاد آیا دلے میں،

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

افسوس کہ فرعون کو کالچ کی نہ سو جھی

ان کے بھی اکبر الہ آبادی کی طرح احتجاجی لیکن منفی جذبات تھے لیکن دونوں میں

وہی فرق تھا جو ایک مصلح اور انقلابی میں ہوتا ہے۔ اکبر سکا کر چسکی لیتے ہیں شاہ جی جھنجھلا کر تھپیڑ مارتے ہیں۔ ان کے دل میں ہمیشہ کے لئے یہ گرہ پڑ چکی تھی کہ انگریزوں سے بڑا دشمن اسلام کوئی نہیں۔ ان کے سامنے انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے آغاز کی پوری تاریخ تھی۔ انہوں نے سیاسیات میں قدم رکھا تو پہلی جنگ عظیم کے نتائج آنکھوں کے سامنے تھے جو خیالات ورثہ میں پائے وہ استعمار کے مخالف علماء کے خیالات تھے۔ خلافت عثمانیہ جس طرح پارہ پارہ ہوئی اور عرب ملکوں میں قومیت کے نام پر جو گل کھلائے گئے وہ ان کی انگریزوں سے برگشتگی کے لئے کافی تھے۔ ہندوستان میں تحریکِ خلافت اور جلیانوالہ باغ کے حادثے نے مہینوں کا کام کیا۔ نتیجتاً شاہ جی آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑے۔ فرماتے کہ قاسم نانوتوی اور محمود الحسن رحمہم اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا ہے آخرت کی فکر میں اسی پر چل رہا ہوں مجھے اسی کے لئے جینا اور اسی پر مرنا ہے سے

حرف ناگفتہ مجال نفعے مے خواہد

ورنہ مارا بہ جہاں تو سرد کار کجاہست

الغرض ان کی ذات ربیع صدی تک انگریزوں کے خلاف ایک تحریک بنی رہی۔ اس لحاظ سے وہ ایک ادارہ تھے۔ انہوں نے ایسے علاقوں میں انگریز دشمنی کے بیج بوئے جہاں ان کے اپنے الفاظ میں اور گویہ الفاظ کسی قدر سمجھتے ہیں ”پنجابی مائیں بڑھی چاہت سے ٹوڑی بچے جنبتی تھیں“

ایک دوست نے دریافت کیا ”ملکی سیاسیات میں آپ کی کارگزاری (Contribution) کیا ہے اور آزادی ہندوستان کا وہ کون سا مثبت نظریہ ہے جس کے لئے آپ کوشاں ہیں؟“  
 فرمایا، ”یہ فیصلہ تو آپ کیجئے کہ میری (Contribution) کیا ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں نے لاکھوں ہندوستانیوں کے ذہن سے انگریزوں کو نکال پھینکا۔ میں نے کلکتہ سے غیر تک اور سرینگر سے اس کماری تک دوڑ لگائی ہے وہاں پہنچا ہوں جہاں

دھرتی پانی نہیں دیتی۔ رہا یہ سوال کہ آزادی کا وہ کونسا تصور ہے جس کے لئے میں لڑتا رہا تو سمجھ لیجئے کہ اپنے ملک میں اپنا راج۔ آپ غالباً مجھ سے کسی کتابی آئیڈیالوجی کا پوچھ رہے ہیں گے؟ بایں۔ یہ کتابی نظریے عموماً روگ ہوتے ہیں، فی الحال جو مرحلہ درپیش ہے وہ کسی مثبت تصور کا نہیں، منفی تصور کا ہے، ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ غیر ملکی طاقت سے گلو خلاصی حاصل ہو۔ اس ملک سے انگریز نکلیں۔ نکلیں کیا؟ نکالے جائیں، تب دیکھا جائے گا کہ آزادی کے خطوط کیا ہوں گے؟ آپ تو نکاح سے پہلے چھو ہمارے بانٹنا چاہتے ہیں۔ پھر میں کوئی دستوری نہیں سپاہی ہوں، تمام عمر انگریزوں سے لڑتا رہا اور لڑتا رہوں گا۔ اگر اس مہم میں سورجھی میری مدد کریں تو میں ان کا منہ چوم لوں گا۔ میں تو ان چیونٹیوں کو شکر کھلانے کے لئے تیار ہوں جو صاحب بہادر کو کاٹ کھائیں۔ خدا کی قسم میرا ایک ہی دشمن ہے انگریز۔ اس ظالم نے نہ صرف مسلمان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ہمیں غلام رکھا اور مقبوضات پیدا کئے بلکہ خیرہ چشمی کی حد ہو گئی کہ قرآن حکیم میں تحریف کے لئے مسلمانوں میں جعلی نبی پیدا کیا، پھر اس خودکاشستہ لپو سے کی آبیاری کی اور اب اس کو چھیتے بچے کی طرح پال رہا ہے۔ ان کی اس جھنجھلاہٹ میں ایک قسم کی جارحانہ لگن ہوتی جو باتیں اقبال نے فلندرنزنگ میں کہی ہیں اور جن میں ”بیچ و تاب رازمی“ اور ”سوز و ساز رومی“ کی شدت پائی جاتی ہے شاہ جی ان کے انتہک مفسر تھے، اقبال و اکبر کی مثالیں یہاں اس لئے زیر قلم آئی ہیں کہ قارئین شاہ جی کی سیرت کے اس پہلو کو آسانی سے سمجھ لیں۔

اکبر اور اقبال دونوں کا مشن ایک تھا، لیکن دونوں کا طرز بیان ہتفاصد میں ہم آہنگی کے باوصف مختلف رہا۔ اقبال کا انداز عقلی ہے، اکبر کا جذباتی — اکبر نے ایک گرتی ہوئی دیوار سے دل برداشتہ ہو کر گرد و پیش کے ظواہر پر سنگ و لائن قبضہ لگائے تھے لیکن اقبال اس دور کی تمام عصری تحریکوں کے نقاد تھے وہ انگریزوں کے صرف اسی لئے مخالف نہیں تھے کہ انہوں نے کسی مدرسہ فکر سے عقیدے کے طور پر بعض معلوم سچائیاں حاصل کی تھیں ان کی

انگریزوں پر چوٹیں ایک مسلسل مطالعے اور لگاتار شاہد سے کا نتیجہ تھیں۔ مثلاً ایک جگہ فرماتے ہیں سے

کر سے قبول اگر دین مصطفیٰ انگریز

سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام

گویا اقبال کے علم و نظر کی معراج اس خیال پر ختم ہوتی ہے جس خیال کو شاہ جی کے ہاں قریب قریب عقیدہ کا درجہ حاصل تھا اور جو جذبہ سے شروع ہو کر جذبہ ہی پر ختم ہوتا تھا۔

شاہ جی کا یہ جذباتی سراپا انتہائی دلاویز تھا انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف اپنی حید و جہد کی بنیاد محض اس اصل پر نہیں رکھی تھی کہ وہ ایک استعماری قوت تھی اس کا نوآبادیاتی نظام استحصال محض تھا اور وہ دنیا کے سب سے بڑے سامراج کی مظہر تھی۔ ان کی بنیاد و محاسن میں کچھ اور باتیں خاص طور پر نمایاں تھیں مثلاً:

”۱۸۵۷ء کا غدر اور وہ اسے غدر کہنے والوں کو خدا رکبتے۔ سہاد شاہ ظفر کی جد و طفلی“

شہزادوں کا خون و روازوں پر ٹھکایا جانا، آزاد قبائل کے پٹھانوں پر انگریزوں کی مسلسل بباری، گیلی پولی کے مقام پر مصطفیٰ کمال کے خلاف گھوڑوں، ٹوانوں اور نونوں کی نبرد آزمانی، قسطنطنیہ کے بازاروں میں خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کا بائوں سے پکڑ کر گھسیٹا جانا، غلاف کعبہ کا جلنا، مہدی سوڈانی کا خرطوم کے صدر دروازے پر سولی پانا، اس کی لاش کا جلایا جانا اور راکھ کا اڑانا، شاہ عبدالقادر جیلانی کے بغداد پر گولہ باری اور حرم کے کبوتروں کا زخمی ہونا۔ ان سانحات کو قرآن و حدیث کا رنگ دروغن دے کر اس طرح بیان کرتے کہ ہزار بار لوگ گھنٹوں دم بخود بیٹھے رہتے اور ان کے اعجاز بیان پر مردھنتے تھے۔

”شاہ جی اپنی سوانح عمری ہی لکھے؟“

”کس کے لئے؟“

”ہمارے لئے۔“

”آخر تیس بتیس برس تم لوگوں میں جھک مارتا رہا ہوں۔ اس سے تم نے کیا حاصل کیا جواب  
چند اوراق کی کہانی سے حاصل کر لو گے؟“

”اچھا اپنے لئے لکھئے۔“

”میں مکھی مکھائی کہانی ہوں، اپنے تئیں ہر روز پڑھ لیتا ہوں“

بہر حال شاہ جی اس طرح ایک تاریخ ہو جائے گی:

”پھر وہی بات تاریخ کیا؟ اور کس کے لئے؟ پہلے ہی لوگوں نے تاریخ سے کون سا

سبق لیا ہے کہ اب اپنی زندگی لکھنے بیٹھوں؟“

”شاہ جی یہ زبان کا نہیں قلم کا زمانہ ہے!“

”ٹھیک ہے بھائی! لیکن لکھوں کیا؟“

”کچھ تو لکھئے کہ زمانہ گوش بر آواز ہے۔“

”یائے ذوق ساری سوانح عمری تو اس شعر میں کہہ گیا ہے (لئے میں) سے

لانی حیات، آگے قضاے چسپی چلے

اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

”چلئے اسی شعر کو طراز عنوان بنا کر بسم اللہ کیجئے۔“

”خوب! آخر صحافی ہونا، قلم اٹھایا اور صفحوں کے صفحے سیاہ کر ڈالے، زندگی میں محض سوانح

ہی نہیں ہوتے؟ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ بعض گفتنی بعض ناگفتنی۔ ناگفتنی میں کام کی کوئی

چیز نہیں اور گفتنی میں خطرات ہی خطرات ہیں۔“

حاصل عمر مہ سخن بیش نیست

خام بدم پختہ شدیم، سو ختم

آج سے چوتھائی صدی پیشتر ایک سفر شروع کیا تھا۔ تب بے شمار لوگ شریک راہ تھے۔ پھر

پڑاؤ پر مافلہ گھٹا ہی رہا حتیٰ کہ:

منزل عشق پہ تنہا پہنچے، کوئی تناسخ نہ تھی  
 تنگ تنگ کے اس راہ میں آخر اک اک ساتھی چھوٹ گیا  
 کچھ دوست راستہ بدل گئے کچھ اپنے ہی تعاقب میں پیچھے لوٹ گئے، اکثر پھر گئے، بیشتر  
 پھر گئے سے

اے ہم نفساں آتشم از من بگریزید  
 ہر کس کے شود ہمرو ما دشمن غرض است

دوستوں سے فریب نہیں کیا، دشمنوں سے انتقام نہیں لیا۔ ذاتی دشمن بنائے ہی نہیں  
 اور نہ بننے کی کوشش کی۔ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ انگریز دوست ہے اس سے  
 کنارہ کیا۔ جس نے ملی مقاصد سے بدعہدی کی اس سے علیک سلیک کو بھی عار سمجھا، اب اس عمر  
 میں لوگوں اور شہروں کے خمیر و صنیر سے واقف ہو گیا ہوں ع  
 ان کو بہت قریب سے پہچانتا ہوں میں  
 اور جب امید نہیں تو شکایت کس سے ؟ ع

مژدہ باد اہل ریا را کہ زمیدان رفتم

صد بیابان بگزشت و درگے در پیش است — اس سارے سفر کا حاصل  
 ہے لگاتار چالیس برس لوگوں کو قرآن سنایا، پہاڑوں کو سنا تا تو عجب نہ تھا کہ ان کی سنگینی کے  
 دل چھوٹ جاتے۔ غاروں سے ہم کلام ہوتا تو جھوم اٹھتے، چٹانوں کو جھنجھوڑتا تو چلنے  
 لگتے، سمندروں سے مخاطب ہوتا تو ہمیشہ کے لئے طوفان بنا رہ جاتے، درختوں کو کپاتا  
 تو وہ دوڑنے لگتے، کنکریوں سے کہا تو وہ لہیک کہہ اٹھتے، صرصر سے گویا ہوتا تو وہ صبا  
 ہو جاتی، دھرتی کو سنا تا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شکاف پڑ جاتے، جنگل لہرانے  
 لگتے، صحرا سرسبز ہو جاتے، افوس میں نے ان لوگوں میں معروفات کا بیج بویا جن کی  
 زمینیں ہمیشہ کے لئے بنجر ہو چکی تھیں۔ جن کے صنیر قتل ہو چکے تھے،

جن کے ہاں دل و دماغ کا قحط تھا، جن کی پستیاں انتہائی خطرناک تھیں جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے جن میں ٹھہرنا المناک اور جن سے گزر جانا طرب ناک تھا، جن کے سب سے بڑے معبود کا نام طاقت تھا جو صرف طاقت کی پوجا کرتے تھے، تیرہ سو برس کی تاریخ انہی حادثوں کی کہانی ہے، انہی چھپوے، ناممجھ نازک اور متحرک جانوروں کو دیکھ کر ذرشت نے کہا تھا کہ اس کا آنسوؤں اور گیتوں کی طرف میلان ہوتا ہے۔۔۔ یہاں امرار دوزخ کے کتے اور سیاست دان کھٹی قے ہیں، ان کے ساتھ نٹ اور ان کے پیچھے لاشیں چلتی ہیں ان کی واحد خوبی یہ ہے کہ ہر نیکی اور ہر برائی کی زبان میں جھوٹ بولی لیتے ہیں۔

میاں بابو! ڈھونڈ سکتے ہو تو ان افکار میں میری سوانح عمری کی بنیادیں ڈھونڈ لو

نہ تاشس کی تمنا نہ صلے کی پروا

اور نظریہ ظاہر گرامی کا یہ معترض بھی اسی اجمال کی شرح ہے

زدی کشتی شکستی سوختی انداختی رفتی

الغرض انہیں اپنی ناکامیوں کا شدید احساس تھا اور اس آزدگی کے آٹاؤں آخر عمر میں ان کے چہرے پر آگے تھے، ان کی متحرک اور روشن آنکھیں جن میں عمر ڈھلنے تک ساری ساری متی شراب کی سی تھی بالآخر اندر کو دھنسن گئی تھیں، ان کے ماتھے کی بے شمار سلوٹوں میں ہر میت کی ترشی منجھ ہو گئی تھی اور سلوٹیں اپنے ماضی کے بوجھ سے مضمحل تھیں، آواز میں کراہا پن آخر تک رہا لیکن کمر کی خمیدگی پکار رہی تھی

لگا کے آگ مجھے کارواں روانہ ہوا

۱۹۴۷ء کا زمانہ رستخیز۔ سب سے طویل عرصہ تھا جو انہوں نے ایام ہتھیہ سے

قطع نظر ایک ہی جگہ نشست جھا کر بسر کیا، چند ماہ دفتر احرار میں رہے اور اس آٹا میں کتاب کے جتنے ورق تھے ایک ایک کر کے کھل گئے۔ وہ اپنی کہانی لکھتے تو حقیقتہً بڑے بڑے وقائع نگاروں کا اثاثہ مفلس کا چراغ ہو جاتا مگر انہوں نے ہندوستان کا ہر کونہ کھرا چھان مارا۔



وہ بعض صوبوں ہی کی نہیں بلکہ شہروں، قصبوں، گاؤں اور بازاروں تک کی بولی ٹھولی محاورہ و روزمرہ جانتے تھے۔ انہوں نے انگلیوں پر گنتی ہوتی کتابیں پڑھی ہوں گی لیکن انسان اتنے پڑھے تھے کہ ہندوستان میں کوئی بڑے سے بڑا عوامی لیڈر بھی اس خصوصیت میں ان کا ہمسرہ نہیں تھا۔ اس دوڑ میں وہ مہاتما گاندھی اور قائد اعظمؒ سے بھی منزلوں آگے تھے لیکن گاندھی جی کے الفاظ میں تالیاں پیٹنے والے مسلمان ان کے ساتھ تھے اور ووٹ دینے والے قائد اعظمؒ کے ساتھ۔ انہیں ہندوستان کی بہت سی زبانوں پر قدرت حاصل تھی، ہزاروں لطائف یاد تھے۔ حاضر جوابی اور برجستہ گوئی میں اتنے مستعد کہ ان سے کئی کتابیں سر تپ ہو سکتی تھیں۔ پنجاب کی بعض اضلاعی بولیاں رگ و پے میں خون کی طرح دوڑتی تھیں۔ ان کی گفت گو سے یہ پہچانا مشکل تھا کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اُردو بولتے تو اہل زبان کا لب و لہجہ کھلا جاتا۔ قرآن پڑھتے تو قرآت سے عرب ہونے کا دھوکا ہوتا۔ پنجابی بولتے وقت منہ سے موتی جھرتے، غرض ہر نگہ کی بولی ٹھولی نوک زبان تھی عجب

اسے تو مجموعہ خوبی بچہ نامت خوانم

اکثر شخصیتوں کے قرب سے ان کا طبع اُتر جاتا ہے لیکن شاہ جی کے قرب سے ان کا سونا اور دکنا، وہ بے پناہ تھے۔ ایک زندگی میں بہت سی زندگیاں جمع ہو گئی تھیں۔

راجندر بابو نے گاندھی جی کے سوانح عمری کے دیباچے میں لکھا ہے :

”ان کے حالات زندگی کھنا ایسا ہے جیسے تیرتھ یا تارا“

شاہ جی تیرتھ نہ تھے لیکن ان کی یا تارا سے ایک ایسے تیرتھ کا احساس ضرور ہوتا تھا

جس میں صدیوں سے ایک ہی آواز گونج رہی ہو

تیز رکھنا سر پر خار کو اسے دشت جنوں

شاید آجائے کوئی آبلہ پا میرے بعد



# خاندانی حالات

## نام و نسب

نام دوھیال کی نسل سے عطار اللہ شاہ بخاری، ننھیال کی طرف سے شرف الدین احمد باپ کا نام ضیا الدین احمد (رحمۃ اللہ علیہ) دادا کا نام نور الدین احمد (نور اللہ مرقدہ) پردادا کا نام سید محمد شاہ ۱۰ ان سید محمد شاہ کے پانچ بیٹے تھے، دو لاولد رہے تین کے اولاد ہوئی۔ شاہ جی کے دادا کے ایک بھائی سید حیدر شاہ کا ایک بیٹا سید مقیم شاہ بنگال پولیس میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ تھا، اس کے پاس خاندان کا شجرہ محفوظ تھا لیکن برعظیم کے بٹوارے میں حوادث کی نذر ہو گیا، معلومات ذیل کچھ تو افراد خاندان کی فراہم کی ہوئی ہیں اور کچھ منشی محمد دین فوق کی تالیف "تاریخ کشمیر" سے ماخوذ ہیں۔

شاہ جی کا سلسلہ نسب ۳۹ ویں پشت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ سید عبدالغفار بخاری اپنے والد ماجد سید محمد شاہ بخاری کے ہمراہ بخارا سے کشمیر میں وارد ہوئے، اس وقت کشمیر میں مسلمانوں کی فرمانروائی تھی۔ اپنے ظلم و تدبیر کی بدولت سید عبدالغفار شاہ بخاری درس و قضا کے عہدہ پر فائز ہو گئے اور بڑا نام پایا۔ سید عبدالغفار امام حسن کی چوبیسویں اور شاہ عبدالقادر جیلانی بغدادی کی تیرھویں پشت سے تھے۔ انہی شاہ صاحب کے خویش کشمیر سے اٹھ کر گجرات اور امرتسر میں آباد

ہو گئے ، پھر بیعت و ارشاد کے سلسلے میں دہلی سے پٹنہ چلے گئے اور وہاں لوگوں کی عقیدت مندی کے باعث سکونت اختیار کر لی۔ فی الجملہ ایک خاندان کئی شاخوں میں منقسم ہو گیا۔

شاہ جی کے فرزند ارجمند سید ابوذر بخاری (سید عطا المنعم بخاری) نے اپنے والد کے مجموعہ کلام ”سواطع اللہام“ میں دیباچہ کے تحت ناندان کے حالات پر جو اشارات مرتب کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ، مثلاً شاہ عبد القادر جیلانی (بغدادی) جنہیں عراق میں پیر ہندیاں کہتے ہیں اور یہاں ان کے نام سے گیارہویں شریفینہ ہوتی ہے۔

سید اکمل الدین محمد بخاری اس خاندان کے پہلے فرد تھے جو تلاشِ مرشد کے سلسلہ میں دہلی گئے اور وہاں سید غلام علی شاہ سے بیعت ہو کر فرقہٴ خلافت حاصل کیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں ضلع گجرات موضع سرہالی پنجاب میں آباد ہو گئے۔ انگریزی عملداری کے وقت نقل مکانی کر کے اس ضلع کے ایک دوسرے گاؤں ناگڑیاں چلے گئے تب سے اب تک یہ خاندان وہیں آباد ہے۔ سید اکمل الدین محمد بخاری کا وصال امرتسر میں ہوا تھا۔

شاہ جی کے دادا نور الدین شاہ بخاری حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ الرحمۃ سے بیعت تھے ، کہا جاتا ہے کہ نور الدین شاہ سے بیعت کے لئے سیال شریف پہنچے تو خواجہ صاحب تعظیماً کھڑے ہو گئے ، کچھ دنوں مہمان رکھا پھر پروانہ خلافت اور سند ارشاد دے کر رخصت کیا۔ اتفاقات حسنہ ملاحظہ ہوں کہ شاہ جی کے دادا سیال شریف سے بیعت تھے اور حضرت سید مہر علی شاہ صاحب گورڈھ شریف بھی وہیں سے بیعت تھے۔ شاہ جی نے اولاً سید مہر علی شاہ سے گورڈھ میں بیعت ارشاد کی تھی۔

شاہ جی کے اعزہ میں سے ایک صاحب سید ہارون شاہ کا بیان ہے کہ ہمارے بزرگ بخارا سے کشمیر پہنچے ، وہاں برسوں قیام کیا پھر پنجاب چلے گئے ، پنجاب سے کاروبار کیلئے دہلی اور پٹنہ کا رخ کیا اور وہاں آباد ہوتے گئے۔

سید نور الدین شاہ کے ہزاروں مرید تھے وہ کسی مرید سے بھوٹی کوڑھی نہ لیتے، خود کاتے اور کھاتے، انگریزوں نے پنجاب پر قابض ہونے کے فوراً بعد زرعی نظام کی تنظیم جدید کے لئے زمینوں کی پیمائش کرائی تو ایک اہل کار نے جو آپ کے روحانی کمال سے متاثر تھا عرض کیا آپ جتنی زمین چاہیں اس پر قبضہ کر لیں، اندراجات میرے سپرد ہیں، آپ کے حسب منشا خانہ پڑھی ہو جائے گی لیکن شاہ صاحب نے انکار کیا اور فرمایا: تمام زمینیں اللہ کی ہیں، ان پر ذاتی ملکیت کی مہریں لگانا شرعاً ناجائز ہے۔ ان کے سرکاری چھوڑ کر ناگڑیاں میں آباد ہونے کا باعث بھی یہی تھا کہ اس وقت بہت سے لوگوں نے اس طرح چھوٹ موٹ سے زمینیں حاصل کی تھیں۔

### شاہ جی کا نھیال

شاہ جی کی والدہ سیدہ فاطمہ اندرابی حکیم سید احمد اندرابی کی صاحبزادی تھیں۔ حکیم صاحب طلبہ کالج کمسنو کے فارغ التحصیل تھے اور مروجہ علوم میں دست گاہ رکھتے تھے۔ علم دین سے گہرا لگاؤ تھا۔ آواز میں قدرت نے جادو بھر دیا تھا، شاہ جی ان کی آواز کے سحر کا ذکر بڑے مزے سے کرتے اور فرماتے کہ میرے گلے کی دلفریبی نانا ہی کا صدقہ ہے۔ سید ابو ذر بخاری کا بیان ہے کہ اندرابی خاندان سے خاندانی تعلقات کشمیر ہی سے چلے آ رہے تھے۔ شاہ جی کے والد سید ضیاء الدین ابھی نابالغ ہی تھے کہ اپنے تباہ سید پر شاہ بخاری اور اپنے چچا سید حیدر شاہ بخاری دو والد سید مقیم شاہ بخاری، کے ہمراہ پشمینہ کی فروخت کے لئے پٹنہ جاتے تو ان حکیم صاحب کے ہاں ٹھہرتے، حکیم صاحب نے ایک روز سید ضیاء الدین کو اپنی فرزندگی میں لے لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ اندرابی سے ان کی شادی کر دی۔ ان دنوں رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، سید ضیاء الدین نے چوک بازار پٹنہ کی مسجد خواجہ عنبر میں اپنی کسنی کے باوجود ایک ہی رکعت میں ۲۶ پارے ختم کئے اور مقتدیوں کو حیرت میں ڈال دیا۔

مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے دادا مولانا محمد رحمت اللہ کی یادداشتوں میں

درن ہے کہ وہ ۱۵۴ھ کی ساڑھ سستی کے بعد پٹنہ میں مقیم تھے وہاں انہوں نے سید ضیاء الدین سے کہ اس وقت ان کی عمر ۱۹ سال تھی ایک رات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک شامتا۔ شاہ جی کے نھیالی سلسلے میں۔ باب سے پہلے میر سید عبدالسبحان اندرابی نے ڈوگرہ راج کے مظالم سے عاجز آکر ترک وطن کیا اور کچھ دنوں شاہ جی کے بزرگوں کے ساتھ ان کے گاؤں میں ٹکے رہے۔ پھر پٹنہ چلے گئے، ان میر سید عبدالسبحان ہی کی پوتی شاہ جی کی والدہ تھیں۔ سید فاطمہ اندرابی کی والدہ (شاہ جی کی نانی) حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی نواسی تھیں۔

### خواجہ باقی باللہ

حضرت خواجہ باقی باللہ کامرتہ ہندوستان کے اہل اثنہ میں بہت ہی بلند ہے۔ کل اکتالیس برس کی عمر پائی لیکن اپنے پیچھے جو ورثہ چھوڑا اس پر کسی عمر میں قربان کی جاسکتی ہیں۔ کابل میں پیدا ہوئے۔ اصل نام رضی الدین تھا لیکن باقی باللہ کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کے والد قاضی عبدالسلام اہل علم میں سے تھے۔ بیٹے کو بھی اسی ڈوگرہ پر ڈالا۔ پیٹے خود پڑھانے سے پھر ملا صادق ملوانی کے تلمذ میں دسے دیا۔ ملا صاحب کابل چھوڑ کر ماورالنہر چلے گئے تو خواجہ بھی ہمراہ تھے۔ وہاں ایک مجذوب کی بدولت کتابوں سے ہاتھ اٹھایا اور مُرشد کی تلاش میں نکل گئے فقرا و مشائخ کے عروج کا زمانہ تھا۔ کچھ غصہ ماورالنہر کے مشائخ کی صحبت میں رہے مگر گوہر مقصود نہ پایا۔ اسی اثنا میں امیر عبداللہ بلخی سے فیضان حاصل کیا اور طبیعت میں استقامت نے راہ پائی۔ مگر داخلی اضطراب جوش پر رہا، آخر ہندوستان پہنچے۔ یہاں کشمیر میں بابا بھائی کشمیری سے فیض حاصل کر رہے تھے کہ مرزا یادگار نے بابا صاحب کو زہر دلو کر مار ڈالا۔ چارونجاچا وہی کا قصد کیا۔ وہاں چشتیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں قیام فرمایا اور حضرت شیخ کے فرزند خواجہ قطب العالم سے رجوع کیا۔ ایک رات حضرت قطب العالم پر منکشف ہوا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کو مشائخ بخارا ابلا تے ہیں، آپ نے فوراً ہی انہیں مطلع کیا اس وقت

خرقہ موجود نہ تھا۔ ایک ازار تختی وہ دسے کر روانہ کر دیا۔ خواجہ صاحب بخارا پہنچ کر خواجہ املنگی کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کو محنت اور توجہ سے نقشبندی سلسلے کی تعلیم دی اور فرمایا کہ ہندوستان کو آپ کی ضرورت ہے وہاں جاؤ اور خلقِ خدا کو فیض یاب کرو۔ خواجہ سمرقند سے پشاور پہنچے۔ وہاں سے لاہور، جہاں سال بھر قیام کیا اور وہاں چلے گئے۔ وہاں فیروز شاہ کے قلعے میں مقیم ہوئے۔ اکبر کا آخری دور تھا اور آپ بھی کچھ زیادہ عمر لے کر نہ آئے تھے فوراً ایسی دربار اکبری کی بدعات روکنے کے لئے مفاہمانہ لیکن مضبوط اور مختلف قدم اٹھایا۔ نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اہل دربار سے بگاڑ مناسب نہیں، فی الحال ان سے تعلق پیدا کر کے ہی درباری گراہیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ افسوس عمر نے وفات کی چار پانچ سال کام کیا ہوگا کہ سفرِ آخرت پیش آگیا۔ لیکن اس مختصر سی مدت میں بھی ملتِ اسلامیہ کو جو فیض پہنچا اس کی نظر لوہے سے ہندوستان میں نہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی آپ ہی سے بیعت تھے۔ حضرت مجدد نے تاجین حیات آپ سے فیض حاصل کیا جس کا اعتراف انہوں نے اپنے مختلف مکاتیب میں کیا ہے۔ بعض امرائے سلطنت بھی آپ کے مریدوں میں سے تھے جن سے سلسلہ چشتیہ کو کا حقدانہ پہنچا۔ مثلاً:

۱۔ شیخ فرید الدین شہنشاہ اکبر کے عہد میں ڈیرہ ہزاری منصب سے دیوانِ تن کے عہدہ پر پہنچے، کئی مہینے سرکین، جن میں افغانوں کی سرکوبی، کشمیر کی فتح اور اسیر گروہ کا محاصرہ نمایاں، میں۔ جہانگیر کی تخت نشینی پر شیخ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔ حتیٰ کہ تمام اعیان سلطنت میں بازی لے گئے۔ صاحبِ سیلف و قلم کا خطاب ملا۔ ڈیرہ ہزاری سے پنج ہزاری ہو گئے۔ شہزادہ خسرو کو شکست دی۔ جہانگیر نے خوش ہو کر نواب مرتضیٰ خان کا خطاب دیا اور ہجرات کا صوبہ دار مقرر کیا۔ کوئی چار سال بعد پنجاب کا گورنر بنا یا۔ آخر اسی عہد سے پر پٹھانکوٹ میں داعی اجل کو لبیک کہا اور وصیت کے مطابق وہاں میں دفن کئے گئے۔ آپ ان اکابر سلطنت میں سے تھے جنہیں قدرتِ اقدار کے ساتھ فقر بھی عطا کرتی ہے اور جن کی درویشانہ فیاضیاں اس زمانہ میں زبانِ زد عام تھیں۔ حضرت مجدد الف ثانی نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی روایت سے لکھا

ہے کہ شیخ فرید کے متفوق ہم سب پر ثابت اور مقرر ہیں کیونکہ ان سے نقشہ بندی جمعیت کو استحکام حاصل ہے۔

۲۔ قلیچ خان حاکم پنجاب جس کی بیٹی سے اکبر کا بڑا لڑکا دانیال بیابا ہوا تھا بروز کوئی گھنٹہ بھر فقہ و تفسیر کا کلاس دیتا۔ اہل لاہور اس کی وسعت نظر اور فراخ دلی کے گرویدہ تھے

۳۔ مرزا عبدالرحیم خان خاناں جو ہریم خان کے بڑے چاچے میں بمقام لاہور پیدا ہوا۔ اس کی علم دوستیاں کسی تعارف کی محتاج نہیں — ہر کوئی ان سے آشنا ہے۔

۴۔ مرزا حسام الدین جن کے والد کی بابت بدایونی نے لکھا ہے کہ دربار اکبری میں سجدہ زمین بوسی کا بانی تھا۔ شیخ مبارک کا دادا اور ابوالفضل و فیضی کا بہنوئی تھا اس کو باپ کی وفات پر موروثی منصب ملا۔ خانخاناں نے بہتیرا روکا لیکن دیوانہ ہو کر گلی کوچوں میں گھومنے لگا۔ کچھ دنوں بعد وہلی کا قصد کیا وہاں باقی باللہ سے بیعت کی جب حضرت خواجہ اللہ کو پیار سے ہو رہے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت خواجہ کے دونوں بیٹے خواجہ کلاں اور خواجہ خور داپ کی وصیت کے مطابق حضرت مجدد الف ثانی کے حلقہ رشد میں تھے لیکن ان کی عام نگرانی کے فرائض مرزا حسام الدین کے سپرد تھے۔ انہی خواجہ خور د سے شاہ ولی اللہ کے والد شیخ عبدالمعین نے چند سبق پڑھے تھے اور فیض حاصل کیا تھا۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے پوتے شیخ عبدالغنی صدر الصدور بھی حضرت خواجہ باقی باللہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔

شیخ قطب عالم کے ذکر میں آچکا ہے کہ ان کے والد حضرت شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں حضرت خواجہ نے کچھ دن گزارے اور شیخ قطب عالم سے استفادہ فرمایا۔ انہی شیخ قطب عالم کے فرزند شیخ رفیع الدین کا وہلی سے باہر اعظم پور میں نکاح تھا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت خواجہ شریک ہوں۔ آپ نے صنعت و معاملات کے باعث معذرت چاہی۔ شیخ نے مننے، کہنے لگے آپ نہیں آتے تو میں شادی نہیں کروں گا؟ راضی ہو گئے، نکاح پڑھایا۔ اس زوجہ سے شیخ رفیع الدین کے ہاں جو بیٹی پیدا ہوئی اسے شاہ ولی اللہ مبیا لگانہ عصر پوتا عطا ہوا۔



وہ جو کہتے ہیں کہ خون نسلاً بعد نسل بولتا ہے غلط نہیں، بعض خصائص فی الواقعہ قدرت کاملہ کی طرف سے اہل اللہ کی اولاد کو جنم دیا کلاً ودیعت ہوتے ہیں۔ اس مادی دنیا میں روحانی تصرفات کی یہ باتیں بظاہر عجیب و غریب نظر آتی ہیں لیکن بہر حال تو شقی آثار و مظاہر موجود ہیں۔ شاہ جی اور ان کے بزرگوں کی زندگی میں اکثر باتیں آج بھی ایک گونہ مماثلت رکھتی ہیں۔ مثلاً خواجہ باقی باللہ نے ہندوستان میں پہلے پہل جن بزرگ سے تعلق پیدا کیا وہ ۱۔ خواجہ عبید اللہ احرار تھے۔ آپ نے سلسلہ الاحرار کے نام سے رباعیات بھی لکھی ہیں جن میں سے ایک رباعی یہ ہے۔

ایں تکہ کہ من ز دم بنام فقر است

وین روشنی از نور تمام فقر است

برخیز درہ خواجہ احرار بگری

کان راہ ز سرحد مقام فقر است

شاہ جی سراپا احرار اور احرار ان کی تمام زندگی کے برگ و بار تھے۔

۲۔ خواجہ باقی باللہ علوم متداول حاصل کر رہے تھے کہ ایک مجذوب صد ادیتا ہوا گنہ گراہ

درکنز و جدایہ نتوان دید چندان را

آئینہ دل ہیں کہ کتابے بہ ازیں نیست

خواجہ نے کتابوں کو طاق پر رکھا اور کتاب دل سے معاملہ کر لیا۔ حضرت شاہ صاحب بھی

کسی باقاعدہ مدرسہ کے طالب علم نہ تھے اور نہ علوم متداولہ ہی میں سند یافتہ تھے لیکن آئینہ دل ہیں کہ کتابے بہ ازیں نیست سے بہرہ مند و روافی پایا تھا۔

۳۔ حضرت خواجہ نے مرشد کے ارشاد پر لاہور میں سال بھر قیام کیا اور ہمیشہ خلفا پر زور

دیتے رہے کہ پنجاب میں ارشاد و ہدایت کا بیڑا اٹھائیں چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی کو اقل

اقل لاہور ہی کے لئے نامزد فرمایا جو آپ کے وصال تک لاہور ہی میں مقیم تھے۔

شاہ جی نے بھی تبلیغ کی ساری عمر پنجاب میں گزار لی۔ حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پانچ سو علمائے انجمن خدام الدین کے سالانہ جلسہ منعقدہ لاہور میں آپ سے بیعت کی اور اسی جلسہ میں آپ کو امیر شریعت منتخب کیا گیا۔

حضرت خواجہ نے اپنے ملفوظات میں حضرت مجدد الف ثانی کو لکھا ہے۔

”اگر سخن و وعظ کا اتفاق ہو تو بطور علما کے کہنا بطور صوفیا کے نہیں“

شاہ جی کی ساری زندگی اس کا آئینہ رہی، وہ علم و تصوف کا سیاسی مرقع تھے، ان میں حضور سے غیب، عین سے علم، اور شہود سے استدلال کی رنگارنگی سمٹی ہوئی تھی۔ لیکن ان میں سلوک و طریقت کے وہ طریق بالکل نہ تھے جن سے شیئت کو آب و دانہ ملتا ہے۔

خواجہ دنور اللہ مرتدہ، کا مقولہ ہے کہ حاصل سلوک تہذیب الاخلاق ہے، شاہ جی عملاً اس قول کا عکس تھے۔ فرق یہ تھا کہ زمانہ سابق میں مشائخ و علما کے حدود و فرائض اب سے مختلف تھے۔ کبھی اصلاح احوال مقصود تھا۔ شاہ جی کے زمانے میں انقلاب احوال مقصود رہا۔

غرض بر دور میں اس خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد فقر و استغنا میں ممتاز تھا اور حسب توفیق فکر و نظر کی لادینی کے خلاف جہاد کرتا رہا۔

## ولادت

شاہ جی یکم ربیع الاول ۱۳۱۰ ہجری (۱۸۹۱ عیسوی) کی چاند رات کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ چار برس کے تھے کہ والدہ کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ شاہ جی کی بیٹی ام کنیل نے اس کتاب کی اشاعت اول کے بعض مندرجات پر مولف کی بیوی کو ایک خط میں لکھا ہے کہ ”دادا مرحوم (شاہ جی کے والد) نے بیٹے کو ۹ برس کی عمر تک خود ہی پالا پوسا اور خواجہ عنبر کی مسجد میں اپنے ساتھ سلاتے رہے پھر جب ابا جی کی عمر نو اور دس برس کے درمیان ہوئی تو دادا جی نے پنجاب اگر دوسرا عقد کیا۔ ہماری یہ دادی رشتہ میں پر دادا کی بھتیجی تھیں۔ متوڑا عرصہ بعد دادا اپس پٹنہ گئے وہاں ہماری ان دادی صاحبہ کے بطن سے ایک چچا

اور ایک پھوپھی پیدا ہوئے، چچا بفضلِ تعالیٰ حیات ہیں اور گجرات میں بڑائی کی دکان کرتے ہیں۔ پھوپھی اللہ کو پیاری جو چکی ہیں۔ چچا کا نام سید عطاء الرحمن بخاری ہے۔

اباجی کی عمر سترہ یا اٹھارہ برس کی تھی کہ دادا جان کے ہمراہ ۱۱۱۳ھ میں پنجاب آگئے۔ دادا جان نے تو اپنے آبائی گاؤں ناگڑیاں (ضلع گجرات) میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہیں ۱۹۱۹ء میں واصل بحق ہوئے لیکن اباجان نے ۱۹۱۴ء سے امرتسر میں قیام کیا اور وہیں کے ہو گئے۔ پاکستان بن رہا تھا کہ امرتسر سے اٹھ کر لاہور آگئے اور دو چار ماہ لاہور میں قیام کیا پھر نوابزادہ نصر اللہ خان کے گاؤں خان گڑھ چلے گئے وہاں چند مہینے قیام کیا پھر ملتان میں آکر آباد ہو گئے اور وہاں ۹ ربیع الاول ۱۳۶۱ھ (۲۱ اگست ۱۹۶۱ء) کو چھ بجے شام واصل بحق ہو گئے۔ کل من علیہا فان۔

### تعلیم و تربیت

شاہ جی کسی بھی روایتی مدرسہ کے فارغ التحصیل نہ تھے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو مادرزاد عبقری ہوتے اور جن کی تربیت، سدا فیاض کرتا ہے اس ضمن میں چند باتیں واضح ہیں۔ مثلاً

- ① شاہ جی کے ننھیال اور دوہیال میں پنجاب اور بہار کا جغرافیائی فاصلہ تھا۔
- ② وہ اپنے ننھیال کی اکلوتی بیٹی کے ذمہ نہ تھے، ان کی والدہ رملت کرگنیں تو ان کی عمر چار سال تھی۔ نانی اماں نے آغوش میں لے لیا۔ ان حالات میں وہ بہم وجہ مدرسہ کی تعلیم سے محروم ہو گئے۔
- ③ ایک تو حالات حسب حال نہ تھے دوسرے والدہ کی وفات سے پیش آمدہ حالات کے نتیجہ میں مدرسہ کی تعلیم کا ہاتھ آنا مشکل ہو گیا تھا۔
- ④ انگریزی مدرسوں میں ان کے داخلہ کا سوال ہی نہ تھا کیونکہ جس خاندان سے تعلق تھے وہاں انگریزی مدرسوں میں داخلہ خارج از بحث تھا۔

⑤ اس زمانہ میں ایک خاص نمبر تک شرفار کے بچے گھروں ہی میں تعلیم حاصل کرتے اور بڑی بڑھیوں سے زبان و مادہ سیکھتے تھے۔

شاہ جی کی بیٹی صاوقہ بانو دام کفیل نے مولف کی اہلیہ کو لکھا ہے :

”اباجی کا ادبی ذوق نضیال ہی کی مجالس میں نکھرتا تھا، فرماتے ناموں اور ہم بیٹھ جاتے۔ گئی رات تک بیت بازی ہوتی، فارسی کتابیں نضیال ہی میں پڑھیں، خواجہ عنبر کی مسجد میں ایک مکتبے (نام بھول گیا) ان سے ابتدائی کتابیں پڑھیں، پنجاب آگئے تو گھر سے نزدیک موضع راجووالی میں قاضی عطا مہر کے ہاں پڑھنے جاتے رہے۔ ۱۹۱۴ء میں امرتسر کی سکونت اختیار کی تو وہاں حضرت مولانا نور احمد سے تفسیر قرآن پڑھنی، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی سے فقہ اور حضرت مفتی محمد من سے مریش (مسلم) پڑھتے رہے، حضرت مولانا حبیب الرحمن کی سے بھی استفادہ کیا۔ قرآن پاک داداجی سے حفظ کیا، دادا، دو یا تین بجے شب بگاڑتے، دوپا سے منزل سننے اور سلامیت پھر نماز فجر کے لئے اٹھانے، نماز پڑھ چکے تو سبق ہوتا۔

ذلیف عبد الجبیب (سلطان ترکی) کی اولاد کے اتالیق کویت کے ایک قاری سید محمد عمر عاصم کسی وجہ سے سلطان کی خفگی کا شکار ہو کر ہندوستان آگئے۔ پٹنہ میں قیام کیا اور خواجہ عنبر کی مسجد میں قرآن پاک پڑھانے لگے، غضب کے خوش الحان تھے، تلاوت کرتے تو مسجد کے دروازہ پر مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کی بھیڑ لگ جاتی۔ ہندو دیویاں ان سے بچوں کو دم کرائیں سارے شہر میں ان کا چرچا ہو گیا۔ اس زمانہ کے روساء و مشرفانے انہیں آنکھوں پر بٹھایا اس وقت شاہ جی عمر کے ابتدائی سفر میں تھے ایک دن شاہ جی ان قاری کی نقل کر رہے تھے کہ ان کی نگاہ میں آگئے، وہ بہت خوش ہوئے اور شاہ جی کو فنِ قرأت سکھانے کے لئے اپنے تلمذ میں لے لیا۔ نتیجتاً شاہ جی اس باب میں یکتا ہو گئے، قاری محمد عمر عاصم کچھ عرصہ بعد کویت لوٹ گئے، ایک زمانہ میں امرتسر کے مولوی عبداللہ ڈار کویت گئے تو قاری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ قاری صاحب نے ان سے پوچھا ایک نوجوان سید عطاء اللہ شاہ بخاری مجھ سے پڑھا

کرتا تھا اس سے واقف ہو چکا مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ اب ملک گیر شہرت کے مالک ہیں۔ پورا ہندوستان ان کا شہ ائی ہے، قاری بہت خوش ہوئے۔

شاہ جی فرماتے تھے کہ نانی مرحومہ سے اردو بول چال میں صحت پیدا کی شاد عظیم آبادی کی ادبی شہرت کا آغاز تھا وہ زبان و موارہ کی سند و تحقیق کے لئے اکثر نانی اماں سے مشورہ کرتے اور مستفیض ہوتے تھے۔ ہم شاہ جی شاد کی صحبتوں میں رہ کر زبان و بیان میں اتار د ہو گئے اور ذہانت و ذکاوت کے فطری انعام نے طبیعت میں چار چاند لگا دیئے۔

### پنجاب میں آمد

پنجاب آنے کی ایک روایت اور نقل ہو چکی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ شاہ جی والد کی اجازت کے بغیر ٹیپہ سے روانہ ہو کر امرتسر پہنچے اور وہاں اپنے ایک قرابت دار سید اسد اللہ شاہ بخاری کے ہاں چلے گئے، ان سے کہا کہ میں سید منیا الدین شاہ کا بیٹا ہوں اور ان کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، شاہ جی فرماتے تھے کہ اس وقت ان کی عمر ۲۱ سال ہو گی، اس لیے سفر میں صعوبتیں سہیں مثلاً بنارس میں چنے والی مسجد سے متصل میاں شاکر اللہ کے ہاں پانڈی کے ورق کوٹ کر روزی پیدا کی، میاں صاحب کو کشتی لڑنے لڑانے کا شوق تھا ان سے ڈنڈ پلنا سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ امرتسر آ کر یہ شوق تو ختم ہو گیا لیکن بدن کسرتی تھا ورزش کرتا رہا جسم و جان تندرست رہے۔ فرماتے ادا اہل عمر میں مجھے تنگیں لڑانے اور کبوتر لڑانے کا بھی بہت شوق تھا لیکن آبا جان سے چوری چھپے۔ ابا ادھر ادھر ہوتے تو ماموں جان سے مل کر کھٹے پر تنگیں لڑاتا۔ بسا اوقات بیچ اس لئے کٹ جاتے کہ ابا جان دکھائی پڑتے اور ہم جھٹ سے نیچے آ کر گھر میں حفظ کرنے لگتے جب تک ان کا چہرہ مستم نہ ہو خوف ہی رہتا، مبادا دیکھ لیا ہو اور پٹائی ہو۔

شاہ جی آخر عمر میں بالخصوص جب ہندوستان بٹ رہا تھا ان گئے دنوں کو یاد کرتے اور عمر رفتہ کے تذکرہ سے خوش ہوتے تھے، ان کے تحت الشعور میں پنجابی ہونے سے کہیں اپنے

بہا رہی ہونے کا احساس تھا۔ وہ نانی اماں کی زبان دانی سے فیض پانے پر فخر کرتے اور شاد و عظیم آجوسی سے اپنی ہم صحبتی و ہم سخن کی واقعات بڑے کرو فخر سے بیان کرتے جہاں تک اردو زبان سے آشنائی کا تعلق تھا وہ کسی بھی اہل زبان سے اپنے تئیں کم نہ سمجھتے تھے اپنی زبان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ع

مستند ہے میرا فرمایا ہوا

اور یہ غلط نہ تھا۔

## احساس شرف

شاہ جی میں گدی نشینوں کی سہی انسان آزاری بالکل نہ تھی البتہ ان میں اپنے سید ہونے پر جانز فخر تھا اور اکثر اس فخر و شرف کا تذکرہ کرتے۔

ایک دن ویلی دروازہ کے باغ میں مدح صحابہ پر تقریر کر رہے تھے کسی نے اعتراض کیا۔

شاہ جی! غضب کرتے ہو سید ہو کے ابو بکر و عمر و عثمان کی مدح!

یس تا ویں آگے اپنے گنگھ مایلے بانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا:

”تم کون ہو مجھے ٹوکنے والے، جاؤ میں علی کا بیٹا، ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ وتعلیٰ

اجمعین کی مدح کرتا ہوں۔ یہ علی کا بیٹا ہی جانتا ہے کہ ان کا تہ کیا ہے، ایرے غیر سے پوچھ لیا

کیا جانیں کہ شیخین کا مقام کیا ہے؟

فرماتے:

مسلمانوں کے معاملات شروع ہی سے بگڑے ہوئے ہیں وہ قال الرسول پر ایمان لاکر

بھی آل رسول کو ذبح کرتے رہے ہیں۔ سید ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی ناکامیوں پر ذرہ برابر

ملال نہیں، ہمارے ساتھ ہی ہوتا رہا اور یہی ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں نے جن لوگوں کی دین میں

راہنمائی قبول کی انہیں دنیا میں ہمیشہ ستایا ہے۔

## سیاست میں شرکت

شاہ جی امرتسر میں علوم و دینیہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ پہلی جنگ عظیم خلافتِ عثمانیہ کو تاراج کر کے ختم ہو گئی، ہندوستان کو جو صلہ ملا وہ سب کے سامنے تھا۔ رولٹ ایکٹ نے سارے ملک کو برہم کر دیا، پنجاب کو جو اس جنگ میں برطانوی سلطنت کا بازوئے شمشیر بن گیا تھا یہ انعام ملا کہ کئی اصلاح میں مارشل لاء یا اس سے مشابہ قانون نافذ کئے گئے، گرفتاریوں کا زور بند نہ کیا۔ امرتسر میں جلیانوالہ باغ کا حادثہ پیش آیا جس سے ملک کی تاریخ پلٹا کھا گئی اور سیاسی لیڈر شپ پہلے ہاتھوں سے نکل کے نئے ہاتھوں میں آگئی، یہی وہ آغاز تھا کہ ملک اور گھوکھے پیچھے ہٹ گئے مسٹر جینا ابھی نوجوان تھے اور گاندھی جی کی طرح گھوکھے کے سیاسی شاگرد تھے لیکن وہ بھی مسلمانوں کی سرکاری لیڈر شپ کے مانند گوشہ نشین ہو گئے۔ یہ زمانہ مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت موتی لال نہرو اور علی برادران کا سر آغاز تھا اور ملک اس نئی لیڈر شپ کے ہاتھ میں جا رہا تھا۔

جلیانوالہ باغ کے مظالم سے ملک بھر میں آگ لگ گئی۔ امرتسر میں ڈاکٹر سعید الدین کچھلہ اور ڈاکٹر ستیہ پال کی گرفتاری نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔ یہ ہندوستان کے سفر آزادی کا پہلا موڑ تھا۔ اس زمانہ کے بعض انگریز افسروں نے اعتراض کیا ہے کہ جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈار کی آتش بازی ہندوستان سے انگریزی حکومت کی رخصتی کا سر آغاز تھا۔ پاکستان کے مشہور مصنف ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی کا بیان ہے کہ ۱۹۶۸ء میں وہ ڈھونڈھ ڈھانڈھ کے انگلستان کے ایک گاؤں میں امرتسر کے اس ڈپٹی کمشنر سے ملنے گئے جس نے جلیانوالہ باغ میں فائرنگ کا حکم دیا تھا۔ اس بوڑھے انسان نے ان دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے امرتسر پر قابو ضرور پایا تھا لیکن وہ دن برطانوی حکومت کے انخلاء کا پہلا دن تھا۔

شاہ جی ان دنوں مدرسہ نعمانیہ مسجد خیر الدین میں مشکوٰۃ شریف پڑھ رہے تھے لیکن طالب علمی ادھوری تھی، ایک چھوٹی سی مسجد کو چر جیل خانہ، میں امام ہو گئے چونکہ خوش الحان

و خوش بیان تھے لہذا امرتسر کے مسلمانوں میں واعظ کرنے گئے، ان دنوں بدعات کا زور تھا، اصلاح رسوم کی نیواٹھائی اور تمام شہر میں ایک خوش بیان و فصیح اللسان کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمۃ نے ایک مقالہ میں لکھا ہے کہ:

”میں نے امرتسر میں خلافت کمیٹی (۱۹۱۹ء) کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو انگریزوں کے مظالم سے آگاہ کرنا شروع کیا تو بعض لوگوں نے میرے خلاف شاہ جی کو کھڑا کیا۔ میں نے اندازہ کیا کہ شاہ جی کو ملکی حالات اور قومی سیاست کا مطلقاً علم نہیں، وہ استعمال کئے گئے ہیں، میں نے شاہ جی کو اپنے ہاں بلا بھیجا، ان سے بات چیت کی معلوم ہوا وہ نہ تو اخبارات پڑھتے ہیں نہ سیاست سے آشنا ہیں اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ خلافت وغیرہ کا مسئلہ کیا ہے؟ آخر میری تحریک پر راضی ہو گئے کہ وہ میرے ساتھ رہ کر چند دنوں میں ان مسائل سے آگاہ ہو جائیں گے چنانچہ ایک مختصر سی مدت ہی میں وہ سب کچھ جان گئے پھر دنیا جانتی ہے کہ اس عظیم الشان خطیب نے سارے ملک میں آگ لگا دی۔“

شاہ جی فرماتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے اہلال نے ان کی کایا پٹوسی اور مولانا ظفر علی خان کے زمیندار و ستارہ صبح نے انہیں حریت پسندوں کے قافلہ میں شامل کر دیا۔ یہاں لاہور کے ایک جلسہ عام میں مولانا ظفر علی خان کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا:

”ظفر علی خان ترے ستارہ صبح نے میرے جگر میں آگ لگا دی ہمتی“

یہ واقعہ ہے کہ ۱۹۱۹ء سے ۱۹۳۲ء تک پنجاب کی سیاسی آبیاری اور ہندوستان کے قومی ذہن کی نشوونما میں جن راہنماؤں کا نام سرفہرست ہے ان سربراہ آدرہ راہنماؤں کی جماعت میں شاہ جی کی جادو بیانی کا بہت بڑا حصہ تھا۔ وہ اس وقت مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر وغیرہ کی صف کے سیاسی راہنما تھے۔ لیکن تحریک خلافت یا تحریک عدم تعاون کا تذکرہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ جی نے اس قومی جدوجہد کو بال و پر مہیا کئے اور دیکھتی آنکھوں ہندوستان کے ان نامور خطباء کی صف میں شامل ہو گئے جن کی



رجز خرائیوں سے یہ کارواں منزل مقصود کی طرف چلا جا رہا تھا۔

مہاتما گاندھی نے قومی سیاست میں داخل ہوتے ہی ۶ اپریل ۱۹۱۹ء کو رولٹ ایکٹ کے خلاف ہمد گیر بھارتیوں کا اعلان کیا تو ایک نیا ہندوستان پیدا ہو گیا۔ یہی وہ دن تھے جب ہندو مسلم اتحاد ایک معجزہ تھا۔ اور انگریز اس سے سخت ہراساں تھے۔ انہی دنوں امرتسر میں ریلوے کے بڑے پل سے ایک احتجاجی جلوس گزر رہا تھا کہ گورہ سپاہیوں نے گولی چلا دی جس سے چھ ہندوستانی جاں بحق ہو گئے، شاہ جی نے غیر الدین کی مسجد میں مسلمان شہداء کا جنازہ پڑھایا۔ ۱۰ اپریل کو ڈاکٹر سعید الدین کچھو اور ڈاکٹر ستیہ پال گرفتار کئے گئے تو سارا شہر آگ بگولہ ہو گیا۔ ۱۳ اپریل کو کریم بیاکھ تھا امرتسر کے لوگ اپنے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے میں نازاں باغ میں اکٹھے ہوئے لیکن جنرل ڈائر کی بے تماسا گولیوں کا نشانہ بن گئے اس مقتل میں پانسو ہندوستانی شہید ہوئے۔ زخمیوں کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا۔

دسمبر ۱۹۱۹ء میں انڈین نیشنل کانگریس کا سالانہ اجلاس بھارت موقی لال نہرو امرتسر میں منعقد ہوا۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس بھی حکیم اجمل خان کے زیر صدارت یہیں ہوا اور خلافت کانفرنس بھی مولانا شوکت علی کے زیر صدارت گول باغ امرتسر میں منعقد ہوئی۔ شاہ جی نے اس کانفرنس میں معرکہ آرا سیاسی تقریر کی یہ ان کے جماعتی سفر کا آغاز تھا۔ اجلاس میں تحریک خلافت کے لئے دس لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے، شاہ جی امرتسر سے باہر پہلی دفعہ کلکتہ کانگریس دفوری (۱۹۲۱ء) کے سالانہ اجلاس میں شامل ہوئے اور وہاں مولانا ابوالکلام آزاد کی تجویز ترک موالات کی تائید میں ایک پُرشکوہ تقریر کی اس سے ان کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ صفت اول کے ہندوستانی رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔

لاہور میں پہلی خلافت کمیٹی قائم کی گئی تو علامہ اقبال اس کے صدر اور سر محمد شفیع سیکرٹری مقرر ہوئے لیکن سر مائیکل اوڈون کے غضب کی تاب نہ لاکر ڈپٹی کمشنر لاہور کے اشارے پر مستعفی ہو گئے بلکہ خلافت کمیٹی ہی کو ختم کر دیا۔ حکیم عبدالحمید عقیقی مولانا شاہ اللہ کے ہاں

امر تسلیم چنچے اور ان سے یہ نوا بیان کیا۔ ولانا سنا اللہ نے ان کے ساتھ شاہ جی کو لاہور بھجوا دیا، جلسہ عام کا اعلان ہوا تو خوف کا یہ عالم تھا کہ موجی دروازہ کے باغ میں تین چار سو آدمی جمع نہ ہو سکے لیکن شاہ جی کی قرآن خوانی اور غوش بیانی رنگ لائی، اگلے روز جلسہ میں ۲۰ ہزار آدمی شریک ہوئے اور شاہ جی صبح تین بجے تک بولتے رہے۔ تمام شرکاء مسحور ہو گئے۔ شاہ جی نے ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ لاہور میں خلافت کمیٹی ضرور بنے گی کسی حاطب اللیل میں ہمت ہے تو وہ اس کمیٹی کو توڑ کر دکھائے۔ چنانچہ شاہ محمد غوث سے متصل میاں سراج الدین پراچہ کے مکان میں خلافت کمیٹی کا دفتر قائم کیا گیا اور وہیں عہدیداروں کا انتخاب ہوا۔ سید حبیب ایڈیٹر روزنامہ سیاست کمیٹی کے صدر اور میاں فیروز الدین احمد سیکرٹری منتخب کئے گئے۔

## سیاسی مسلک

یہ کہنا مشکل ہے کہ شاہ جی دیوبند کے مدرسہ فکر سے ذہنا کب وابستہ ہوئے اور شیخ ابند مولانا محمود حسن سے ان کی نظری وابستگی کا سن آغاز کیا تھا لیکن دیوبندی نہ ہونے کے باوجود ان کا دیوبند کے اکابر و افکار سے رشتہ اس قدر گہرا ہو گیا کہ ان کے مبلغ بھی تھے اور مجاہد بھی۔ عمر بھر انہوں نے اس مدرسہ فکر کا ساتھ دیا، کسی عنوان سے جب کوئی معرکہ دیوبند کے دفاع یا دعوت کا پیش آیا شاہ جی ہمیشہ اس کے براہ میں رہے۔

شاہ جی نے بدعات سے جنگ کی تو دیوبند کی تعلیمات کو ملحوظ رکھا۔ سلطان ابن سعود کا ساتھ دیا تو دیوبند ہی کا مطمح نظر سامنے رکھا۔ انگریزوں سے ان کے جہاد و غزوا کا سبب بھی دیوبند ہی کے اکابر کا فکر و عمل تھا۔ وہ انگریزوں کے اس لئے مخالفت نہیں تھے کہ ان کے پیش نظر محض نظریاتی مہم کا اصل اصول تھا ان کی انگریزوں کے خلاف جدوجہد کا سبب یہ بھی تھا کہ برعظیم کے حاکم نے نصاریٰ کی ہر نوعی مداخلت کو حرام قرار دیا اور ہندوستان ان کے نزدیک دارالحدیث ہو گیا تھا۔ برطانیہ کو وہ اسلام کا دشمن سمجھتے اور اس کے خلاف جہاد و جنگ فی الجملہ ان کا نصب العین تھا۔ وہ دراصل شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید

کی جدوجہد کے سیاسی ورثار میں سے تھے۔ ان کی تمام جدوجہد کا حاصل یہ تھا کہ جو کچھ ان اکابر کے منہ سے نکلا اس کی آبیاری و فرائیدی اپنا دینی فرض سمجھا۔ انہیں ہندوستان کے سیاسی مباحث یا قومی مسائل سے کوئی تعلق نہ تھا وہ صرف اکابر علماء کی سیاسی روایتوں اور دینی حکایتوں کے معنوی وارث تھے اور ان کے مطابق اپنی جدوجہد کا سفر کرتے رہے۔ ان کے سامنے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ فتویٰ (۱۷۶۵ء) تھا کہ:

”انگریزی حکومت سے جہاد فرض ہو چکا ہے اس کی توفیق نہ ہو تو ہر دیندار مسلمان پر ہجرت لازم ہو گئی ہے“ (یہ تلمیحیں)

مولانا عبدالبارق (رحمۃ علیہ) نے اپریل ۱۹۱۵ء کو اس فتویٰ ہی کی اساس پر فتویٰ دیا تھا کہ:

”ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں کی قدریں اسلام سے ملتی ہوں“

اسی کا نتیجہ ہندوستانی مسلمانوں بالخصوص پنجاب و سرحد کے مسلمانوں کی ہجرت تھی۔ آل انڈیا خلافت کانفرنس دہلی کے اجلاس میں علامہ عزیز ہندی نے اس مضمون کی قرارداد پیش کی تو فوراً پاس ہو گئی، لوگوں نے ہجرت شروع کی اور لوگ قافلہ در قافلہ کابل جانے لگے حکومت نے ابتدا روکنا چاہا لیکن ماننا کون؟ آٹا فانا کوئی چالیس ہزار افراد افغانستان پہنچ گئے۔ غازی امان اللہ نے انہیں زمینیں دیں، ملازمتیں دیں اور تجارت میں حصہ دار کیا لیکن جو لوگ سرکاری باسوس کی حیثیت سے ان کے ساتھ گئے تھے وہ گل کھلانے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے امان اللہ خٹاب کو بھی زچ کیا تاہم ایک نتیجہ ضرور نکلا کہ افغانستان انگریزی حکومت کے استباب سے آزاد ہو گیا۔ ہجرت کرنے والوں میں مولانا احمد علی لاہوری، خان عبدالغفار خان اور جناب اقبال شیدائی بھی شامل تھے۔

مولانا محمد علی جوہر اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری وغیرہ ان دنوں لندن میں وفد خلافت

لے کر گئے ہوتے تھے، یہاں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ اس ہجرت کو مضرب خیال کرتے اور ہندوستان ہی میں غیر ملکی غلامی کے خلاف نبرد آزمانی کے حق میں تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے ۱۱ جولائی ۱۹۲۰ء کو خلافت کانفرنس کراچی کے اجلاس میں حکومت برطانیہ کی ہر نوعی ملازمت کو شرعاً حرام قرار دیا تو اس قرارداد اور مختلف زعماء کی تقریروں سے براہ فرخندہ ہو کر حکومت نے ملک بھر میں گرفتاریوں کا آغاز کیا۔ مولانا محمد علی، مولانا حسین احمد مدنی، پیر غلام مجدد وغیرہم کراچی میں ۱۲۴ الف کے تحت دھر لئے گئے، انہیں دو دو اور تین تین برس کی سزا دی گئی۔

آخر کار منفی مثبت اثرات کے تحت ہجرت کی تحریک ختم ہو گئی، کچھ لوگوں کے سوا تقریباً سبھی لوگ واپس آ گئے، ان مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا جو اپنی جان بچانے اور اپنے فرائض کو نبھانے کے لیے گئے تھے، لاہور سے دو مولوی جی عبدالحق اور عبدالرحمن بھی سرکاری جاسوس کی حیثیت سے مہاجروں کے ساتھ گئے تھے لیکن ان کا انجام یہ ہوا کہ دو نو حکومت کے ہاتھوں مارے گئے۔

شاہ جی تحریک ہجرت کے معاون تھے اور انہی کی تقریروں سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ امرتسر سے کابل گئے تھے۔

ادھر حضرت شیخ الہند محمود حسن (علیہ الرحمۃ) اپنے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ مالٹا سے رہا ہو کر ہندوستان پہنچے تو جمعیتہ العلماء نے شیخ الہند کو اپنا صدر منتخب کر لیا۔ اس زمانہ ہی میں شیخ الہند کے ہاتھوں جامعہ ملیہ دہلی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ مولانا محمد علی جوہر جامعہ کے بانی تھے اور انہی کی تحریک پر جامعہ قائم ہوا تھا۔ ادھر شاہ جی نے انہی دنوں گجرات میں آزاد پائی سکول قائم کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے افتتاح کیا۔ چودھری فیض محمد ام، اسے ہیڈ ماسٹر اور ملک نصر اللہ خان عزیز سیکنڈ ماسٹر مقرر کئے گئے۔ آج کل وہ اسلامیہ پائی سکول کے نام سے مشہور ہے۔ آخر کار حکومت نے ۲۷ مارچ ۱۹۲۱ء کو آدھی رات کے وقت

زیر دفعہ ۱۲۴ الف شاہ جی کو پکڑ لیا۔ کچھ دنوں مقدمہ چلا پھر ۱۸ اپریل کو مسٹرائف اسے کارنز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے تین سال قید با مشقت کی سزا سنائی، اس میں تین ماہ قید تنہائی کے تھے۔ اس قید نے شاہ جی کو انگریزی حکومت کا مستقل باغی بنا دیا اور وہ ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کی رات کے بارہ بجے تک برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، ان ۲۶ سال میں انہوں نے آٹھ سے دس ہزار کے درمیان تقریریں کی ہوں گی جن کا لب و لہجہ اور مطلع و مقطع انگریزی حکومت کی بیگنی تھا۔

شاہ جی نے اس سارے عرصہ میں بہت سے معرکے سر کئے اور کئی دفعہ جیل گئے مثلاً تحریک خلافت، تحریک شدھی، تحریک قیہ، تحریک حفظ ناموس رسالت، تحریک میرزاویت، تحریک عدم تعاون، تحریک کشمیر، تحریک شہید گنج، تحریک آزادی وطن اور دوسری جنگ عظیم میں فوجی سہرتی کی مزاحمت، انی الجملہ قومی جدوجہد، سیاسی رزم و بزم اور دینی جہاد و جنگ کے مختلف العنوان سلسلے تھے جن میں شاہ جی نے بھر پور حصہ لیا۔ وہ محض حصہ دار ہی نہیں تھے بلکہ ان کا پورا کردار ایک ایسے مدی خوان کا تھا جس کی آواز سے قافلہ مرتب ہوتا اور منزل کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ یہ ذکر کسی دوسرے باب میں آئے گا کہ اس سفر میں وہ کن کن صعوبتوں سے گزرے اور اپنی عمر عزیز کا کتنا حصہ قید و بند کے آغوش میں بسر کیا حتیٰ کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔

### عقیدہ و مسک

شاہ جی حنفی مسک کے تھے لیکن ان حدود کے باوجود قلندر قسم کے مسلمان تھے کہ ہر مسک و مشرب سے ایک گونہ مناسبت تھی، کسی مسک سے تعرض ہوتا تو اس کے پس منظر میں صرف یہ چیز ہوتی کہ اس کی بنیاد میں انگریز دوستی تو نہیں ہے یا پھر وہ ان مظاہر و آثار کے مخالفت تھے جن سے شرک فی التوحید یا شرک فی النبوة کو راستہ ملتا تھا اور لوگ اصل دین کو چھوڑ کر نقلی دین کا کھڑا گرجا تے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ از روئے اسلام وہ ہر اس مسک و مشرب کے ساتھ تھے جس سے انگریزوں کی فلامی ختم ہوتی اور ان کے خلاف ذہنی آب و ہوا کو نشو و بلوغ حاصل ہوتا اور ہر اس مسک و مشرب سے کئی کتراتے بلکہ اس کے پیروں پر بشرط ضرورت تا بڑو توڑ جملے کرتے جس مسک و مشرب کو مد اہنت و معلمت سے داغدار پاتے۔

انہوں نے شہادتِ حسینؑ پر بہت کم تقریریں کیں، ایک دفعہ راقم نے عرض کیا کہ شاہ جی سانحہ کربلا پر تقریر فرمائیے کہنے لگے میں اس موضوع پر تقریر نہیں کر سکتا میرے خاندان پر جو جہتی ہے بیان کروں تو خود میرا جگر شق ہو جائے گا لیکن عام تقریروں میں جب کبھی اس عادتہ محزونہ کا ذکر کرتے تو ایک ادھر روایت ہی سے لوگوں کی چھینیں نکل جاتیں کہ بڑے بڑے ذاکر و مجتہدان کے سامنے رہ جاتے تھے۔ ان کا مسک سینہ کو بڑی یا سوز خوانی نہیں تھا۔ جب کبھی کسی سیاسی مسئلہ میں شیعہ اکابر کو جھنجھوڑتے تو فرماتے:

”کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہو لیکن صدیوں سے تمہارا اشعار یہ ہو گیا ہے کہ یزید مرہ پر لعن کرتے ہو اور یزید زندہ کی پوجا کرتے ہو؟“

بدعات کے خلاف طعن و تفریق کرتے اور مسلمانوں کو ان سے روکتے تو دو کا نڈار علماء ان پر وہابی کا طعن توڑتے لیکن ان کے لئے یہ طعن بیکار تھا۔ جن دنوں ابن سعود نے قبۃ شکی کی اور سرکاری علماء نے ہندوستان میں ابن سعود کے خلاف ہنگامہ برپا کیا تو شاہ جی ابن سعود کے طرفدار تھے اس جرم میں انہیں وہابی کہا گیا حالانکہ وہابی نہ تھے اور نہ کبھی جماعت اہل حدیث نے اپنی کسی تحریر و تاریخ میں انہیں اپنا تسلیم کیا لیکن ہندوستان کے اہل حدیث علماء کی سزا اکثر انہیں ملی، بلکہ جگہ شاہ جی کے وہابی ہونے کا چرچا ہو گیا۔ ان دنوں کسی بدو نے سلطان عبدالعزیز ابن سعود کو بیت اللہ میں خنجر مار کر ہلاک کرنا چاہا، محافظ دستہ آڑھے آگیا اور سلطان محفوظ ہو گئے لیکن حمدہ اور محافظ کی گولی سے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شاہ جی ابن سعود ہی کے مسئلہ پر تقریر کر رہے تھے سوال کیا گیا،

شاہ جی! حرم میں گولی چلانا جائز ہے؟  
 فرمایا، نہیں بھائی خنجر چلانا جائز ہے۔  
 اور لوگ وارو تھمیں میں ڈوب گئے۔

عرض شاہ جی ہنستے ہنستے بہت سی باتیں کہہ جاتے، کسی نے کہا:

شاہ جی وہابی اور غیر وہابی میں کیا فرق ہے؟

فرمایا اس قسم کے سوال نہ کیا کرو، دین کی توفیق کم ہوتی ہے، مسائل کا اصرار بڑھا تو کہنے لگے،

میاں! جو تم کہلوانا چاہتے ہو وہ یہ ہے کہ وہابی بے ادب باایمان ہوتا ہے اور غیر وہابی

با ادب بے ایمان۔

ظاہر ہے کہ یہ مذاق تھا جو لوگ اس قسم کے شرارتی سوال کرتے ان کے لئے ایسے ہی

جواب شافی ہوتے تھے۔

ایک روز شاہ جی علامہ انور صابری سے قرالی سن رہے تھے، مولانا حبیب الرحمن آگئے،

لاحول پڑھا، شاہ جی نے، انا للہ فرمایا، بھائی حبیب الرحمن! مذہب کسی بیوست کا نام

نہیں، میں چستی بھی ہوں، نقشبندی بھی اور قادری بھی، مجھے ان تمام مساکم سے باطنی

رابطہ ہے۔

شاہ جی روایتی طور پر صوفی بالکل نہیں تھے لیکن زندگی سنوارنے کے لئے شیخ کی صحبت

مذوری سمجھتے، ان کے نزدیک تصوف، سکینی و عاجزی یا گوشہ نشینی و دستبرداری کا نام نہیں

تھا۔ وہ تصوف کو احسان سے تعبیر کرتے اور احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے

مطابق ایک ایسی عبادت ہے گویا خدا تم کو دیکھ رہا ہے یا تمہارا یہ سمجھنا کہ خدا تمہیں دیکھ

رہا ہے، شاہ جی عموماً کہا کرتے کہ نظر کا فیضان کتابوں سے نہیں بزرگوں کی صحبت اور

توجہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہی اصل تصوف ہے، جن چیزوں کو معروفات سمجھتے ان کے

نزدیک وہ علم الیقین اور عین الیقین ہی نہیں بلکہ حق الیقین کا درجہ رکھتی تھیں، فرماتے

تصوف، وجدان کی تیفیح کرتا ہے اور علم سے وسعت فکر پیدا ہوتی ہے۔ اس ضمن میں امام مالک کے نقطہ نگاہ سے موافق تھے کہ جو شخص صوفی ہوا اور فقیہ نہ ہوا وہ گمراہ ہوا، اور جو فقیہ ہوا اور صوفی نہ ہوا وہ فاسق رہا جس نے ان دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہو گیا۔ وہ ہندوستان کے صوفیوں کی بہت سی ٹکڑیوں سے بیزار تھے ان کا خیال ہی نہیں، تجربہ تھا کہ ہندوستان کا تصوف ہندو مانی تھا لہذا جو (ذخایات) کی اسلامی شکل ہے اس کو حجازی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، جس تصوف سے مسکنت پیدا ہو یا توجہ الی اللہ مخلوق خدا سے کنارہ کشی کھائے وہ اس مسلک سے بیزار تھے ان کے نزدیک یہ ہندو ازم کا جوگ تھا۔

فرمایا ایک دفعہ میں نے بھی خانقاہی ہونا چاہا، ۲۱ سال تک روز سے رکھے چھ چھ گھنٹے میں قرآن پاک ختم کیا، کئی کئی روز پانی میں نمک ملا کر جو کے ستوؤں پر گز رکھی، تنور کی روٹی کے خستہ ٹکڑے کھاتا رہا لیکن اس سے بس اتنی معرفت قلب پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں قناعت پیدا کر دی اور میں سیر چشم ہو گیا اس ریاضت ہی کا نتیجہ میری خطابت کا بانگس تھا۔

قبہ شکنی کا ذکر ہو رہا تھا فرمانے لگے میں نے ابن سعود کی حمایت صرف اس لئے کی تھی کہ جو لوگ یہاں ان کی مخالفت میں پیش پیش ہیں وہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے مہرے تھے اور ابن سعود کا وجود برطانوی حکومت کے لئے اس لحاظ سے سوہان روح تھا کہ اس نے انگریزی استعمار کے ایک ذلیل مہرے شریف مکہ کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ شاہ جی کا ارشاد تھا کہ ہندوستان میں وہی لوگ ابن سعود کے خلاف واویلا کر رہے تھے جو پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے خدمتگار اور سپاس گزار تھے۔ (الا ماشاء اللہ) ان کے نزدیک ابن سعود کے خلاف ہندوستان کے مسلمانوں کا ہنگامہ انگریزوں کی شاطری تھا۔ انگریزوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ تحریک خلافت ان کے لئے کیا داغ چھوڑ گئی ہے اور مسلمانوں کی دنیائے اسلام سے وابستگی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؛ مسلمانوں کو شریف مکہ سے جو نفرت پیدا ہوئی تھی انگریز اپنے اس مہرے کی شکست کے بعد اس نفرت کو ابن سعود کی طرف منتقل کرنا چاہتے تھے تاکہ عہد میں انگریزوں کی آئندہ



سیاست ہندوستانی مسلمانوں کے لئے کسی نئی تحریک کا باعث نہ ہو۔

شاہ جی نے اس مہم میں ضعیف الخیال مسلمانوں سے بہت سی گالیاں سنیں لیکن اپنا مشن جاری رکھا۔ اور کفر کے فتوؤں کو خندہ زیر لب کی تذر کرتے رہے، جیسے کوئی چیز ہی نہیں۔ شاہ جی اصلح من الناس کے قائل تھے، حضرت سید پریم علی شاہ گڑھ شریف سے بیعت ارشاد کی، حضرت شیخ عبدالقادر رائے پوری سے بیعت جہاد، وہ خواجہ معین الدین ہشتی، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے والد وشیدا تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی کے شیدا ائی اور شاہ ولی اللہ کے فدائی تھے۔ حقیقتہً وہ ایک سید سے سادے راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ ان کے ہاں مذہب کی رعوت اور دین کا آزار بالکل نہ تھا، عرض فقر و سیاست کا ایک ایسا چشمہ تھے جس سے کمی سوتے پھوٹتے تھے۔ وہ اہل اللہ کے سوا کسی سے مرعوب نہ ہوتے، قدرت سے بے نیاز طبیعت لے کر پیدا ہوئے تھے اور آخری سانس تک اس پر قائم رہے کوئی شخص اپنے اقتدار و وجاہت کے بل پر ان سے کوئی مطالبہ نہ کر سکتا تھا۔

ان کی مغل آرائیاں سیکڑوں مرتب و غیر مرتب کتابوں کا خلاصہ ہوتیں، ان کے ہاں کسی کیلئے کوئی لوگ نہ تھی وہ انگریزی استعمار اور میرزا غلام احمد کی نبوت کے سوا کسی کے دشمن نہ تھے ان کا دروازہ ہر شخص کے لئے کھلا تھا۔ جہاں ایک جام بدست رند سے لے کر ایک معلمہ بربرزادہ تک اور ایک کفن بدوش مجاہد سے لے کر ایک شاہد بکار شاعر تک بلا تکلف داخل ہو سکتے تھے وہ تنہائی سے نفرت کرتے اور آشنائی سے محبت رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ تنہائی کے آگے بازار ہے اور بازار پریشانی کا نام ہے لیکن وہ کانٹوں میں کھلنے والے انسان تھے، انہیں تشلیہ سے زیادہ مجمع اور کتابوں سے زیادہ انسانوں کا غول پسند تھا۔ فرماتے ان کتابوں کو پڑھ کر کیا لوں گا؟ جن سے عقل ویران ہوتی اور عشق کو مصلحت کی دیک لگ جاتی ہے، اپنے احباب میں اکثر و بیشتر ذلیل کا شریہ لمن پڑھا کرتے۔

بیا کہ رونقِ این کار حسانہ کم نہ شود  
ز زہد ہچم توئے یا ز فسق ہچم مئے

الکاف و اور لگاؤ

ان کی سب سے بڑی کمزوری (Weakness) حُسن تھا، حُسن کے معاملے میں  
”دل چینگ“ واقع ہوئے تھے یہاں ان کا مسک بوعالی قلندر کا مسک تھا حُسن آواز میں ہو یا  
چہرے میں، پہاڑوں پہ ہو یا میدانوں میں غرضیکہ فطری حُسن سے والہانہ لگاؤ تھا ان ہی کا  
شعر ہے

باغ و بہار مانندیم یعنی کہ جنت النعیم  
رونے خوش است خوںے خوش مئے خوش و گلے خوش

مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی مرحوم و مغفور آزاد ہی ہندوستان کی جدوجہد میں ان کے رفیق  
تھے، ان سے جو خصوصیت رہی واقفانِ حال سے پوشیدہ نہیں، اکثر کہا کرتے تھے میں تھے شاہ  
ہوں اور حبیب الرحمن عنایت ارا میں۔۔۔۔۔۔ لیکن پیر و شریہ دونوں ایک دوسرے کی ضد  
تھے، وہ جلالی یہ جمالی۔ جلالی نے جمالی کو ٹوکا شاہ صاحب۔ کیا بزم چمار کھی ہے؟ فضول بے معنی  
لعنہ مگر شاہ جی فضول، بے معنی، لغو پر ریجھ چکے تھے اب انہیں لاکھ کہئے، قبلہ اجلہ گاہ  
میں ہزاروں لوگ امیر شریعت کی راہ دیکھ رہے ہیں لیکن امیر شریعت گرد و پیش کے حُسن پر  
نقد و نظر فرما رہے اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ ان کے نقد و نظر کی زبان غالب سے لے کر  
نظیری تک اور میر سے لے کر عرفی تک سے مستعار ہوتی۔ ان مواقع پر خود آواز بن جاتے،  
طبیعت موج زن ہوتی زریبی شرار کا بھر پور کلام سنانے لگتے، کسی مصرع کی شرح کر دی،  
کسی مصرع پر چُپ سا دہلی، لبا اوقات اچھے چہروں سے موضوع ڈھونڈ لیتے اور قرآن و  
حدیث سے استنباط کرتے تھے

الشمسوا الخیر فی حسان الوجوه (الحمدیث)

اچھے چہروں میں بھلائی کی جستجو کرو۔

اس ضمن میں ان کی معلومات حد درجہ وسیع تھیں، آخری عمر میں آواز کا رسیلا پن کسی قدر پہنچ گیا تھا لیکن شک اور کھٹک موت کے بستر پر دراز ہونے تک رہی۔ عمدہ عطر اور اچھی آواز پر جی جان سے مرتے تھے۔ کوئی خوش الحان قاری ملتا تو پہروں قرآن سناتے اور معنی ہوتا تو شعر و شاعری میں جہاں تک بس چلے ڈوب جاتے۔

### شاعری کا شوق

خطیب معنا شاعر ہوتا ہے انہیں شعر گوئی کا ملکہ بھی تھا۔ ندیم تخلص فرماتے، ان کا مجموعہ کلام ”سوا طبع الالہام“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے اس کے مطابق شعر گوئی کا ذوق شروع میں نانا مرحوم اور شاد عظیم آبادی کی صحبتوں سے پیدا ہوا لیکن امرتسر میں مولانا محمد دین غریب سے تلمذ اختیار کیا مگر جلد ہی پنڈ چھوڑ دیا۔ تحریکِ خلافت میں قید ہوئے تو میا نوالی جیل میں ملکہ شعر جاگ اٹھا۔ مولانا عبد المجید ساکت بھی ساتھ ہی قید میں تھے ان سے شورش سخن شروع کیا۔ پھر حضرت طاہوت سے استفادہ فرماتے رہے۔ کوئی باقاعدہ شاعر نہ تھے اور نہ شاعری باقاعدہ تھی۔ بس جذبات کا ایک ابال تھا۔ اس مجموعہ میں دو چار نعمتیں ایسی مزور ہیں جن میں شعری بانکپن جھلکتا ہے، طبیعت کی موزونی کا ازاں وہ اسی وقت سے ہو سکتا ہے کہ ساحر لدھیانوی نے قحطِ بنگل پر جو نظم لکھی ہے اس کے ایک بند کا دوسرا شعر نہیں ہو رہا تھا، شاہ جی نے نظم پر بھی، تعریف کی، ساحر سے کہا:

”اس کا صلہ یہ چند آنسو ہیں انہیں فقیر کا نذرانہ سمجھو“

شاعر نے تشکر و امتنان میں سر جھکا لیا، شاہ جی نے پوچھا اس بند کا دوسرا شعر کہاں

ہے، وہ شعر تھا

میں اسی لئے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں  
کہ دخترانِ وطن تارتار کو ترسیں

ساحر نے کہا ابھی تک کوئی مناسب شعر موزوں نہیں ہو سکا، شاہ جی نے قدر سے  
توقف کیا پھر فرمایا یہ لو حاضر ہے سے

چمن کو اس لئے مالی نے خون سے سینا تھا

کہ اُس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں

اور ساحر نے قبول کر لیا، ان کے مجموعہ کلام "تلخیاں" میں شامل ہے۔

### مطالعہ

شاہ جی اصطلاحاً کتابی نہ تھے، ابتدائی مطالعہ ہی سے سیر تھے ان کے غور و فکر کا اصل محور  
قرآن مجید تھا جب کبھی تنہا ہوتے پڑھتے، سوچتے اور سرد مہنتے، کوئی اچھی کہ آب بالخصیوں  
دینیات یا اسلامیات پر مل جاتی تو بڑے اہٹاک سے پڑھتے۔ تاریخ سے ایک گونہ دلچسپی  
تھی لیکن سیاسی تاریخ سے خصوصی بغض تھا، کلام ہر شاعر کا دیکھتے اور اس کی داد بھی دیتے،  
کوئی باقاعدہ لائبریری نہ تھی۔ امرتسر میں بعض نادر کتابیں اسلامیات پر جمع کی تھیں جن میں "الہلال"  
کے قابل وغیرہ بھی تھے مگر امرتسر لٹا تو وہ بھی غارت ہو گئیں۔ میرزا سیت کے لٹریچر کو اپنی  
تبلیغی مہم کے لئے انتقادی نقطہ نگاہ سے دیکھتے اور پرکھتے، اخبار مستقلاً پڑھتے۔ بعض  
اخبارات کو ہاتھ تک نہ لگاتے کیونکہ ان پر چوں کی بجائے ان کے پرچہ نویسوں کو پڑھ چکے  
تھے۔ جدید لٹریچر سے انہیں کوئی واسطہ نہ رہا۔ بالخصوص کہانی، ناول اور افسانہ سے کوئی  
رابطہ نہ تھا۔ جدید شاعری میں نظم آزاد اور نظم معریٰ کو نہ صرف مضحک خیال کرتے بلکہ بعض  
معریٰ ابیات کی پیروٹی کی۔ جس کتاب کو اپنے نقطہ نگاہ سے مفید سمجھا اس کے لئے اشتہار  
بن گئے۔ ایک زمانہ میں تیرہ محضین منگوری کا کتاب "سلاوین کاروشن مستقبل" کا مطالعہ ہر سیاسی کارکن پر فرض کر دیا،  
مذہبوں علامہ اقبال کا کلام ساتھ لکھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتابی مطالعہ بہت حقور اور

انسانی بہت زیادہ تھا، فرماتے، جس زمانہ میں پڑھتا تھا تو شب دروز پڑھتا تھا اب اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بہت سی کتابوں کے پڑھنے سے چند کام کی کتابیں پڑھ لینا بہتر ہے۔

## تفریحات

کسی کھیل سے کوئی رغبت نہ تھی، تفریحات میں یکسر کورسے تھے ان کی واحد تفریح محض آریا تھیں کبھی موج میں ہوتے تو گفتگو کے بہاؤ میں بعض باتیں کہہ جاتے، مثلاً جھپٹنے میں تنگ باز کا شوق تھا، اسی باعث گڈھی کے کافز سے لے کر ڈور کی نسل تک سب باخبر تھے۔

ایک زمانہ میں کبوتر پالنے کا شوق تھا اور امرتسر میں کبوتروں کی ٹکڑھی رکھتے تھے ہر کبوتر کا حسب نسب، رنگ و عنق اور چال ڈھال جانتے تھے

اک ذرا چھیر ٹیپے پھردیکھتے کیا ہوتا ہے

فرماتے، گو لے اور گرہ باز اڑان کبوتروں میں جواب نہیں رکھتے، گرہ باز کابل سے لائے گئے اور گو لے عربی نسل سے ہیں لیکن ہندوستان میں ترکستان اور اجمان سے درآمد کئے گئے تھے۔ ان کی بڑھی خوبی یہ ہے کہ ایک وقت میں دو سو کی ٹکڑھی بنا کر اڑ سکتے ہیں۔ گرہ باز دس باہ کی ٹکڑھی سے زائد میں نہیں اڑتے لیکن صبح سے شام تک اڑتے ہیں، اپنے آقا اور اڑتے کو کبھی نہیں بھولتے، جن کبوتروں کی غرض رنگی اور خوبصورتی میں شہرت حاصل ہے ان میں شیرازی، گلی، نساوری، گلوسے، لٹے، لوشن، چویا، چندن اور یا ہو، فقرا و شایخ کو عزیز ہیں، یا ہو غور اہل اللہ کے مزاروں پر ہوتے ہیں۔

بٹیر بازی کو نثر فا کھیل نہیں سمجھتے تھے مگر ان کی دو قسموں گھاگس اور چنگ کو ہڈیا نومی نمک خواروں کے خلاف چھبستی کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ ایک زمانے میں شرط خج کھیلنے کا شوق تھا جو رفتہ رفتہ محو ہو گیا۔ جو ان تھے تو مگر بلاتے اور نبوٹ کھیلنے تھے۔ جیل خانے میں بیٹ منٹن سیکھی تھی، آخر ہر کھیل سے جی بھر گیا تو مرغ پالنے لگے، آٹے کی گولیاں بناتے اور مرغوں کو کھلاتے، اسیل مرغ کے برٹے قدر دان تھے کہ عربی نسل سے ہے، میدان میں جم کر

لڑتا ہے، کوئی جانور اس سے بڑھ کر بہادر نہیں، مر جاتا ہے لیکن میدان سے منہ نہیں موڑتا۔

## لباس و خوراک

تمام عمر موٹا جھوٹا پہنا۔ کھدر کبھی ترک نہیں کیا، پہلے شلوار کرتے پہنتے اور سر پر رنگ دار تولیہ کی خود ساختہ ٹوپی اوڑھتے تھے پھر شلوار کی جگہ بندنے والی اکثر خاکستری کرتے یا قمیص جس کے اندر ترچھی جیبیں ہوتی ہیں پہنتے تھے۔ ایک زمانہ میں سرخ قمیص پہنا شروع کی تو بعض شرعی گوشوں نے لب بستہ اعتراض کیا۔ فرمایا قصہ خوانی بازار دیشاد، کے شہیدوں کی یاد میں قمیص سرخ کی ہے احرار رضا کاروں کی وروہی کارنگ بھی انہی کے خون کی یاد میں سرخ تھا۔

خوراک عموماً سادہ کھاتے، محلوں اور جھوپڑوں میں مہمان ہوتے لیکن کسی چیز سے کوئی رغبت نہ تھی، دال بھات جو ملا کھالیا۔ ایک وقت میں کئی کئی کھانوں کا سوال ہی نہ تھا بس ایک سالن روٹی یا چاول، میٹھا ملا کھالیا نہ ملا شکر چکانک لی، خود اک زیادہ نہ کھاتے لیکن سیر ہو کر کھاتے اور دو وقت کھاتے، چائے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ہمیشہ نفس چائے پیتے اور اکثر غم بنا کر پیتے، مدتوں کیتلی اور تام چینی کا آب خورہ ساتھ رکھا، ان کے خیال میں ہر شخص چائے بنانے اور چائے پینے کا اہل نہ تھا، فرماتے عام لوگ چائے نہیں جو شانہ پیتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح انہیں بھی چائے کی کہانی یاد تھی۔ طبیعت حاضر ہو تو مزے سے بیان کرتے، پان شروع سے کھاتے تھے، ایک چھوٹا سا پاندان ساتھ رکھتے، چھالیا خود کاٹتے، چونا خود بناتے اور کتا بھی خود پکاتے تھے، اس پان خوری میں دانت گھلا دیئے تھے۔

## عادات و خصائل

کبھی کسی دوست کی غیبت نہ کی اور نہ کسی دوست کی غیبت سننے تھے۔ جو لوگ ان سے شدید اختلاف رکھتے مگر مخلص تھے ان کی جی جان سے عزت کرتے اور آنکھوں پر بٹھاتے۔ ذاتی دوستوں میں کئی ایسے تھے جن کی سیاسی راہیں مختلف تھیں۔ مثلاً تاثیر مرحوم لیکن ان سے ایک گز نہ تعلق خاطر تھا۔ اسی طرح مولانا عبدالحمید ساکت، سید احمد شاہ بخاری (پطرس) اور صوفی

غلام مصطفیٰ تبسم کا میدان فکر و نظر مختلف تھا لیکن ان سے ساہا سال کی دوستی تھی۔ ایک دفعہ جن کو پرکھ لیا، پرکھ لیا۔ پسند و ناپسند دونوں میں سخت تھے، ہر شخص سے متعلق نپتی رائے ہوتی، ہندوستان میں کوئی سیاسی یا شرعی راہنما ایسا نہ تھا جن سے ان کے مراسم نہ رہے ہوں لیکن ہر ایک کے بارے میں دو ٹوک رائے رکھتے اگر کسی کے خلاف رائے قائم ہو گئی تو اس میں کینہ یا بغض نام کو نہ ہوتا اور نہ کسی سے ذاتی بنیادوں پر منتقم ہوتے۔ جن رفقا پر اعتماد کیا ان کی غلطیوں پر دامن ڈال دیتے جن دوستوں میں عمر بسر کی انہیں جی جان سے چاہا۔ ان سے کوئی شکایت پیدا ہوئی تو مسکرا کر ٹال گئے۔ بعض برہمن ہستیوں کے متعلق عجیب و غریب رائے تھی، گاندھی جی کو مہاتما تکم اور سیاست دان زیادہ سمجھتے تھے۔ پنڈت موتی لال نہرو اور سی آر داس کو سچا نیشنلسٹ مالویہ جی اور ولجہ سبھائی پٹیل کو پکا ہندو، مولانا ابوالکلام آزاد کو علم کا سمندر، پنڈت جواہر لال نہرو کو سیاسی طوفان، مولانا حسین احمد مدنی کو متحرک تقویٰ اور مفتی کفایت اللہ مرحوم کو دورِ حاضر کا الو حلیف سمجھتے تھے علامہ اقبال سے تازلیست ولی تعلق رہا۔ جب کبھی ان کے ہاں جاتے تو حضرت علامہ تپاک سے ملتے، فرماتے:

”پیر جی فلاں بات ہو گئی ہے۔“

”کوئی بات؟“

”بس ہو گئی ہے، آپ سے بیان کیا تو آپ وہلی دروازہ کے باغ میں ڈونڈھی پیٹ دو

گے؟ اچھا سنئے، ایک تازہ نظم ہوئی ہے۔“

علامہ سناتے، شاہ جی سنئے اور جھومتے، چودھری افضل حق مرحوم کو احرام کے ہاتھ کا لقب دے رکھا تھا۔

”کہو مہاتما جی، ہمارے لئے کیا پروگرام سوچ رکھا ہے؟“

مولانا صیب الرحمن کو عنایت ارانین کہتے اور خود بٹھے شاہ بننے۔ میان قمر الدین

مرحوم احرام کے برلا تھے، انہیں اپنا چلتا پھرتا بنگ کہہ کر پکارتے، شیخ قسام الدین سے

انتہائی انس تھا، مولانا مظہر علی کو یار جانی سمجھتے رہے۔ قاضی احسان احمد کو بیٹا۔ جماعت کے جن ساتھیوں سے انہیں لگاؤ تھا ان میں مولانا محمد علی جالندھری اور مولانا تاج محمود لائل پوری غایت درجہ قریب تھے۔ فی الجملہ احرار کا ایک ایک ساتھی اور ایک ایک رضا کار انہیں یکساں جذبات کے ساتھ عزیز تھا اور ان سب کو اپنی متاع سمجھتے تھے۔

## ڈنڈے والا پیر

پنجاب کے دیہات میں ڈنڈے والا پیر کے نام سے مشہور تھے، احرار رضا کار کھاڑی رکھنے لگے تو انہوں نے کھاڑی اٹھالی، کئی سال تلوار لئے پھرے، آخری عمر میں ڈنڈا رکھتے تھے۔

## خط و کتابت

لکھنے لکھانے کا شوق کبھی نہ تھا۔ البتہ خطوط کا جواب سفر و حضر دونوں صورتوں میں خود لکھتے، غیر مزدوری خط و کتابت سے اجتناب کرتے کسی کو تہدید یا تعزیت کا خط نہیں لکھتے تھے، کوئی عزیز ملت کر گیا تو گھر میں بیٹھ کر افسوس کر لیا کسی دوست کے ہاں خوشی ہوئی تو دعا فرمادی۔

## مجموعہ صفات

زندگی بھر مسائل مختلفہ پر قرآن مجید کی آیتیں حضور سرور کائنات کی حدیثیں اور آئمہ کبار کے حالات لکھے کیے۔ ہزاروں شعر نوک زبان تھے۔ لطیف بازی اور برجستہ گوئی میں استثنیٰ مشاق تھے کہ سارے بزرگ عظیم میں ان کی ٹنکر کا ایک آدمی نہ تھا۔ ہر علاقہ کے عادات و اخلاق اور زبان و کلام سے اس تپڑ کے ساتھ واقف تھے کہ انہیں پاکستانی زبانوں کا چلتا پھرتا لغت کہنا بے جا نہ تھا۔ سب سے بڑا کمال ان کی بے نیازی تھی، خوف غیر اللہ چڑھی میں نہ تھا۔ کسی کے روپے کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ ذاتی مریدوں میں رنگارنگ کے لوگ شامل تھے۔ بالخصوص ایسے لوگ جو قومی سیاست سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ بہت سے لوگ آپ کو پیروں بلکہ قبروں کی طرح پوجتے۔ پنجاب میں جتنے شخصی جان نثار پیدا کئے اتنے کسی اور گروہ، جماعت



یافز کے گرد کبھی جمع نہیں ہوتے۔ اس باب میں منفرد تھے لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر حکومت کی لیکن کسی شخص سے کوئی غرض نہ رکھی۔ ایک درویشانہ زندگی تھی، کسی مرید نے چھپا کر کچھ نذر گزارنا چاہا تو فوراً مٹھی کھول دیتے، جس جماعت میں رہے اس سے کبھی پھوٹی کوڑی تک نہ لی۔ اٹنا اسی کے لئے روپیہ فراہم کیا۔ زندگی بھر جو کمایا اس سے امرتسر میں دو مکان خرید رکھے۔ ایک میں خود رہتے، دوسرا کرایہ پر دے رکھا تھا، لیکن تقسیم کے وقت دونوں متروک ہو گئے۔ یہاں اگر کسی سرکاری دفتر سے کوئی آرزو نہیں کی حتیٰ کہ متروک جائیداد کے کلینز بھی داخل نہ کئے۔

### عجیب و غریب

ان کے پاس ایک عجیب و غریب بٹو تھا جس میں ایک مجذوب کی دی ہوئی پائیاں اور دو ہیلے پڑے تھے، فرماتے ان کی برکت سے ان کا بٹو کبھی خالی نہیں رہا۔ ان معاملوں میں وہ خود بھی ایک مجذوب تھے۔

### قاتلانہ حملے

قید و بند کی روداد تو علیحدہ باب میں آئے گی لیکن غیر ملکی غلامی کے خلاف جدوجہد کا سفر معمولی نہ تھا۔ قید و بند کے علاوہ بھی اس میں دو چار بہت سخت مقام آئے تھے، انگریزی حکومت نے تحریک خلافت کے تجزیہ و مشاہدہ سے خوفزدہ ہو کر ہندو مسلم مناقشہ کی ایک ایسی نیواٹھائی کہ سرکار کے مسلمان زلدر باؤں نے نہ صرف اس فتنہ کو مستقل کر دیا بلکہ ان تمام مسلمانوں کے خلاف پروپگنڈہ کی داغ بیل ڈالی جو ہندوستان کی آزادی کے لئے ہندو مسلم اتحاد کو بنیاد سمجھتے اور انگریزی حکومت کے خلاف ہر نوعی جہاد میں شریک تھے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے پروپگنڈے سے اشتعال پیدا ہوتا اور لوگ مرنے مارنے پر تڑپ جاتے ہیں اور زیادہ غصہ و غضب اپنوں ہی کے خلاف ہوتا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں شاہ جی پرکشی وقفہ قاتلانہ حملے ہوئے اور وہ بفضائل آمان ہر دفعہ بچ گئے، پہلا حملہ نکلیں ستیہ گرہ کی تحریک

کے دنوں اگر وہ میں ہوا وہاں قصابوں نے رات بھر شور مچائے رکھا کہ ہم جلد نہیں ہونے  
 دیں گے اور فجر کی اذان تک یہی عالم رہا۔ ادھر قصابوں کے پاس چھڑیاں اور کلباڑیاں تھیں  
 ادھر شاہ جی ڈٹے ہوئے تھے، آخر فساد یوں کو جانا پڑا اور شاہ جی نے صبح کی نماز سے ۹ بجے  
 دن تک تقریر کی، اس قسم کی ہنگامہ آرائیاں شاہ جی نے عمر بھر برداشت کیں، بالخصوص نہرو  
 رپورٹ سے لے کر شہید گنج کی تحریک تک اور شہید گنج کی تحریک سے لے کر تحریک پاکستان  
 تک وہ اپنی طوفانوں سے گزرتے رہے، اکثر دفعہ قاتلوں سے واسطہ پڑا لیکن قدرت  
 دستگیری کرتی رہی اور وہ ہر معرکہ سے سرخرو نکلتے۔ ان پر ایک سخت قسم کا دار بندی میں ہوا  
 ایک جانب سے تیزاب میں بھی ہوئی تیز دھاڑ کی چھڑی مجمع کے سروں سے نکلتی ہوئی ان کے  
 سینہ میں پیوست ہوا چاہتی تھی کہ کواٹھ کے ایک ۲۱ سالہ نوجوان نور خان نے پھرتی سے  
 بڑھ کر سینہ پر اٹھالی، نتیجتاً وہ نوجوان اس کے مہلک وار سے انتقال کر گیا۔

مئی ۱۹۲۳ء میں شاہ جی مدرسہ عربیہ شجاع آباد میں مدعو تھے وہاں تقریر کے لئے  
 کھڑے ہوئے تو قاضی احسان احمد سے فرمائش کی، پان نہیں کھلاؤ گے؛ ایک صاحب پاس کھڑے  
 تھے انہوں نے پان پیش کیا اور چلے گئے۔ شاہ جی نے پان کو منہ میں رکھا تو چلا اٹھے نہر  
 دے دیا ہے۔“

فوراُ متھو کا، چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، ڈاکٹر بچمن داس ریٹائرڈ سول سرجن رات  
 تین بجے تک زہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح موت کا وارنا کام ہو گیا۔

میرزا بشیر الدین محمود غلیف قادیان نے بہت سے لوگ ان کے قتل پر مامور کیے لیکن کسی  
 کو کبھی حوصلہ نہ ہوا، آخر میرزا صاحب نے راجندر سنگھ آتش نام کے ایک سکھ نوجوان کو دس  
 ہزار روپے میں خرید کیا۔ پانچ ہزار پیشگی ادا کئے پانچ ہزار بعد از قتل دینے کا وعدہ کیا لیکن  
 راجندر سنگھ آتش نے شاہ جی پر اس راز کا انکشاف کر دیا، دوسری جنگ عظیم میں راجندر سنگھ آتش  
 ننگرہی سنٹرل جیل میں راقم کے ساتھ قید تھا پس دیوارِ زندان میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔

شاہ جی کو زہر کھلانے کی کئی دفعہ کوشش کی گئی لیکن جن لوگوں کو مامور کیا جاتا وہ شاہ جی کے چہرے مہرے سے اتنے مرعوب ہوتے کہ ارادہ توڑ ڈالتے یا انکشاف کر دیتے۔ اپنی واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض زندگیوں کی طرف سے معجزہ ہوتی ہیں جب تک اپنی طبعی زندگی گزارنے لیں موت ان سے بھاگتی ہے اور کوئی سی تواری یا سازش ان پر کامیاب نہیں ہوتی۔

## اولاد

شاہ جی کے نو بچے تھے، چار لڑکے اور پانچ لڑکیاں، سب سے بڑی اولاد سیدہ صفیہ خدیجہ تھیں جو ۱۹۲۱ء میں پیدا ہوئیں، اس وقت شاہ جی میانوالی جیل میں تین سال قید گزار رہے تھے اس بچی کا سوا مہینہ ہی میں انتقال ہو گیا، دوسری بچی سیدہ صالحہ بانو ایک برس کی عمر پا کر رحلت کر گئی، تیسری سیدہ ام کلثوم سوا سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گئی، شاہ جی ان دنوں دیناج پور جیل میں چھ ماہ قید گزار رہے تھے سب سے چھوٹی سیدہ سائہ لپونے دو برس کی ہو کر ۱۹۴۸ء میں لقمہ اجل ہو گئی ان دنوں شاہ جی خان گڑھ میں نواب زادہ نصر اللہ خان کے ہاں مہاجرت کے دن گزار رہے تھے، پانچویں بیٹی سیدہ صادقہ بانو چار بھائیوں کی عابدہ بہن ہیں۔ ان کے میاں سید وکیل شاہ کسی کالج میں تاریخ کے استاد ہیں، غایت درجہ متقی، صالح، فاضل نیک سرشت اور نیک نہاد، سب سے بڑے صاحبزادے سید عطار المنعم (الوذری بخاری) مدرسہ غیر المدارس کے فارغ التحصیل ہیں اور آج کل ملتان میں خود ایک عربی مدرسہ چلا رہے ہیں، باقی تین بیٹے سید عطار الحسن، سید عطار الہیمن اور سید عطار المؤمن باپ نہیں تو باپ کا عکس ضرور ہیں۔ تینوں عربی مدرسوں کے فارغ التحصیل ہیں، کسی بچے کو انگریزی نہیں پڑھائی کہ ان کے نزدیک انگریزی پڑھنا پڑھانا قطعاً حرام تھا۔ ایک دفعہ راقم نے انگریزی پڑھانے پر زور دیا تو بگڑ گئے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ میں انہیں زندہ دفنادوں۔ پھر انگریزی تعلیم کے خلاف نیکوچر جھاڑ ڈالا کہ اس نے مسلمانوں کی نئی پود کو ان کی تحیت سے محروم کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کا حال دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس پود کو فنا کر دینے کے حق میں تھے۔

## علامت

پروفیسر کرنل منیار اللہ نے شاہ جی کا طبی معائنہ کرتے ہوئے کہا تھا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیوں کی عمر دے کر بھیجا تھا لیکن اپنی صحت سے آپ نے انصاف نہیں کیا اور جو کچھ یکایک پیش آگیا ہے اس مجرمانہ، تغافل ہی کا نتیجہ ہے۔

شاہ جی نے ۱۸-۱۹۱۶ء میں تقریریں شروع کی تھیں لیکن اس وقت امرتسر میں ایک واعظ تھے۔ جو نہی جلیا نوالہ بارغ (۱۹۱۹ء) کا حادثہ ہوا تو سیاسی زندگی میں داخل ہو گئے۔ پھر مرض الموت سے کچھ عرصہ پیش تک (۲۱ اگست ۱۹۶۱ء) ریل و جیل اور خطابت و سیاست میں لگے رہے۔ ایام قید، عیدین اور خاص تہواروں کے علاوہ کوئی دن ہو گا کہ آپ نے کسی شہر یا قصبہ میں خطاب نہ کیا ہو۔ عموماً طویل تقریر فرماتے اور جب تک اپنی بات لوگوں کے دل پر نقش نہ کر لیتے تقریر ختم نہ کرتے۔ ان کی بعض تقریریں دس دس گھنٹے بلکہ کئی ایک بیس بیس گھنٹے تک چلی گئیں لیکن کوئی سی تقریر بھی تین چار گھنٹے سے کم نہ ہوتی، ہر جلسہ کے آخر میں تقریر کرتے ان کی نوے فیصد تقریریں دوسرے مقرروں کے بعد رات بارہ بجے شروع ہوتیں اور اذان فجر تک چلتیں۔ جس شخص کو اس قسم کا سفر عنفوان شباب سے لے کر عمر کے آخر دور تک پیش آیا ہو اور زندگی بسر کرنے کے جو اصول ہوتے ہیں ان سے غفلت کی ہو اس کا ۲۷ سال کی عمر میں مر جانا کوئی سانحہ نہیں اس عمر تک زندہ رہنا معجزہ تھا۔

شاہ جی ہندوستان کی تقسیم کے برگ و بار سے اتنے ملول تھے کہ روز بروز ان کی صحت ہلتی گئی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو کبھی صحت مند نہ پایا۔ ختم نبوت کی تحریک ۱۹۵۳ء میں سکھ جیل میں تھے پہلی دفعہ معلوم ہوا دیا بیٹیس لگی ہوئی ہے۔ ۱۶ نومبر ۱۹۵۴ء کو نماز عشاء کے لئے منور کر رہے تھے کہ انہیں اپنی انگلی پر فالج کا اثر محسوس ہوا۔ فرمایا، میں کلمہ پڑھنے لگا اور انگلی پر لانی بعد ہی کا درد کر کے پھونکتا رہا اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا بخش دی۔

۲ جنوری ۱۹۶۱ء کو فالج کا دوسرا لیکن شدید حملہ ہوا اس حملہ سے بے بس ہو گئے،

ان دنوں آپ کے معالج ملتان کے حکیم عطار اللہ خان تھے پھر اسی سال ۱۶ مارچ کو حملہ اور شدید ہو گیا اس حملہ نے زبان اور گلے کو معطل کر دیا۔ عقیدت مندوں کو پریشانی ہوئی ، بیماری شاہانہ ، علاج فقیرانہ ، فقر و فاقہ کہاں متحمل ہوتے ؟ دوستوں نے مل ملا کے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے ہسپتال کی جنرل وارڈ میں داخل کر دیا۔ لاہور نیر ہیپی تو راقم نے فینڈ مارشل محمد ایوب خان کے سیکرٹری مسٹر قدرت اللہ شہاب کے نام ذیل کا خط لکھا۔

۲۱ مارچ ۱۹۶۱ء

براہر مکرم ،

سلام مسنون۔ سید عطار اللہ شاہ بخاری عمر کی آخری منزل میں ہیں کئی عوارض نے انہیں گھیر رکھا ہے ، کسی نہ کسی طرح نشتر ہسپتال ملتان میں داخل بل گیا ہے ، ہم سب ڈاکٹروں کی خصوصی توجہ کے ممنون ہیں۔

چونکہ ایک پورے عہد پر شاہ جی کے احسانات ہیں اس لئے دسک دسے رہا ہوں کہ اس متاعِ عظیم کو عمر کی اس ویرانی میں آپ بے توجہی کا شکار نہ ہونے دیں گے ، اگر آنجنابانی استعمار کی کوئی مصلحت مانع نہ ہو تو نشتر ہسپتال کی مجلس منتظرہ کو اس گرتی ہوئی تاریخی دیوار کی پشتیبانی کی ہدایت فرمائیں ، والسلام۔

آپ کا مخلص

(شورش کشمیری)

بشریت نظر،

جناب قدرت اللہ شہاب سی ایس پی ،

سیکرٹری صدر مملکت پاکستان

پریذیڈنٹ ہاؤس ، اولپنڈی

ادھر ہسپتال میں شاہ جی کے معالج پروفیسر ڈاکٹر عالمگیر تھے وہ میرے عزیز تھے ، ایک

خط اسی روز انہیں بھی لکھا۔

۲۱ مارچ ۱۹۶۱ء

برادرم،

سلام سنون۔ سید عطار اللہ شاہ بخاری ہمارے قافلہ گشدہ کی متاعِ عظیم ہیں، آپ کے زیر علاج ہیں۔ مرحوم ماننی پر ان کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی تمام میمانی ان پر صرف کر دیں۔ یہ خط میں غور شدہ در اقم کی اہلیہ کے کہنے پر لکھ رہا ہوں وہ کہتی ہے کہ میرے ماموں ہمارے روحانی مرشد کا علاج اپنی صحت کی قربانی پر بھی کریں گے، والسلام

آپ کا مخلص

دشورش کاشمیری

بشرف نظر،

پروفیسر ڈاکٹر محمد عالمگیر

نشر میڈیکل کالج

ملتان۔

تیسرا خط اسی دن ملتان کے سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس میاں محمد عباس کو لکھا جن سے احقر کا متوڑا بہت دوستانہ علاقہ تھا۔

۲۱ مارچ ۱۹۶۱ء

برادرم میاں صاحب،

سلام سنون، اگر کوئی سرکاری مصلحت مانع نہ ہو تو ازراہ کرم نشر ہسپتال میں سید عطار اللہ شاہ بخاری کی عیادت فی نفسہ فرمائیں۔ یہ آپ کا تاریخ کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق ہوگا۔

میں نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو یہ خط صحیح لکھ رہا ہوں یا غلط؟ بہر حال دوستی کا تقاضا

۷۱  
اس راستہ کی سفارش بن گیا ہے۔ والسلام

آپ کا مخلص  
(شورشش کاشمیری)

بشرف نظر،

میاں محمد عباس صاحب

ایس ایس پی ، ملتان

مسٹر قدرت اللہ شہاب نے اپنے خط بتاریخ ۲۹ مارچ ۱۹۶۱ء بحوالہ ڈی۔ ۲۸۷۲۔

۱۹۶۱ء میں محولہ بالا خط کا جواب دیا۔

برادرم ، اسلام علیکم،

نوازش نامہ ملا۔ عرصے سے سید عطاء اللہ شاہ بھاری کی علالت کی خبریں آرہی تھیں ،  
جب یہ حالات صدر مملکت کے نوٹس میں لائے گئے تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر  
شاہ صاحب منظور فرمائیں تو علاج کے لئے ان کی خدمت میں کوئی مناسب ماہانہ بھی پیش  
کیا جائے چنانچہ میں نے ایک آفسیر کو ملتان بھیجا اور شاہ صاحب کی منظوری حاصل کر کے  
ان کے نام ہدیہ نامہ مانا جا رہی ہو چکا ہے۔

آپ کا خط آنے پر میں نے پرنسپل نشتر کالج کو آج ہی لکھ دیا ہے کہ وہ شاہ صاحب  
کے علاج پر خصوصی توجہ دیں۔ اور اس سلسلہ میں اگر کسی خاص منہگے علاج کی ضرورت ہو  
تو اس سے گریز نہ کریں اور اخراجات کابل ہمیں بھیج دیں۔

امید ہے آپ مع الخیر ہوں گے، والسلام  
جناب آغا شورش کاشمیری  
ایڈیٹر ہفتہ وار چٹان ، ۸۸ میکلوٹ روڈ ، لاہور

نیازمند  
قدرت اللہ شہاب  
معتد برائے صدر

سے شاہ جی نے نقد روپیہ وصول کرنے سے لشکر یہ انکار کر دیا تھا۔

۳۱ اپریل ۱۹۶۱ء کو لیفٹیننٹ کرنل اسے ایف حسین ایڈمنسٹریٹو نیشنل میڈیکل کالج  
 ہسپتال نے سٹر قدرت اللہ شہاب کو شاہ جی کے بارے میں فیل کی رپورٹ بھیج دی۔

بحوالہ ۸-۵۱-۵۱ این ایچ بتاریخ ۳۱ اپریل ۱۹۶۱ء

شہاب صاحب نے اس کی نقل راقم کے نام بھجوا دی۔ بحوالہ ۶۱-پریس ۳۲۶۱ ڈی

بتاریخ ۱۸ اپریل ۱۹۶۱ء

Copy of D. O letter No. 5108/N. H. dated 3rd April,  
 from Lt. Col. A. F. Hussain, Nishtar Medical College and  
 Hospital, Multan to Mr. Q. U. Shahab, Secretary to the  
 President.

Your letter No. 2159—Press/61 dated the 29th March,  
 1961, addressed to the Principal Nishtar Medical College,  
 Multan, was received by the Chairman, Academic Council,  
 Lt. Col. Najib Khan, on 1st April, 1961, and passed on  
 to me for disposal today.

Syed Ata Ullah Shah Bokhari, was admitted into this  
 Hospital on 20.3.1961. He is suffering from Diabetes,  
 Thrombotic Phenomenon and Senility. He is under the  
 treatment of Dr. Mohammad Alamgir Khan, M.R.C.P.,  
 Professor Clinical Medicine. He is accommodated in a  
 separate room in the ward and given all possible facilities  
 to make him as such comfortable as possible. No special  
 treatment likely to involve any special expenditure would  
 be necessary. I can assure you that every thing possible  
 is already being done and he will "INSHA ALLAH" be  
 looked after in the best possible manner. He is already  
 making some progress.

Regards

PRESIDENT'S SECRETARIAT (PUBLIC)

No. D, 3261-Press/61

Dated 8.4.61

Copy with compliments to Shorish Kashmiri Sahib,  
 Editor: Chatan, Lahore.

Sd/ (Q. U. Shahab)

5th April, 1961.

Secretary to the President

ترجمہ: آپ کا خط بحوالہ ۲۱۵۹-پریس ۶۱ بتاریخ ۲۹ مارچ بنام پرنسپل نیشنل میڈیکل  
 کالج ملتان اکیڈمک کونسل کے چیئرمین لیفٹیننٹ کرنل نجیب اللہ خان کو یکم اپریل کے دن  
 موصول ہوا جو مجھے کارروائی کے لئے دیا گیا۔



سید عطا اللہ شاہ بخاری اس ہسپتال میں ۲۰ مارچ کو داخل کئے گئے وہ ذیابیطس

Senility اور Thrombotic Phenomenon کے امراض کا

شکار ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد عالمگیر خان ایم آر سی پی کے زیر علاج ہیں۔

انہیں وارڈ کے ایک کمرہ میں علیحدہ رکھا گیا اور ممکنہ حد تک آرام و راحت کی تمام سہولتیں دی گئی ہیں۔ کسی خاص علاج کے لئے خاص اخراجات کی ضرورت نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ علاج کے لئے ممکنہ حد تک توجہ دی گئی ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ کوئی سی سی نہ ہوگی، وہ کسی قدر رو بصحت ہو رہے ہیں۔

احترامات

چونکہ شاہ جی کا مزاج انگریزی ادویات کے مطابق نہ تھا، اور اہل خانہ بھی طبیعت تھے، اس لئے ہسپتال میں ایک ڈیڑھ ماہ گزار کے گھر آگئے لیکن چند دنوں بعد حملہ شدید سے شدید ہو گیا۔ لاہور سلطان فونڈری کے مالکان دمولوی محمد اکرم دمولوی محمد اسلم بلتان گئے اور وہاں سے اٹھا کر لاہور لے آئے۔ وہ شاہ صاحب کے عقیدت مند تھے یہاں اپنے بنگلے واقع ماڈل ٹاؤن بی بلاک کو مٹھی نمبر ۷۶ میں رکھا۔ کرنل ضیاء اللہ اور ڈاکٹر محمد یوسف کا علاج ہونے لگا۔ ان کے علاوہ حکیم محمد حسن قرشی، حکیم نیر واسطی، حکیم نبی احمد سوید اور غیرہ سے بھی معائنہ کرایا لیکن

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

۲۶ تا ۲۸ جولائی ۱۹۶۱ء کو اعزہ لاہور سے واپس بلتان گئے لیکن شاہ جی اتنے بڑھے ہوئے تھے اور مرض اتنا جبران ہو گیا تھا کہ منہ میں دانٹ نہ پیٹ میں آنت کے مصداق ہو گئے۔

وفا

آخر ۲۱ اگست ۱۹۶۱ء کو چھ بجکر ۵۵ منٹ پر سناؤنی آگئی کلمہ طیبہ پڑھا اور ارادہ و زبان کا یہ سب سے بڑا خطیب جس نے ایک تہائی صدی تک سیاسی قوتوں اور شرعی بگڑوں کے دونوں اللہ کو پیار سے ہو چکے ہیں۔

میں اذانیں دی گئیں، خالقِ حقیقی سے مابلا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔  
ریڈیو نے ملک بھر میں خبر پھیلا دی، پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ملتان میں جمع  
ہونے لگے، ۲۲ اگست کی سہ پہر تک تقریباً ۲۵ ہزار افراد مختلف شہروں سے ملتان میں  
وارد ہو گئے۔

## جنازہ

کوئی ساڑھے تین بجے بعد نماز ظہر جنازہ اٹھایا گیا، اس وقت بیٹی شیرخان جہاں  
شاہ جی سبتے سبتے تھے کی تمام سڑکیں، میدان، گلیاں، مکان اور چھتیں لوگوں سے اٹی ہوئی  
تھیں، جنازہ کے چاروں طرف آٹھ بانس لگا دیئے گئے۔ ہر شخص کندھا دینے کی  
عبادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک میل لیا جنازہ کا جلوس تھا اور کوئی دو لاکھ آدمی شریک  
تھے، شاہ جی کے فرزند اکبر سید ابوزر بخاری نے ساڑھے چار یا پانچ بجے شام نماز جنازہ  
پڑھائی، حکام ضلع کے علاوہ اکابر شہر اور قرب و جوار کے علماء و صوفیا بھی جنازہ میں شریک  
تھے۔ کوئی ساڑھے چھ بجے شام انسانی عظمتوں اور شرافتوں کا یہ پکیہ باغ لنگے خان کے نزدیک  
جلال باقری کے مشہور قبرستان میں ابدی نیند سو گیا۔ اس وقت لوگوں کے صدرے اور رقت  
کا یہ حال تھا کہ دور دور تک آنسوؤں کا سیل اور چیخوں کا طوفان اُٹھ رہا تھا۔

مسٹر بی اے قریشی کمشنر ملتان نے ملک امیر محمد خان کالاباغ کی ہدایت پر ملتان کے  
تاریخی قلعہ میں دفن کرنے کی پیشکش کی بلکہ اصرار کیا لیکن شاہ جی کے فرزند ان ارجمند نے اس عند  
پر انکار کر دیا کہ وہ اپنے باپ کو مسلمانوں سے الگ کسی امتیازی جگہ میں دفن کرنے کی خواہش  
نہیں رکھتے۔

## تعزیت

شاہ جی کی رحلت پر میرزا میوں کے سوا پورا ملک سو گوار تھا۔ اسی رات قاسم باغ میں  
تید المثال تعزیتی جلسہ ہوا جس میں مولانا محمد علی جالندھری، ماسٹر تاج الدین انصاری

قاضی احسان احمد، مولانا عبدالرحمن لدھیانوی، مولانا مظہر علی ظہر، شیخ حسام الدین اور آغا شورش کاشمیری نے اپنے جلیل المرتبت قائد کو خراج ادا کیا۔ اس وقت مجمع ڈھائیں مار مار کر رو رہا تھا۔ آغا شورش کاشمیری نے کالونی ملز ملتان کے میزانی مالکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی جو اس وقت بھی اپنی کسی تقریب میں فلمی دھنوں کے ریکارڈ بجا رہے تھے، اور جن کے لئے شاہ جی رحلت اس سال کا لمحہ مسرت تھا۔

## ارادت

شاہ جی کی وفات پر ملک بھر میں ماتم کیا گیا۔ تمام اخبارات نے ادارے نکلے ہندوستان میں خبر پہنچی تو وہاں دینی حلقوں نے ماتم کیا اور سیاسی حلقوں میں اندوہ کا اظہار کیا گیا۔ فیڈرل محمد ایوب خان نے کہا کہ:

”سید عطاء اللہ شاہ بھٹائی ہنگ آزادی اور اسلام کے زبردست مجاہد تھے۔“

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے فرمایا:

وہ اپنے دور کے سب سے بڑے خطیب تھے۔

پنڈت جواہر لال نہرو نے تعزیت کے خط میں لکھا کہ:

”زمانہ ایک ایسی شہسختی سے محروم ہو گیا جس کا وجود اس بزرگ کے لئے ایک عظیم عطیہ تھا۔ تاریخ ان کے مقام کا فیصلہ مزور کرے گی لیکن ہمارے دل ان کے مقام کا تعین کر چکے ہیں کہ ان کی رحلت سے آنکھیں اشکبار ہیں نہ جانتے اب ان سے کہاں ملاقات ہوگی۔“



## قید و بند

”زندگی ہی کیا ہے؟ تین چوتھائی ریل میں کٹ گئی، ایک چوتھائی جیل میں جتنے دنوں باہر رہا لوگ گلے کا بار ہوتے رہے آج کلکتہ کل ڈھاکہ، ڈھاکہ سے لکھنؤ، لکھنؤ سے بمبئی پھر آگرہ، آگرہ سے دہلی، دہلی سے لاہور، لاہور سے پشاور، پشاور سے کراچی۔ ذرا ہندوستان کے دیہات اور قصبات کا اندازہ کر لو، ہر کہیں گھوما پھرا ہوں۔ سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں تین سو چھیاسٹھ تقریریں کی ہوں گی ع

دن کہیں صبح کہیں شام کہیں رات کہیں

”میں نے تقریر کی لوگوں نے کہا ”واہ شاہ جی واہ“ میں قید ہو گیا لوگوں نے کہا ”آہ

شاہ جی آہ“ اور واہ واہ میں ہم ہو گئے تباہ۔ ا

ستید عطار اللہ شاہ سمناری

### اجتماعی قید

شاہ جی کی کل قید آٹھ اور نو سال کے لگ بھگ ہے، پہلی دفعہ آپ تحریک خلافت میں زیر دفعہ ۱۲۴ الف، ۱۴ مارچ ۱۹۲۱ء کو بمقام امرتسر پکڑے گئے اور تین سال باسقت قید کی سزا پائی جو تمام بھگتی۔ دوسری دفعہ راج پال کے فتنے کی سرکردگی میں ۶ جولائی ۱۹۲۷ء کو گرفتار ہوئے اور ایک سال کے لئے قید کر دیئے گئے۔ ۱۹۳۰ء میں کانگریس نے نمکین ستیہ گڑھ کا

آغا زکیا تو مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت موعنی لال نہرو کی خواہش پر تمام ہندوستان کا دورہ کیا۔ خیبر سے کلکتہ تک پولیس نے تعاقب کیا لیکن اسے جل دے کر نکل جاتے رہے۔ آخر ۳۰ اگست ۱۹۳۰ء کو دیناج پور میں پکڑے گئے اور ۲۰ اکتوبر کو چھ ماہ قید کا حکم سنایا گیا۔ یہ تمام عرصہ آپ نے علی پور اور ڈم ڈم جیل میں گزارا۔ ۱۹۳۲ء میں احرار نے تحریک کشمیر چلائی تو اس کی پاداش میں دھر لئے گئے اور دو سال جیل میں رہے۔

میرزا انیت کا محاسبہ شروع کیا تو انگریزی عہد میں دو دفعہ پکڑے گئے، ایک دفعہ تو مسٹر جی ڈی کھوسلہ سیشن جج گوروا سپور نے تابہ اجلاس عدالت کی سزا دے کر چھوڑ دیا اور میرزا انیبوں کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ لکھا۔ دوسری دفعہ قادیان میں داخلہ کی پابندی توڑی اور تین ماہ کے لئے سزایاب ہو گئے۔ ۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز سے چند دن پیشتر سردار سکندر حیات کی وزارت نے  $\frac{۳۰۲}{۱۱۷}$ ، ۱۲۴۰ اور ۱۵۳ الف ایسی سنگین دفعات کے تحت گرفتار کر لیا اور دو جگہ مقدمات دائر کئے گئے، راولپنڈی اور گجرات! لیکن پولیس رپورٹ لدھارام نے بھانڈا چھوڑ کر وزارت کی سازش کو چوپیٹ کر دیا۔ چھ ماہ جیل میں رہ کر بری ہو گئے۔

پاکستان میں تحریک ختم نبوت کی پاداش (۱۹۵۳ء) میں پکڑے گئے۔ ۲۷ فروری ۱۹۵۳ء کو کراچی میں راتوں رات پولیس نے گرفتار کیا اور سندھ کی مختلف جیلوں میں سیکورٹی ایکٹ کے تحت محبوس رکھا۔ کوئی ایک سال بعد مراجعہ دائر ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کے احکام سے چھوٹ گئے۔

مئی ۱۹۵۶ء میں آپ کو ملتان کے حدود میں سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا گیا۔ جولائی کے اواخر میں ڈاکٹر خان صاحب نے ان احکامات کو منسوخ کر دیا۔ خانیوال اور ملتان میں ۲۱ سیفٹی ایکٹ کے تحت دو مقدمے چلانے گئے مگر آخر سرکار نے واپس لے لیے۔

## تربیت گاہ

جیل خانے میں قیدی کی نفسیات عجیب و غریب ہوتی ہیں، چہن تک ان کی معنوی خصوصیت کا تعلق ہے وہ تو ہر قیدی کے باب میں یکساں ہے لیکن مختلف طبائع مختلف اثرات اند کرتی ہیں۔

ہندوستان کی سیاسی تحریکیوں میں اجتماعی قید و بند نے بہت سے لوگوں میں ادب و سیاست اور فکر و نظر کی وسعتیں پیدا کیں، ہر شخص بقدر استعداد ایک دوسرے سے مستفید ہوتا اور ذہن پر دان چڑھتا تھا، انہی صحبتوں سے سیاسی ذہن میں استقلال پیدا ہوتا تھا اور مزاج میں پختگی آتی تھی اس دور کے بیشتر رہنماؤں اور بہت سے سیاسی کارکنوں کی سیاسی معراج جیل خانے کی ان صحبتوں ہی کے فیضان کا نتیجہ تھی البتہ قید تنہائی غور و فکر کی عادی طبیعتوں کے سوا عام حالات میں مہلک ثابت ہوتی اس سے مزاج میں مہور پیدا ہوتا یا پھر غصہ جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاپن نشوونما پاتے تھے۔

شاہ جی جب کبھی قید ہوئے عام جماعتی رفقا سے ان کا ساقدار ہا۔ اگر کبھی علیحدہ رہنا پڑا تو اپنی انجمن خود بنالی، جہاں گئے اپنی باغ و بہار طبیعت ساتھ لے گئے۔ ان کی شخصیت کے گرد بڑائی کا ایک خاص ہالہ بنا ہوا تھا جس سے ہر کوئی ان کے احترام پر مجبور تھا۔ قیدی سے لے کر افسر تک سب ان کی طرف کھینچے اور عورت کرتے تھے۔ "سکندر وزارت" کے عہد میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل کا انگریز سپرنٹنڈنٹ کرنل ہاڈر آپ کا گرویدہ تھا۔ معلوم تھا کہ شاہ صاحب انگریزوں کے کڑے دشمن ہیں لیکن وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہی نہیں مرعوب تھا۔ اس نے آپ کو بیڈ منٹن کھیلنے پر آمادہ کیا۔ شاہ جی جب تک راولپنڈی جیل میں رہے وہ ہر شام آپ سے بیڈ منٹن کھیلا کرتا۔ اس نے برعنوان ہندوستان کی یادیں ایک کتاب لکھی ہے جس میں اپنے بعض مطالعات و تجربات کا ذکر کیا ہے۔ شاہ جی کے سعلق لکھا ہے کہ:

”بن قیدیوں نے مجھے اثنائے ملازمت میں متاثر کیا ان میں عطا اللہ شاہ بخاری نام کا ایک سیاسی قیدی بڑی ہی دلفریب شخصیت کا مالک تھا، اس کا چہرہ مہرہ چرچ کے ان مقدس راسبوں کی طرح تھا جن کی تصویریں یسوع مسیح سے مشابہ ہوتی ہیں۔ یا پھر ان سترقین کی طرح جنہیں یورپ میں خاص عروت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم اسے عرب کے بڑے بڑے قاصدوں سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں لیکن ان کے صمیم شناسا ہمارے ہاں کتنے ہیں؟ میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا لیکن ہمارے درمیان سب سے بڑی روک ہماری مختلف زبانیں تھیں۔ میں تو اس کی زبان کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیتا تھا لیکن وہ انگریزی سے قطعاً ناواقف تھا۔ اس کا بڑا سبب غالباً یہ تھا کہ وہ ۱۸۵۷ء کے اس ایشیائی برٹش“ ذہن کی باقیات میں سے تھا جنہیں ہمارے پیشرووں نے علما کو چھانسی دے کر پیدا کیا تھا“

## یاد دہائے رفتہ

شاہ جی تحریک خلافت کے ایام اسیری کا ذکر بڑی حسرت اور مسرت سے کرتے تھے ان کی رائے میں وہ دن ان کی زندگی کا حاصل تھے۔ تمام ملک مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں ایک بڑا جیل خانہ بن چکا تھا۔ بالخصوص پنجاب کے قید خانے اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کا دارالعلوم تھے۔ شاہ جی سزایابی کے فوراً بعد لاہور جیل میں رکھے گئے۔ جہاں ان کے ساتھ بابا گوہر دست سنگھ، لاجپت رائے، مولانا عبدالمجید ساکت، مولانا نقار اللہ عثمانی، صوفی اقبال احمد پانی پتی، مولانا اختر علی خان، سردار سردول سنگھ کوشینہ، راجہ غلام قادر خان، سردار سنگھ سنگھ، پنڈت نیکی رام شرما اور بعض دوسرے لوگ بھی محبوس تھے۔ کچھ دنوں بعد لالہ لاجپت رائے کے سوا گیارہ نفوس کا یہ قافلہ میاں لرنالی جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں مولانا احمد سعید دہلوی اور ڈاکٹر ستیہ پال پہلے سے موجود تھے۔ ایک بزم آسا ستہ ہو گئی۔ اس قید و بند کے حالات مولانا عبدالمجید ساکت نے اپنی سرگزشت“ میں تفصیل سے لکھے ہیں، ملاحظہ ہو:

”جیل میں ایک احاطہ تھا جس کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ میں چار کوٹھڑیاں تھیں۔



اس کو منڈے خانہ“ یعنی لڑکوں کا احاطہ کہتے تھے اور ایک حصے میں ایک بڑا اور کھلا کرہ تھا جس میں سات آٹھ قیدیوں کے لئے گنجائش تھی چونکہ یہ کرہ قید محض (یعنی بے مشقت) والے قیدیوں کے لئے مخصوص ہوتا تھا اس لئے کرہ کہلاتا تھا۔ یہ دونوں حصے ایک درمیانی دروازے سے ملے ہوئے تھے۔ اختر علی خان، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا داؤد غزنوی، عبدالعزیز انصاری، عطاء اللہ شاہ بخاری، مولوی تقار اللہ، صوفی اقبال، راجہ غلام قادر خان، مولانا عبد اللہ چوڑی دہلوی، میں اور نذیر احمد سیاب محض کرے“ اور منڈے خانے“ میں بھیج دیئے گئے۔ اور وہیں ہمارے باورچی خانے کا انتظام کر دیا گیا۔ مردار مردول سنگھ کوشیر، سردار منگل سنگھ اور ان کے دو ہندو ساتھی ہندو ولیڈروں کے احاطے میں بھیج دیئے گئے جس میں اب ڈاکٹر ستیہ پال، لالہ گردہاری لال امرتسری، لالہ ترکوچ چند، دلش بندھو گپتا (ریج) اور متعدد مشہور کارکن آگئے تھے۔ چند ہی ہفتوں میں میانوالی جیل سیاسی قیدیوں سے معمور ہو گیا اور رضا کاروں کے احاطوں سے قومی نعروں کی ولادین صدا میں بلند ہونے لگیں۔ پڑھے لکھے قیدیوں نے مطالعہ وغیرہ کا مشغلہ اختیار کیا۔ چنانچہ ہم لوگوں کا پروگرام یہ ہوتا تھا صبح آٹھ کر ضروریات سے فارغ ہونے، نماز باجماعت ادا کی اور چائے پی۔ اس کے بعد میں اور عبدالعزیز انصاری مولانا احمد سعید سے ادب عربی صرف و نحو عربی اور منطق کا سبق لینے لگے۔ اختر علی خان اور راجہ غلام قادر خان، سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے قرآن صحیح کرنے لگے، مولوی تقار اللہ عثمانی اپنی سازشوں اور چوریوں میں مصروف ہو گئے یعنی فلاں فلاں مطلوبہ چیز کیونکر چوری چھپے باہر سے منگوائی جائے اور فلاں پیغام فلاں شخص کو کس تدبیر سے پہنچایا جائے۔ مولوی تقار اللہ نماز میں ہم سب کے پیش امام بھی تھے اور یہ چوری چھپے کے کام بھی انہی کے سپرد تھے چنانچہ میں نے ان کا لقب ”امام السارقین“ مقرر کیا تھا، سید حبیب بعض وجوہ سے ہمارے ساتھ نہ ٹھہر سکے اس لئے دوسرے احاطے میں چلے گئے تھے۔ ایک زمانہ میں وہ مولانا داؤد غزنوی کو انگریزی پڑھانے لگے تھے اور مولانا داؤد سید حبیب کو عربی پڑھاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ ان کو انگریزی

آئی نہ ان کو عونی — خیر میں دن بھر کا پر کرام عرض کر رہا تھا۔ صبح ہم محتوطی سی مشقت بھی کرتے تھے یعنی چرنے یا پانچ تار کا سوت صرف بقدر دو چھٹانک، درمی بانی کے لئے بٹ دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی بیس منٹ کا کام تھا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد تعلیم کا سلسلہ ایک بجے تک جاری رہتا۔ اس وقت مولانا عبداللہ چوڑی والے لکار کے کہتے آئے جہاں کھانا تیار ہے " اگرچہ ہمارا کھانا پکانے پر مشقتی قیدی مقرر تھے لیکن ہم نے باورچی خانے کا چارج مولانا عبداللہ کو دے رکھا تھا۔ اور انہوں نے اپنے فرائض مفروضہ کو جس خوبی اور خوش اسلوبی سے انجام دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنی مہارت فن سے دہلی کے وہ وہ کھانے پکانے ہمیں کھلائے کہ جیل کو دیکھ کے گھریا آیا " سب اکٹھے بیٹھ کر لطف کے ساتھ کھانا کھاتے اور قیلوہ فرماتے۔ نماز ظہر اور عصر کے بعد چائے کا دوسرا دور جاری ہوتا۔ مغرب کے بعد کھانا کھایا جاتا اور عشاء کے بعد بھی دیر تک بحث مباحثے جاری رہتے۔ کبھی کبھی قوالی بھی ہوتی تھی جس میں اختر علی خان گھڑا بجاتے، صوفی اقبال تالی بجا کر تان دیتے، سید عطار اللہ شاہ بخاری غزل گاتے، مولانا احمد سعید شیخ مجلس بن کر بیٹھے اور مولانا داؤد غزنوی اور عبدالعزیز انصاری حال کھیلتے۔ غرض ہم لوگوں کے مشاغل، صوم و صلوة، تلاوت قرآن، تعلیم و تعلم اور تفریح و تفسن کے تمام پہلوؤں سے مکمل تھے لیکن بعض اوقات قوالی میں اتنا خلغہ اور دلولہ ہوتا کہ دوسرے دن ہمارے ہمسائے یعنی چھانسی کی کوٹھڑیوں والے قیدی سپرنٹنڈنٹ جیل سے شکایت کرتے کہ حضور ہمیں یہاں سے کہیں اور بھیج دیجئے یہ مولوی لوگ ہمیں ساری رات سونے نہیں دیتے۔

اب ہمارے کہیں میں ایک قابل قدر شخصیت کا اضافہ ہو گیا تھا دہلی کے مولانا عبداللہ چوڑی والے آپکے تھے اور ان کی وجہ سے ایک خاص قسم کی شگفتگی و وستوں میں پیدا ہو چکی تھی۔ مولانا دہلی کے نہایت ممتاز قومی کارکن ہونے کے علاوہ مختلف قسم کے دہلوی کھانے پکانے میں بڑے ماہر تھے چنانچہ مولانا احمد سعید کی استدعا پر انہوں نے ہمارے باورچی خانے کا چارج لے لیا۔ اور اسی دن سے

ہمارے دسترخوان کی لذتوں میں اضافہ ہو گیا۔ کہیں کھڑے سالے کا قورمہ پک رہا ہے کبھی میٹھے مکڑے تیار ہو رہے ہیں، کبھی پُر تکلف قبولی کچھڑی تیار ہو رہی ہے۔ کبھی ماش کی پھریری وال دسترخوان پر آرہی ہے۔ چونکہ ہمیں دو چھٹانک فی کس کے حساب سے گھی ملتا تھا اور معمولی کھانوں میں استعمال ہونے کے بعد بچ رہتا تھا اس لئے مولانا عبد اللہ اس کا خشک حلوا تیار کر لیتے تھے اور اس کے قتلے کاٹ کر سب دوستوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ حلوا عام طور پر تیسرے پہر کی چائے کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ مولانا عبد اللہ کی عمر تو اس وقت سینتیس اڑتیس سال سے زائد تھی لیکن سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ داڑھی فرنج کٹ تھی اور سرخ و غیر رنگت پر بہا رہتی تھی۔ پرلے درجے کے ہنسوز اور خوش مزاج واقع ہوئے تھے اور دلچسپ واقعات اور لطیفے سنا کر ہم سب کا دل بہلاتے تھے۔

یوں تو سبھی احباب شفیق اور محبت پرور تھے مگر مولانا احمد سعید بے تکلف دوست ہونے کے علاوہ عربی میں میرے اُستاد بھی تھے۔ عبد العزیز انصاری بڑے قابل اور مخلص انسان اور تحصیل عربی میں میرے ہم سبق تھے۔ لقاء اللہ عثمانی، صوفی اقبال احمد، اختر علی خان سبھی سے برادرانہ تعلقات تھے لیکن جو خصوصیت سید عطار اللہ شاہ بخاری سے تھی وہ اپنے رنگ میں مثال نہ رکھتی تھی شاہ صاحب اس زمانے میں شعر تو نہ کہتے تھے لیکن اردو اور فارسی میں شعر فہمی اور سخن سنجی کا مکملہ خصوصی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی شگفتگی طبع ان کا خلوص، ان کی محبت پروری بے مثال تھی۔ بازایا ایسا ہو کہ رات کے وقت دوسرے احباب خواب غفلت میں پڑے خراٹے لے رہے ہیں اور میں اور شاہ جی جو باتیں کرنے لگے تو رات کے تین بج گئے۔ خدا جانے وہ کون سے موضوع تھے جس پر اس قدر طویل گفتگوئیں ہوتی تھیں

لیکن دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وقت گزرتا جاتا تھا اور ہمیں احساس تک نہ ہوتا تھا۔ جیل کی زندگی میں لطیفوں کی کمی نہ تھی۔ ایک دن شاہ صاحب نے قصہ سنایا کہ پٹنہ میں ایک مولوی صاحب و عظیم زادہ ہے تھے جس میں "لا قنا بزو اباللقاب" کی تفسیر

کے سلسلے میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کی چڑھ مقرر نہ کرنی چاہیے جس سے دوسرا شخص چڑھ جائے۔ مجلس واعظ میں ایک مقامی تحصیل دار صاحب بیٹھے تھے انہوں نے پاس بیٹھتے ہوئے ایک صاحب سے کہا، لوگ یونہی چڑھ جاتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو چڑھانے کی کوشش کرے اور وہ نہ چڑھے تو کوئی بات نہیں مخاطب نے جواب دیا، نہیں حضرت چڑھ کی بات سے آدمی چڑھ ہی جاتا ہے، اس سے تعافل نہ کرنا بڑا مشکل ہے، تحصیل دار صاحب قائل نہ ہوئے تو دوسرے شخص نے خاموشی اختیار کر لی، دو پارمنٹ گزرے تھے کہ اس شخص نے تحصیلدار صاحب سے پوچھا، کیوں صاحب آپ کے ہاں شلجم کا اچار ہے، جواب ملا نہیں صاحب، میرے ہاں شلجم کا اچار نہیں ہے۔ کوئی دنٹ کے بعد اس نے پھر سوال کیا، کیوں صاحب آپ کے ہاں شلجم کا اچار ہے؟ تحصیلدار صاحب نے جواب دیا کہ میں عرض کر چکا ہوں نہیں ہے، یہ بہت خوب کہہ کر پھر چپ ہو گئے۔ لیکن ابھی پانچ منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ پھر پوچھا، تحصیلدار صاحب، آپ کے ہاں شلجم کا اچار تو ہوگا۔ تحصیلدار صاحب برہم ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ نے مجھے سزا مقرر کر رکھا ہے۔ تین دفعہ تو کہہ چکا ہوں کہ شلجم کا اچار نہیں ہے لیکن آپ برابر وہی پوچھتے جا رہے ہیں، اس شخص نے معافی مانگی اور خاموش ہو گیا لیکن ابھی دو ہی منٹ ہوئے تھے کہ اس نے پھر وہی سوال دہرایا کیوں صاحب آپ کے ہاں شلجم کا اچار ہے۔ اب تحصیلدار صاحب کے منبظ کا پیمانہ چھلک گیا کہنے لگے عجیب بدترین بدوتم؟ یہ کیا بکو اس ہے؟ شلجم کا اچار ہے، شلجم کا اچار ہے، ساری مجلس وعظ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مولوی صاحب نے وعظ روک دیا اور شخص نے فقط اتنا کہا کہ صاحب میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ شلجم کا اچار ہے۔

تحویلدار صاحب نے جرتا پڑ لیا۔ اب آگے آگے وہ شخص اور پیچھے پیچھے تحصیلدار صاحب جھاگتے ہوئے مجلس وعظ سے نکل کر بازار میں پہنچ گئے، وہ شخص بار بار پیچھے مڑ کر پوچھتا شلجم کا اچار ہے؟ تحصیلدار صاحب گالیاں دیتے ہوئے اس کو مارنے دوڑے، یہاں

تک کہ شلم کا اچار شہر مہر میں مشہور ہو گیا۔ تحصیل دار صاحب جدھر سے گذرتے لوگ بہانے بہانے شلم کے اچار کا ذکر چھیڑ کر ان کو چڑاتے اور وہ چڑ کر گالیاں بکتے۔ لطیفہ نہایت دل کش تھا۔ دن بھر یاروں میں اس کا چرچا رہا۔ تین پارہ دن کے بعد دوستوں نے سازش کی کہ تیس عطار اللہ شاہ کو چڑایا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے صوفی اقبال احمد شاہ جی کی کو ٹھٹھی کے سامنے پہنچے اور انگشت شہادت سے اشارہ کر کے پوچھا، شاہ جی آپ کے پن ہوگی، شاہ جی نے کہا نہیں مہائی میرے پاس پن نہیں ہے۔ کوئی ایک منٹ کے بعد اختر علی خان پہنچے اور اس طرح انگشت شہادت کے پورے سے اشارہ کر کے پوچھا کیوں شاہ جی آپ کے پاس پن ہوگی، شاہ جی نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ پن نہیں ہے۔ دو منٹ کے بعد ایک اور صاحب پہنچے، شاہ جی پن ہے؟ شاہ جی کے مزاج کا پارہ چڑھنے لگا۔ باہر نکل آئے اور کہنے لگے کیا تم سب کے ٹانگے اڈھڑ چکے ہیں کہ باری باری آکر مجھ سے پن مانگتے ہو، اتنے میں ایک اور دوست پہنچ گئے اور نہایت منانت سے فرمانے لگے شاہ جی آپ کے پاس پن تو ہوگی؟ شاہ جی نے انہیں بڑی طرح ڈانٹا اس کے بعد جو ہر طرف سے شاہ جی پن ہی کے سوالات شروع ہوئے تو شاہ جی اتنے غصے میں آئے کہ مادر و خواہر کی مغلظات تک سنا دیں۔ خیر ہم نے بڑی کوشش اور خوشامدور آمد سے ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور بتایا کہ ہم تو صرف شلم کے اچار والے لطیفے کو دہرا رہے تھے۔

## جیل یا کھیل

جو لوگ شاہ جی کے ساتھ جیل خانے میں رہے ان کا بیان ہے کہ شاہ جی قید کو کبھی سیریس (SERIOUS) نہیں لیتے تھے، جیل خانے کی پار دیواری میں ان کے تہقہ زیادہ وسیع ہو جاتے، اکثر ہندو نوجوان جو جیل میں ساتھ رہے آپ کی باغ و بہار طبیعت کے انتہائی گردیدہ تھے بالخصوص کیونسٹ اور سٹوڈنٹ نوجوان جو ان کی شخصیت سے پیار کرتے لیکن خطابت سے خوف کھاتے تھے۔ مشہور میٹر رسٹ قیدی شیر جنگ نے ملتان سنٹرل جیل میں

آپ سے ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھا تھا، ایک دن اُس نے سوال کیا:  
 ”شاہ جی، قرآن میں یہ تو درج ہے کہ مسلمان آزاد رہ کر اس طرح زندگی بسر کریں لیکن یہ کہیں  
 درج نہیں کہ غلام ہوں تو کیونکر زندگی گزاریں؟ سارے قرآن میں مسلمان اور غلامی کہیں بھی  
 اکٹھے نہیں ہیں، آخر مسلمان جنگ آزادی میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟“  
 یہ بات شاہ جی کے دل میں اتر گئی۔ پھر کیا تھا مدتِ عمر عام بلسوں میں مسلمانوں سے  
 اس کا جواب پوچھتے پھرے۔

ایک سوشلسٹ نوجوان نے جب آپ کے ساتھ قید میں تھا سوال کیا:  
 شاہ جی آپ نے کبھی نماز ترک نہیں کی اور نہ کبھی روزہ چھوڑا؟ پھر آپ کا دل عام نازیوں  
 کی طرح سخت کیوں نہیں؟

شاہ جی مسکرائے، فرمایا بھائی جو مذہب انسان کے دل کو گداز نہیں کرتا وہ مذہب  
 نہیں سیاست ہے اور مجھے ایسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔

شاہ جی نے جیل میں موٹج کوٹی، بان بٹا اور گندم پیسی لیکن عام طور پر شفقت سے بے نیاز  
 ہی رہے، ایک زمانہ میں ٹوپی پہننا چھوڑ دی، کسی نے وجہ پوچھی فرمایا پہلی دفعہ جیل گیا تو جیلر  
 نے ہاتھ بڑھا کر ٹوپی اتارنا چاہی، میں نے ہاتھ روک لیا اور اتار کر خود حوالے کر دی، تب  
 سے فیصلہ کیا ہے کہ ٹوپی نہیں پہنوں گا۔ بس یہ چور گوشیہ رومال سر پر رکھتا ہوں۔

اب تو جیل خانوں میں کافی اصلاح ہو چکی ہے ایک زمانہ میں قیدی کو تین ماہ بعد ایک  
 خط لکھنے اور دو ماہ بعد ایک خط وصول کرنے کا حق ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا جبر تھا۔ نتیجتاً  
 بہت سے قیدی بیزنگ خط لکھتے جو بیرونی سنسر شپ کی وجہ سے کپٹے جاتے اور ان کی سزا  
 کا موجب ہوتے، شاہ جی نے اس کا توڑ پیدا کیا۔ پنڈت کرپارام برہم چاری کے نام سے اپنے  
 احباب کو دیناج پور جیل سے اکثر خط لکھتے رہے اور یہ نام سید عطار اللہ شاہ بخاری کا ترجمہ یا  
 بدل تھا۔

آپ کی قید و بند کا یہ پہلو دلچسپ تھا کہ جب بھی آپ پر کوئی آفت ٹوٹی بفضل تعالیٰ آوارہ ٹکڑے کی طرح نکل گئی مثلاً سکندر وزارت کے ساختہ مقدمات نہایت سنگین تھے ان میں عمر قید یا سزائے موت کی سزائیں تھیں لیکن کل

رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گذشت

ان مرحلوں میں لاکھوں انسانوں کی دعائیں آپ کے شامل حال تھیں، ہزاروں افراد جن میں عابد شب زندہ دار سے لے کر زاہد متراض تک شریک تھے، آپ کے دعا گو رہے اور بڑے سے بڑا معرکہ سر ہوتا رہا ہے

ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں

جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے

بعض اہل اللہ نے قرآنی وظائف بتا رکھے تھے۔ عمر سحران قرآنی وظائف کا درو کیا۔ اسی عمر میں انہی وظائف کے ہو گئے۔ ان کا بیان تھا کہ اہل اللہ کی توجہ اور قرآن پاک سے ان کے شغف کا نتیجہ ہے کہ انہیں کوئی طاقت سر نہیں کر سکتی اور نہ کسی پجنت و پز سے اپنی مرضی و منشا کے مطابق قید میں ڈال سکتی ہے لطیفہ غیبی کہتے کہ تحریک خلافت کی سزا قید کے بعد وہ کبھی کسی طویل عرصہ کے لئے اسیر نہ ہوئے۔ جس زمانہ میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلی تو اپنے واضح خیالات کے باوجود کھلا پھرتے رہے۔ پاکستان میں تحریک ختم نبوت کا جو اندوہ ناک نقشہ جما اس قید سے بھی ایک سال کے اندر اندر رہا ہو گئے تقریروں میں گرفت کا عنصر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ ہائے غزل کی طرح اتنی رنگارنگ ہوتیں کہ انہیں اول تو قلمبند کرنا ہی دشوار تھا، دوم سہ آئی ڈی کا محکمہ جن فضلائے عصر پر مشتمل تھا وہ ان الفاظ و مطالب کی کپڑے قاصر تھے ان میں مطالب آشنائی کا جوہر ہی نہ تھا۔

سنگین مقدمہ

سکندر مرحوم کی وزارت نے آپ کو جن نازک موقع پر جن سنگین دفعات کے تحت پکڑا

تھا اس کے پیش نظر شخص کو اندیشہ تھا کہ عمر قید سے کیا کم سزا ہوگی۔ لیکن قدرت نے دستگیری کی اور حالات نے معجزاتی طور پر پلٹا دکھایا جس رپورٹ (لدھارام) نے تقریر قبلت کی تھی وہ ایک ایک فرنٹ ہو گیا۔ اس نے لالہ کھمی داس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گجرات کی عدالت میں ۱۸ دسمبر ۱۹۴۷ء کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ شاہ جی کے خلاف جو تقریر پیش کی جا رہی ہے وہ حکومت کے ایما پر فرضی تیار کی گئی ہے چونکہ میرا منیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں ایک بے گناہ شخص کو بلاوجہ مصیبت میں مبتلا کروں لہذا مجھے اصل حقیقت کے انکشاف کی اجازت دی جائے۔

اس تاریخی بیان نے صورت حالات اٹا دی۔ وزارت گھبرا گئی، ایڈووکیٹ جنرل نے ۱۳ فروری ۱۹۴۷ء کو ہائی کورٹ میں درخواست گزار کی کہ چونکہ اس مقدمہ میں استغاثہ کے گواہ لدھارام نے صوبہ کے وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے جس سے مقدمہ کی نوعیت بدل گئی ہے لہذا مقدمہ کا فیصلہ عدالت عالیہ میں ہونا چاہیے۔ جسٹس سینیپ نے درخواست منظور کر لی، چیف جسٹس سر ڈگلس گینگ اور جسٹس رام لال پر مشتمل ڈویژن بنچ نے گیارہ مارچ کو سماعت شروع کی اور بارہ مارچ کو مقدمہ لدھارام کی شہادت کے لئے یکم اپریل پر ملتوی ہو گیا۔ اس آشنائیں لدھارام روپوش رہا۔ یکم اپریل کو ڈرامائی انداز میں حاضر عدالت ہو گیا۔ اس کی شہادت تین دن جاری رہی جس میں اس نے عجیب و غریب انکشاف کئے۔ عدالت، مایہ نے اسے جھوٹا قرار دے کر شاہ جی کو استغاثہ کی بے اعتبار شہادت کے پیش نظر ہاکر دیا۔ سر ڈی فالٹا سیشن جج لاہور نے بھی ۷ جون ۱۹۴۷ء کو دوسرے مقدمے میں رپاکر دیا۔

لدھارام کے بیانات کا خلاصہ یہ تھا کہ جو تقریر اس عدالت میں پیش کی جا رہی ہے وہ بنائی گئی ہے کیونکہ جس شارٹ بینڈ نوٹ بک پر اس نے تقریر کے حقیقی نوٹ لئے تھے اُسے پرائیویٹنگ انپیکٹر کے مکان پر ملا دیا تھا۔ اسے کہا گیا کہ سپرنٹنڈنٹ پولیس کو وزیر اعظم



پنجاب کی ایک خفیہ جھٹی ٹی ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری گجرات کے ضلع میں یونینسٹ پارٹی کے خلاف منافرت پھیلانے آ رہا ہے اس کی تقریر کے نوٹ اس طریق سے لکھے جائیں کہ تقریر دفعات ۳۲، ۱۱، اور ۱۵۳ الف کی زد میں آجائے۔ اس کی تعمیل کی گئی پر اسی کیوٹنگ انسپکٹر نے ان مختصرات کی بنا پر نئے شارٹ سینڈ نوٹ لکھوائے اور ان سے لانگ سینڈ نوٹ تیار کئے گئے جن کی بنا پر یہ مقدمہ قائم ہے۔

اس بیان نے سکندر وزارت کی اخلاقی ساکھ کو بے حد نقصان پہنچایا۔ جنگ کا زمانہ نہ ہوتا تو ممکن تھا اس کے نتائج سیاسی اعتبار سے کچھ اور ہوتے مگر جنگ کی وجہ سے بہت سی گریہیں کھلتے کھلتے رہ گئیں تاہم سکندر وزارت کو رسوائی کا داغ سہنا پڑا۔ سر ڈگلس ننگ نے آغاز مقدمہ سے کچھ دن پہلے مولانا عبید الرحمن لدھیانوی سے ان کی خواہش پر ملاقات کی۔ مولانا کے علم میں تھا کہ سر ڈگلس اور سکندر حیات میں کسی بات پر شکر رنجی ہے، انہوں نے ساری رام کہانی سنائی، تو سر ڈگلس نے بروایت وعدہ کیا کہ وہ سازش کا کھوج نکال کر دم لیں گے لیکن مولانا سے سوال کیا کہ احرار نے فوجی بھرتی کے خلاف جو ہنگامہ برپا کیا ہے اس کا جواز کیا ہے؟ مولانا سوال کی گرفت سے چرکنے ہو گئے، کہنے لگے ہمارے خلاف جب اس قسم کے خطرناک مقدمات گھڑے جائیں تو اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ ذہن بھرتی کی مخالفت کر کے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ میں قید ہو جائیں اس طرح یونینسٹ وزارت کی منشا بھی پوری ہو جائے گی اور احرار بھی مقابلتہً جھوٹے مقدمات کی طویل سزاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اقصیٰ مقدمہ کی بہت سی راہیں سمٹ کر ایک خاص راہ پر آگئیں نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ جی بری ہو گئے، سکندر حیات کے دامن پر چھینٹ تک نہ پڑھی اور لدھیانوی انحراف شہادت میں تین سال کے لئے قید ہو گیا۔

بعض وزارتیں راجی لدھیانوی کی شہادت کا ایک دوسرا رخ پیش کرتے تھے، ان کا بیان تھا کہ گجرات کے سپرنٹنڈنٹ پولیس مسٹر برار کے خلاف رشوت ستانی کے بعض مقدمات

زیر تفتیش تھے اور اسے معطل کیا جا چکا تھا اس نے ان مقدمات کی واپسی کے لئے وزارت سے بیک میل کیا یعنی لدھارام کو جو اس کا مرخ دست آموز تھا اس طرح قربان کر کے اپنے آپ کو بچایا، لدھارام کی شہادت کے بعد وہ بھی ایک گواہ ہو گیا کیونکہ وزیر اعظم کی مبینہ چٹھی پر صحیح روشنی ڈالنے کا مجاز وہی تھا۔ اس نے سودا کیا اور کامیاب رہا۔ اس برأت کے بعد شاہ جی پر قیام پاکستان تک کوئی مقدمہ نہیں چلا۔ پاکستان بنا تو سیاست سے ذہینا مستعفی ہو گئے لیکن قادیانیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ آخر ۲۸ فروری ۱۹۵۳ء کو کراچی میں راست اقدام کا فیصلہ کیا تو حکومت نے راتوں رات سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے سکھر جیل میں رکھا۔ ایک بڑے افسر نے آپ سے جیل میں ملاقات کی اور بزمِ خورشید نصیحت کرنے لگا۔

”شاہ صاحب اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور انگریز جا چکا ہے مگر آپ ابھی تک پرانے ڈگر پر قائم ہیں بھلا اپنی ہی حکومت کے خلاف ہنگامہ آرائی سے فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ اسلامی حکومت کمزور ہو؟“

شاہ جی ان بزرگوار کو اچھی طرح جانتے تھے ان کے لہجے کی صاحبی پر مسکراتے ہوئے فرمایا۔

”جی ہاں میرے علم میں ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے لیکن ع

سبوا اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا

کچھ لوگ اسلامی حکومتوں میں برسرِ اقتدار ہوتے اور کچھ جیل خانے میں رہتے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے ہمیں ہمارا کام کرنے دیجئے، تاریخ اپنے آپ کو اسی طرح دہراتی ہے۔“

تجربہ گاہ

شاہ جی نے جیل خانے میں بڑے بڑے تجربے حاصل کئے، ذماتے جیل خانہ ترازو ہے اور کسوٹی ٹھہری، جس سے ہر انسان کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے کسی انسان کا ظرف پرچنا ہو یا یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ کیا ہے؟ تو اسے دقتِ خوان یا جیل خانے میں پہچاننے کی کوشش

کر دو نو لگا ہوں ایسی ہیں جہاں انسان بولتا ہے اس معیار پر انہوں — بڑوں کو پرکھا اور تولا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر افراد کے معاملے میں ان کی رائے بڑی صاف اور پختہ تھی، جہاں تک سیاسی تحریکوں میں قید ہونے والے افراد کا تعلق تھا وہ جیل خانے کو تربیت گاہ سمجھتے لیکن اخلاقی مجرموں کے بارے میں ان کا نقطہ نگاہ مختلف تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جیل خانے مجرموں کو مزید مجرم بناتے ہیں اور یہاں اصلاح احوال کی توقع ہی عبث ہے جو خرابیاں ایک اخلاقی قیدی کو جیل خانے میں سو جھتی اور سمجھائی جاتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک طرف خطرناک مجرم پرورش پاتے ہیں دوسری طرف سزا کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔

قانون و سزا کے بارے میں ان کا نقطہ نظر حکیمانہ تھا، وہ قانون کو حکیم سولن کے الفاظ میں مگڑی کا جالا سمجھتے جو طاقت ور سے ٹوٹ جاتا اور کمزور کو چھانسن لیتا ہے ان کی نظر میں جرم سے کہیں زیادہ قانون سخت تھا اور سزا کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ محض انتقام ہے اپنی قید و بند کے خلاف کبھی کوئی شکایت نہ کی اور نہ کسی افسر مجاز کا گلہ کیا۔ جو معمولات پیش آئیں انہیں پیشم قبول کیا۔ البتہ کبھی کبھار تقریر کا رنگ باندھنے کے لئے فرماتے۔

”جیل خانہ میری بیوی کا حق مہرہ تھا اور نہ وہ عظیمہ خاتون اپنے جہیز میں ساتھ لائی تھی۔“ ان کے گنجلک بالوں کی سپیدی، کھلے ماتھے کی سلوٹوں اور متحرک آنکھوں کی عقیقہ لہروں پر اچھٹی ہوئی نظریں ڈالتے ہی قید و بند کی ایک ایسی تاریخ سامنے آجاتی تھی جس کا سر نوشت تھا۔

نالہ از بہر بانی نہ کند مرغ اسیر  
خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نہ بود



## جماعت احرار

شاہ جی اور احرار میں گل و بلبل کا رشتہ تھا، جس طرح خطابت کے بغیر شاہ جی کا تصور نہیں بندھتا اسی طرح شاہ جی کی نفی سے احرار کی تاریخ نصف رہ جاتی ہے دونوں میں جسم و جان کا تعلق تھا۔

تحریک احرار بڑے ہی گہرے تجربہ کی مستحق ہے مگر وہ وغبار تاریخ احرار پر ڈالا گیا غالباً اس دور کی کوئی اور تحریک اتنی خاک بسر نظر نہیں آتی۔ اس کے خارجی وجوہ بہت سے ہیں لیکن داخلی وجوہ احرار ہیں جتنی بڑی بڑی نا انصافیاں ان لوگوں نے خود اپنے سامنے کی ہیں، ان کا عشر عشر بھی دوسروں نے ان کے ساتھ روا نہیں رکھا۔ ان پر سوائیگی منوں مٹی ڈالی گئی وہ دب گئے۔ لیکن مٹے نہیں، انہوں نے قلم کے اس دور کو بھی زبان کا دور سمجھا، ان کا خلاصہ گفتاریہ تھا کہ حال پر بھنبھلاؤ، مستقبل کے خواب دیکھیں اور ماضی کے گیت گائیں، نتیجتاً ان کی سیاسی حیثیت ان مزارعین کی سی ہو گئی جو ہجر زمینوں میں ہل جوتے ان کو پانی دیتے، فصل پکاتے، لیکن کٹائی کے وقت بیدخل ہو جاتے ہیں۔ یا ان معماروں کی طرح تھے جو عمارت تو کھڑی کرتے ہیں لیکن اس میں رہ نہیں سکتے۔

جماعت احرار کو پرکھنے کے لئے کئی ترازوؤں کی ضرورت ہے احرار کون ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے مثبت و منفی کارنامے کیا ہیں؟ جب تک ہم سارے گروپس

کو معلوم نہ کر لیں اور ان حالات و واقعات پر نظر نہ رکھیں جن کا رد عمل احرار تھے اور جو احرار کے رد عمل کا نتیجہ ہیں اس وقت تک ہم احرار پر صحیح تنقید نہیں کر سکتے اور نہ اس انصاف کو قریب لاکتے ہیں جس کی مورخانہ حیثیت سے ہر خط ضرورت ہے۔

احرار کے متعدد بڑے رہنما قبل کا نام ہندوستان کے ہر گوشہ تک پہنچا اور انہیں ایک گونہ شہرت بھی حاصل ہوئی لیکن وہ کل ہند رہنما کبھی نہ بن سکے ان کا نام تو نمایاں ہی رہا مگر وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جہاں مہاتما گاندھی، قائد اعظم، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا محمد علی جوہر اور سچانند چندر بوس بر اجماع تھے۔ بالفاظ دیگر وہ اپنے تمام کمالات کے باوجود ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کی صف اول میں نہ تھے ان کا اثر مروجہ پنجاب تک محدود رہا۔ اس کے علاوہ وہ سرحد کے دو تین ضلعوں، ریاست بہاولپور، دہلی کے قرب و جوار اور یوپی کے بعض بڑے شہروں میں بھی مقبول تھے لیکن ان کی تحریک یا تنظیم کے ثمرات پنجاب ہی میں تھے ان کے نام اور کام کا تذکرہ کیے بغیر پنجاب کی سیاسی تاریخ مکمل نہیں ہوتی لیکن اس کی دو صورتیں ہیں :

۱۔ شہروں اور قصبوں میں وہ ایک سیاسی تحریک کی حیثیت رکھتے تھے۔

۲۔ دیہات میں انہیں ایک تبلیغی جماعت کے طور پر رسوخ حاصل تھا۔

سارا پنجاب ان سے کبھی متاثر نہیں ہوا، شمال مغربی ضلعوں کے لئے صد البصر اٹھے۔

پنجاب کو برطانوی سلطنت میں جو مقام حاصل رہا وہ ظاہر و باہر ہے، چودھری افضل حق کے الفاظ میں ”پنجاب برطانوی مقبوضات کی شرک تھا، انگریزوں نے پنجابی عوام سے بڑے بڑے فوائد حاصل کئے، برطانوی سلطنت کو وسیع اور مضبوط بنانے میں اس صوبہ کی سپاہیوں نے مجر العقول کارنامے سرانجام دیئے، جتنا بہادر اور ستا سپاہی پنجاب سے ملتا رہا اس کی مثال نہیں۔ شاہ جی پنجاب کی اس وفاداری بشرط استواری پر ازراہ تعریض کہا کرتے تھے کہ ”فلاں فلاں ضلع کی مائیں تو بچے ہی بابا فرنگی کے لئے پیدا کرتی ہیں“۔ غرض برطانوی ہندوستان

کی غلامی کو برقرار رکھنے کے لئے جو کارنامے اس صوبہ کے بڑے بڑے خاندانوں نے سرانجام دیئے اس سے انگریزی مفاد کو بڑی تقویت پہنچی۔

### انوکھی خصوصیت

انگریز، ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ حریت میں جان چکے تھے کہ پنجاب ہی ایک ایسا صوبہ ہے جو ہر کڑے وقت میں ان کے استعماری مقاصد کا پشتیبان ہو سکتا ہے لیکن تریٹھ برس بعد تحریک خلافت نے ہندو مسلم اتحاد کا جو منظر پیش کیا اس سے انگریز خوفزدہ ہو گئے انہوں نے تحریک کے فوراً بعد اس اتحاد کو ہمیشہ کے لئے پارہ پارہ کر ڈالا۔ اور پنجاب میں تو وہ اس اتحاد کو مطلقاً نہ چاہتے تھے۔ یہاں ہندو مسلم اتحاد تو ایک طرف رہا انہیں مسلمانوں میں کسی آزاد خیال سیاسی تنظیم یا سیاسی تحریک کا وجود بھی گوارا نہ تھا وہ سیاست پنجاب کو برطانوی ہندوستان کی سرحد سمجھتے تھے۔ انہوں نے پنجاب کو فوجی صوبہ بنا ڈالا اور اس کے مختلف عوامل و عناصر کو اس طرح قابو میں رکھا کہ برطانوی مقاصد کے لئے تو وہ مختلف مذاہب ہونے کے باوجود ایک تھے۔ لیکن ملکی مقاصد میں ایک دوسرے کے خلاف تھے چنانچہ اس ضمن میں چند باتیں خصوصیت سے قابل غور ہیں۔

۱۔ ہندوستان کے سیاسی رجحانات سے پنجاب کو الگ ٹھنک رکھنے کی انتہائی کوشش کی گئی بالخصوص مسلمانوں میں نہ تو کسی مرکزی مسلمان لیڈر شپ کا اثر بڑھنے دیا گیا اور نہ کسی صوبائی انقلابی قیادت کے لئے کام کاراستہ ہموار ہونے دیا۔

ب۔ پنجاب میں دوسرے صوبوں کی طرح صرف ہندو مسلم مسئلہ ہی پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ایک تیسرا مسئلہ سکھوں کا اٹھایا گیا جس سے فرقہ واریت کا عقدہ سگوندہ ہو گیا۔

ج۔ ملک کے فرقہ وارانہ مسئلہ میں انگریزی اغراض کے ایسا پر جو شدت پیدا ہوتی گئی اس کا سرچشمہ پنجاب تھا۔

د۔ تحریک خلافت کے ٹھنڈا ہوتے ہی فرقہ وارانہ مناقشات کی جو رو چلی اس کا

سرگاز کو ہاٹ اور سرچشمہ دہلی تھے لیکن اس کی اصل طاقت پنجاب تھا۔

## حقیقی مہرے

ان اغراض کی تکمیل کے لئے جو مہرے کام کر رہے تھے وہ نایت درجہ خطرناک تھے

مثلاً :

۱ - پنجاب کی ہر قوم میں بڑے بڑے زمیندار التزانا پیدا کئے گئے ، ان کا اپنے دوائر میں استبداد ہی اثر تھا۔

۲ - مسلمانوں پر قابو پانے کے لئے پیروں کی روایتی گدیاں نہ صرف بحال رکھی گئیں بلکہ مزید گدیاں پیدا کی گئیں۔

۳ - بعض سرحدی اضلاع میں کئی لاکھ اور کئی کئی ہزار ایکڑ زمین کا مالک ایک سردار ، ایک مہاراجے ، ایک خان یا ایک نواب کو بنا دیا گیا۔

۴ - عام لوگوں کو علم سے محروم رکھنے کے لئے بہ لطافت الحیل تعلیمی دروازے بند رکھے گئے۔

۵ - مسلمانوں میں ان لوگوں کا اثر و رسوخ بہ طور خاص پیدا کیا جو برطانوی بساط کے دلچسپ مہرے تھے۔

۶ - عام مذہبی پیشواؤں کو مطیع و منقاد رکھانے کی معرفت اصل اسلام کو مجروح کیا اور چند خاص قسم کی عصبیتوں کو رواج دیا۔

۷ - ملا کا دین فی سبیل اللہ فساد بنا دیا جس سے عام مسلمانوں میں علماء و صلحا کی توجیر گھٹی گئی اور وہ دیہات میں زمینداروں کے کمین شمار ہونے لگے۔

۸ - مسلمانوں میں اسلام کی بنیادی روح ختم کرنے کے لئے خانہ ساز نبوت پیدا کی گئی اہل طریقت کو بہ لطافت الحیل اس راہ پر ڈالا کہ ان کی گدیاں مسلمانوں کے اندرونی خلفشار اور باہمی توکار کا مرکز بن گئیں۔



- ۹۔ مسلمانوں کی معیشتی زندگی کو نما مسلمانوں کے تابع کر دیا گیا عام مسلمانوں میں سے صرف سپاہی لئے گئے یا کلرک، جن چند خاندانوں کے افراد کو آگے دیا گیا وہ پشتینی و فادار تھے یا وہ لوگ تھے جن کا وجود قومی عزت کے منافی تھا ان لوگوں نے انگریزوں سے بڑھ کر برطانوی سلطنت کی بقا کے لئے جاں نثاری کا ثبوت مہیا کیا۔
- ۱۰۔ پنجابی مسلمانوں کی بیشتر آبادیاں آبائی رسوم کا شکار تھیں، ان کے نام تک مسلمان نہ تھے انہیں کلمہ طیبہ تو ایک طرف رہا السلام علیکم کہنا بھی نہ آتا تھا۔
- ۱۱۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کا معاشی اور مجلسی مقابلہ کر رکھا تھا اور وہ عملاً انہیں فرسید ستانی ہی سمجھتے تھے۔
- ۱۲۔ نیشنل کانگریس کے عام راہنما مسلم لیگ کے عوامی تحریک بننے سے پہلے مسلمانوں کو کانگریس میں شمول کی دعوت تو دیتے تھے لیکن عملاً ان پر کانگریس کے دروازے بند رکھتے تھے۔
- ۱۳۔ صوبہ کے عام باشندے بالخصوص مسلمان حکومت سے اتنے خوفزدہ تھے کہ ایک کانٹیل کو بھی حاکم مطلق سمجھتے تھے۔
- ۱۴۔ جن خاندانوں کو مسلمانوں کی تقدیر کا مالک بنا دیا گیا ان کی تاریخ اتنی مشرناک اور ہولناک تھی کہ اس تاریخ میں ملکی مقاصد سے فداری اور عوام پر جو رستم کے سوا ایک ورق بھی قومی ہمدردی کا نہیں تھا۔
- ۱۵۔ مسلمانوں کے اس گروہ کا یہ شعار ہو چکا تھا کہ اس کے ارکان اسلامی ملکوں اور قومی تحریکوں کے خلاف جاسوسی کے فرائض انجام دیتے تھے۔
- ۱۶۔ مثلاً، تحریک لائقوں میں جب خلافتی رضا کاروں کے فتویٰ کی کاپیاں تقسیم کرنے کے لئے سر عمر حیات خان ٹوانہ کے علاقے میں گئے تو ان کے ساتھ جہیمانہ جھوک گیا گیا۔ رضا کاروں کو اغوا کر کے حاشیہ برداروں میں بانٹ دیا گیا جنہوں نے ان کے ساتھ منہ کالا کیا اس

صدہ کی تاب نہ لا کر کئی ایک نوجوانوں نے خودکشی کر لی۔

ضلع میانوالی کی ایک تحصیل میں شاہ جی پہلی دفعہ تقریر کے لئے گئے تو کسی مسلمان نے اپنے ہاں نہ ٹھہرایا۔ ایک ہندو نے شب بھری کیلئے اچک دی تو اسے گاؤں چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ تنگ آ کر جھاگ نکلا، ازاں بعد اس کے مکان کو آگ لگا دی گئی۔

جس صوبہ کا حال یہ ہو اس میں کسی ایسی تحریک کی بنیاد رکھنا جس کی عنان شہر کے ہندی متوسط طبقے کے ہاتھ میں ہو اور جو اینٹی برٹش "ذہن" بھی رکھتا ہو، ایک طیارہ اقدام تھا جس کے عواقب و نتائج کا صحیح اندازہ غالباً خود اس گروہ کو نہ تھا۔

### جماعت احرار کی بنیاد

جن لوگوں نے احرار کی بنیاد رکھی ان میں مولانا ظفر علی خان، مولانا دادو غزنوی، سید عطاء اللہ شاہ بخاری، چودھری افضل حق، مولانا مظہر علی ظہر، خواجہ عبدالرحمن فازی اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی پیش پیش تھے۔

مولانا شوکت علی مرحوم نے ذاتی نامہ لکھی کی بنا پر پنجاب میں خلافت کمیٹی کو غیر آئینی قرار دیا تو ان پنجابی راہنماؤں نے ۱۹۲۸ء کے اواخر میں علیحدہ تنظیم کے امکانات پر سوچ بچار کیا اور ۲۹ دسمبر ۱۹۲۹ء کو چودھری افضل حق مرحوم کی صدارت میں جماعت احرار کی بنیاد رکھی، سید عطاء اللہ شاہ بخاری پہلے صدر منتخب کئے گئے، دسمبر ۱۹۲۹ء میں کانگریس نے مکمل آزادی کا ریزولوشن پاس کیا اور اپریل ۱۹۳۰ء میں نئی تنظیم سید گروہ کا آغاز کر دیا۔ احرار نے سنا کانگریس کے جنموا تھے انہوں نے اپنی تنظیم کو اچھوڑا اور کانگریس میں شریک ہو کر سول نافرمانی میں حصہ لینے لگے، گاندھی ارون دیناؤں کے تحت عقوام کا اعلان ہو گیا تو پنجاب میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے سوا سب قیدی رہا کر دیئے گئے۔ سردار ولید مہائی پٹیل کی صدارت میں آل انڈیا

کانگریس کمیٹی کا سالانہ اجلاس کراچی میں ہوا تو اس اجلاس میں احرار رہنما ہندوہین کے ضلعی انتخابات کا شرو دیکھ کر شریک ہوئے تھے اور انہیں ہندو سرمایہ کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ جب کراچی میں بھی صورت حالات موافق نظر آئی تو علیحدگی کا ذہن اور سخت ہو گیا۔ پنڈت جو اہر لال نہرو نے اپنی سوانح عمری میں کانگریس سے احرار کی علیحدگی کا سبب درنگ کمیٹی میں ان کے نمائندے کی عدم شرکت بیان کیا ہے لیکن چودھری افضل حق مرحوم و مغفور نے تاریخ احرار میں اسے پنڈت جی کی کہہ مکنی کہا ہے۔

بہر حال جماعت احرار نے (جولائی ۱۹۳۱ء) اپنی پہلی کانفرنس ممبئی ہال لاہور میں منعقد کی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کانفرنس کے صدر تھے، اس کانفرنس میں کانگریس کی سلسلہ روایت کے خلاف برادگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا گیا۔ تو ہندو پرپس نے آسمان سر پر اٹھالیا اور احرار کو کانگریس کا باغی قرار دے کر مستہم کرنا شروع کیا۔

ہندوستان کی آزادی کے سوال پر احرار کا ذہن پہلکی طرح کانگریس سے قریب تھا لیکن ہندو رہنماؤں اور ہندو اخباروں نے احرار کے خلاف اس شد و مد سے پروپیگنڈا کیا کہ پنجابی مسلمانوں میں ان کا وجود ایک فعال عوامی تنظیم کی صورت اختیار کر گیا اور یہ پہلا مرحلہ تھا جب مسلمانوں میں ہندوؤں سے علیحدگی کا ہمہ گیر ذہن ایک ایسی اجتماعی تحریک سے وابستہ ہو گیا جس نے جان گنتھ کے الفاظ میں مذہب کے راستہ عوام میں سیاسی رسوخ حاصل کیا تھا اور جس کا بدیہی نتیجہ مسلمانوں کا وہ جذبہ تھا جس نے ہندوؤں کی کوتاہ نظریوں سے مشتعل اور منضبط ہو کر پاکستان کی بنیاد رکھی۔ احرار جو کچھ کہتے رہے وہ تحریک پاکستان کے خلاف تھا جو کچھ کیا وہ پاکستان کے حق میں تھا۔

### تحریک کشمیر

احرار کی سیاسی زور آزمائیوں میں تحریک کشمیر کو اولیت حاصل ہے اس تحریک کے بہت سے برگ و بار تھے مثلاً تحریک کا ایک رخ یہ تھا کہ:

۱۔ تحریک خلافت کے بعد مسلمانوں نے پہلی دفعہ کسی تحریک میں اس جرأت سے حصہ لیا کہ چالیس پینتالیس ہزار کے قریب لوگ رضا کارانہ طور پر قید ہو گئے۔ کئی نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔

۲۔ تحریک خلافت میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شریک تھے اور اس تحریک کو تحریک لاتعاون کا اجتماعی ذہن حاصل تھا۔ لیکن تحریک کشمیر محض مسلمانوں کے بل پر اٹھی، اس میں حصہ لینے والے ننانوے فی صد ایک ہی صوبہ کے مسلمان تھے جنہیں ابتداً حکام ریاست کے علاوہ عام ہندوؤں اور نیشنلسٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور آخر میں برطانوی حکومت اور اس کے خودکاشٹہ مسلمان امداد کے عناد کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔

۳۔ ریاست کے اندرونی راہنماؤں یا انھوں میں شیخ عبداللہ وغیرہ نے کئی اسباب کی بنا پر احرار سے پہلو ہٹتی کی لیکن بالآخر ذمہ دار حکومت کے اسی مطالبہ پر پہنچے جس سے بارہ برس پہلے انہیں اس لئے بھی اختلاف تھا کہ اس کے مجوز احرار تھے۔

۴۔ اس تحریک نے ملک کی تمام ریاستوں کے استبدادی نظام کو ذہنی طور پر ہلا ڈالا۔ جس سے زمانہ شناس حکمرانوں نے مستقبل کے رجحانات کا واضح طور پر اندازہ کر لیا یا سستی باشندوں میں سیاسی شعور نے راہ پائی مزید برآں ان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہو گیا۔

۵۔ قادیانی جماعت کے سیاسی ضد و خیال کی صحیح وضاحت کا پہلی دفعہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔

۶۔ عام مسلمانوں میں اس ذہن کو نشوونما حاصل ہونے لگا کہ طبقاتی شعور ہی سرمایہ دار معاشرے کے بنیادی روگوں کا صحیح علاج ہے۔

دوسرا رخ یہ تھا۔

۱۔ حکام ریاست نے پہلے تو احرار کو نظر انداز کیا پھر ترغیب و تحریک کا دام پھیلایا جب یہ دونوں حربے ناکام ہو گئے تو اندرون ریاست کے راہنماؤں سے سمجھوتہ کر کے سلاف حملہ شروع کر دیا۔

۲۔ ریاستی راہنماؤں کو نہ صرف احرار کی ہینوائی سے روک دیا بلکہ ان سے کنارہ کشی کا اعلان کر ڈالا۔

ب۔ ریاست سے باہر پوری ہندو قوم کو بلا تفریق عقیدہ و خیال مخالف بنا دیا حتیٰ کہ مہاتما گاندھی نے بھی گول میز کانفرنس (لندن) میں کہہ دیا کہ تحریک کشمیر سے انگریزوں کو تقویت پہنچنے کا امکان ہے۔

ج۔ مسلمانوں کے ان عناصر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی جو احرار کی سیاسی ساکھ سے خار کھاتے تھے اور جنہیں احرار کا یہ عروج گوارا نہ تھا۔

۲۔ انگریزوں کا منشا شروع میں کچھ اور تھا جس طرح تحریک خلافت کے فوراً بعد ہندو مسلم اتحاد کو غر بود کرنے کے لئے ہندو مسلم فسادات کا تخم بویا گیا تھا۔ اسی طرح وہ اب ۱۹۳۰ء کی سول نافرمانی کے یقینی خاتمہ پر چاہتے تھے کہ :

۱۔ جن چند ہزار ڈکانگرس کی رپورٹ کے مطابق چودہ ہزار مسلمانوں نے تحریک سول نافرمانی میں حصہ لیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو آئندہ کے لئے منقطع کر لیں یا ان کا رسوخ ضائع ہو جائے۔

ب۔ سرحد میں سرخ پوشوں کی نئی طاقت کا فروغ انگریزوں کے لئے سوبان روح تھا وہ قصہ خراتی بازار کے واقعہ ہانڈ سے نہ صرف مرعوب تھے بلکہ ایک سرحدی صوبہ میں اس صورت حالات سے خائف بھی تھے ان کے نزدیک اس کا تدارک دو قومی نظریہ کے تضادم و ٹکراؤ ہی سے ہو سکتا تھا۔

ج۔ انہی دنوں لندن میں تیسری گول میز کانفرنس ہو رہی تھی، گاندھی جی کو اصرار تھا کہ وہ تمام ہندوستان کے نمائندے ہیں ادھر مسلمان نمائندے ان کے اس دعویٰ کی تغلیظ کے لئے موجود تھے۔ چنانچہ کشمیر کے قضیہ نے ہندو مسلم مفاہرت کا واضح ثبوت مہیا کر دیا تھا۔

۳۔ ان اغراض کو ملحوظ رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے کوشش کی کہ وہ اپنے

فرستادہ لوگوں کی معرفت کام لے چنانچہ ان عناصر نے لپٹا پوتی کر کے علامہ اقبالؒ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ آل انڈیا کثیر کیٹیگی کی بنیاد رکھی، برطانوی سیاست کا سب سے کامیاب مہرہ میرزا محمود احمد صدر بن بیٹھا لیکن احرار مزاحم ہو گئے، انہیں اپنی علیحدہ جماعتی زندگی کی نیو اٹھانے کے لئے سیاسی میدان چاہیے تھا جو قدرت نے مہیا کر دیا۔ علامہ اقبال نے میرزا محمود احمد اور ان کی امت کے ہتکنڈوں کو محسوس کرتے ہوئے احرار کی استدعا پر کثیر کیٹیگی سے استغفی دے دیا۔ احرار اٹھے اور چھا گئے۔ انگریزوں نے بوجہ چپ سا دھلی، امرار بارشمارہ پاتے ہی معاون بن بیٹھے احرار نے غنیمت سمجھا اور ان سے دامنے سختے فائدہ اٹھایا لیکن تنظیم سے الگ رکھا۔ آخر ریاست نے گبرار کو ہتھیار ڈال دیئے، والسرائے نے آرڈی ننس نافذ کر دیا جس سے تحریک کا رخ بدل گیا۔ امرار واپس ہو گئے، صورت معاملات کا نقشہ اس طرح ہو گیا کہ:

۱۔ انگریز چالیس پینتالیس ہزار افراد کی رضا کارانہ اسیری کو مسلمانوں میں ایک ایسے ذہن کا نمونہ سمجھنے لگا جس کا اس سے پہلے اسے اندازہ نہ تھا اور پنجاب میں تو اسے مطلق یہ گوارا ہی نہ تھا۔

ب۔ مسلمان امرار کو یہ طبعاً ناپسند تھا کہ اپنی گمیاں ان لوگوں کے لئے خالی کر دیں جنہیں وہ ازراہ تعریفین کنگلے کہتے آئے تھے۔

ج۔ نہ خود مسلمان امرار نے آج تک یہ گوارا ہی نہ کیا تھا کہ مسلمانوں میں ایسی کسی عوامی تحریک کو ابھرنے دیں جس کی باگ ڈور غربا کے ہاتھ میں ہو یا ان کا رموخ برٹھے۔

د۔ نواب اسماعیل میرٹھی کی معرفت والسرائے نے چودھری افضل حق سے کلنا چاہا تو ان امرار نے احتجاج کیا کہ آپ فوٹر لوگوں سے مل کر اپنے مرتبہ کو گھٹانے کی غلطی نہ کیجئے۔

۵۔ قادیانی جماعت کے لئے بدلہ چکانے کا یہ بہترین موقع تھا نتیجہ یہ نکلا کہ احرار کو اس سارے قضیہ میں اتنی بڑی قربانی کے باوجود شکست فاش ہوئی ریاست نے ہتھیار ڈال کر ہتھیار اٹھائے، انگریزوں نے احرار کو مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمان امرار نہ صرف

اٹنے پاؤں بھاگ گئے بلکہ اس سوچ میں لگ گئے کہ احرار نے پنجاب میں جو اثر پیدا کیا ہے اس کو کس طرح ختم کیا جاسکتا ہے، ہندو شروع سے بزار تھے ملک کی سب سے بڑی سیاسی تنظیم کانگرس نے احرار کو نافرمان سمجھ کر سیاسی اچھوٹ سمجھا۔ کئی مسلمان رہنما جو کبھی احرار کے ہم خیال یا ہم سفر رہے تھے احرار کی مقبولیت کو اپنی الگ شخصیتوں کے لئے معزز سمجھتے اور چاہتے تھے کہ احرار بہ صورت ختم ہو جائیں، غرض احرار خطرناک قسم کے سیاسی زرخیز ہیں تھے۔

### تحریک کپور تھلہ

احرار کا دوسرا عوامی محاذ ریاست کپور تھلہ کی کسان تحریک (۱۹۳۳ء) تھا۔ ریاست نے خود مسلمان امرا کی معرفت اس تحریک کا کلا گھونٹ دیا وہاں وزیر اعظم مسلمان تھا اس نے ایک ہوشیار شاطر کی طرح صفت آرا قوتوں کو چاروں شانے چت کیا۔ مگر احرار ہر حال میں ایک سیاسی طاقت بن چکے تھے لہذا ایک شہید گنج کے انہدام نے اس طاقت کو اس بڑی طرح برباد کیا کہ پھر وہ سنبھالے تو لیتے رہے لیکن سنبھل نہ سکے۔ جس تیزی سے اُبھرے تھے اُسی سرعت سے پسپا ہو گئے۔

### کیونل ایوارڈ

اواخر ۱۹۳۲ء میں کیونل ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تو گاندھی جی جیل میں تھے۔ اس ایوارڈ میں اچھوتوں کو ہندوؤں سے علیحدہ رکھا گیا، گاندھی جی نے اس علیحدگی کے خلاف مرن برت شروع کیا۔ گورنمنٹ نے گھبرا کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر اچھوت رہنماؤں اور ان کے مابین پڑنا پکیٹ ہو گیا جو ریزے میکڈونلڈ نے تسلیم کر لیا۔ ادھر اس ایوارڈ میں مسلمانوں کو ان کے اکثریتی صوبوں میں پچاس فیصد سے ایک یا دو نشستیں زائد دی گئی تھیں۔ پنجاب کے ہندوؤں نے متحد ہو کر چلانا شروع کیا کہ اسلام راج قائم کر دیا گیا ہے۔ ماسٹر تارا سنگھ گوردوارہ تحریک کی کامیابی سے کچھ زیادہ ہی منچلے ہو گئے تھے انہوں نے آؤ دیکھنا تاؤ جھٹ سے اعلان جڑ دیا کہ کیونل ایوارڈ میں مسلمان راج کے جراثیم ہیں۔ اگر اسے بدلانا گیا تو سکھ خون کی ندیاں

بہا دیں گے۔ ماسٹر جی نے سکھوں کو گور و گرنٹھ پر حلف لینے کی تلقین کی ہر کہیں یہ حلف اٹھایا گیا۔۔۔۔۔ شاہ جی انہی دنوں جیل سے رہا ہو کر آئے تھے۔ ماسٹر جی کی دھمکیاں پڑھیں تو امرتسر کے ایک جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

”ماسٹر جی ہمیں اپنی پایاب ندیوں سے ڈرائیں نہیں، غالباً وہ اس سے بے خبر ہیں کہ ہم خون کے فلزوں میں گھوڑے دوڑانے کے عادی ہیں۔“

شاہ جی کو رستہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے انہیں تحریک کشمیر کے تجربے میں ہندوؤں اور سکھوں کے اجتماعی ذہن نے پہلے ہی آزرہ کر رکھا تھا ایک ایک شہر اور ایک ایک قصبہ کا چکر کاٹا۔ تمام صوبے میں شاہ جی کی شعلہ نوائی نے سحر کا کام کیا۔ ماسٹر تارا سنگھ منقار زبیر پر ہونے لگے اور دوبارہ یہ لب و لہجہ کبھی استعمال نہ کیا۔

### میرزا سیت کا تعاقب

احرار کا دوسرا بڑا امحا ذ میرزا سیت کے خلاف تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انگریزی حکومت کی ایک خود کاشہ طاقت کو ایک ایسی بے ڈھب جماعت سے واسطہ پڑا جس نے نہ صرف مسلمانوں میں اس کی تبلیغی طاقت زائل کر دی بلکہ اس کے برطانوی چہرے سے نقاب اٹھادی اس مہم کی تائید میں بعض موثر آوازیں اٹھیں۔ علامہ اقبال نے میرزا سیت کو کھلم کھلا مسلمانوں سے الگ ایک مذہب اور فرقہ قرار دیا۔ پنجاب ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج جناب میرزا سید ظفر علی نے بھی میرزا سیت کو اڑے ہاتھوں لیا۔ حیدرآباد کے ایک فاضل مولف جناب الیاس برنی نے قادیانی مذہب کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی جس میں میرزا غلام احمد سے لے کر میرزا محمود احمد تک کی تحریروں سے ان کے مبادی و مقاصد و مطالب و دعوائے اور جہانات و سیلانے کا کچا چٹھا پیش کیا۔۔۔۔۔ اس پر مسلمانوں کی بعض تعلیمی انجمنوں کو فیصلہ کرنا پڑا کہ میرزا سیت ان کے اداروں کے رکن نہیں ہو سکتے۔ اس صورت حالات سے میرزا سیت اور اس کے احوال و انصار گھبرا گئے۔ میرزا محمود احمد پیٹھ پیٹھے بھر بھرنے میں لگاؤ تھے انہوں نے خیر کو آستین میں رکھا



اور گھات میں بیٹھ گئے۔ ادھر پنجاب کے امراء کا طبقہ جن کی خصوصیتیں اوپر بیان ہو چکی ہیں احرار کی تیز روی اور قبول عامہ کو اپنے لئے مضر سمجھتا تھا۔ اس کے سامنے آئندہ کے اسکیشن تھے ملک کو پہلی بار صوبائی خود مختاری حاصل ہو رہی تھی۔ مسلمانوں اور ناسلمانوں کی طاقت میں دو یا تین ووٹوں کا فرق تھا۔ امراء نہیں چاہتے تھے کہ اس فرق سے فائدہ اٹھا کر احرار آگے بڑھیں اور اختیارات پر قابض ہو جائیں۔ خود انگریز اس معاملہ میں چونکا تھا۔ پنجاب بہر حال اس کا قلعہ تھا اور برطانوی اقتدار کو اس کے خود کاشٹہ امراء ہی تحفظ دے سکتے تھے۔ احرار اس سے خالی الذہن نہ تھے ان کے پیش نظر بھی انتخابات تھے اور سمجھتے تھے کہ طاقت کے بغیر کوئی تنظیم بھی موثر نہیں ہوتی۔ عجب نہ تھا کہ وہ شہری اور قصبائی نشستوں میں سے ہیں پچیس نشستیں بہ آسانی حاصل کر لیتے لیکن میاں سرفضل حسین مرحوم انہیں شہادت دینے میں کامیاب ہو گئے۔ گورنر کا غلطی کا خواب میاں صاحب کی ناگہانی موت سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا لیکن مرنے سے پہلے وہ احرار کو شکست دے گئے۔ سردار سکندر یار نے ان کی جگہ لی۔ پہلے تو احرار رہنماؤں سے دوستی کا بیٹھتے رہے تھے لیکن میاں صاحب کا جانشین ہوتے ہی طوطا چشم ہو گئے اور احرار کو فنا کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ اس کی تفصیلات اس کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔

### شہید گنج کا قضیہ

شہید گنج کا قضیہ نامرضیہ اس ساری داستان کا ایک فراموش شدہ مگر عبرت ناک باب ہے، شہید گنج پر ایک زمانہ سے سکھوں کا قبضہ تھا اور وہ کسی صورت میں بھی اسے مسجد تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے بلکہ گوردوارہ شہید گنج کا ایک حصہ سمجھتے تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میر منو گورنر پنجاب نے بعض سکھوں کو یہاں قتل کرایا تھا اور یہ ان کے مقتولین کی جگہ ہے۔ جب اکالی تحریک کے بعد گوردوارہ ایکٹ بنا اور اس ایکٹ کے بنانے میں میاں فضل حسین مرحوم و منفور نے بھی امانت کی تو شہید گنج کی ملکیت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک کمیٹی بنا لی گئی

جن میں سردار سکندر حیات کے عمراؤ، نواب مظفر خان بھی شریک تھے۔ نواب صاحب نے سکھوں کی ملکیت تسلیم کر لی۔ مسلمانوں نے ایک دو بار چارہ جوئی کی مگر ناکام رہے۔ ان فیصلوں اور اپنے قبضے کے باوجود سکھوں نے انہدام مسجد سے احتراز کیا۔ اب کئی سال بعد آغاز جولائی ۱۹۳۵ء میں ایک ایک مسجد گرائی جانے لگی تو مسلمان چونک اُٹھے۔ ہر طرف شور مچ گیا حتیٰ کہ دیکھتی آنکھوں شعلہ جوالہ بھڑک اُٹھا۔ اس بارے میں اب کوئی راز نہیں رہا کہ:

”شہید گنج لاہور میں ہے اور لاہور پاکستان میں! جن لوگوں نے اس وقت شہید گنج کی بازیابی کے لئے ڈرامہ کھیلا تھا ان میں نانسے فی صد بقید حیات ہیں لیکن ہندوؤں اور سکھوں کے کامل انخلا کے باوجود شہید گنج پر پولیس کا سنٹری پہرہ دیتا ہے، کسی کو اس کے مسجد ہونے کا خیال نہیں رہا اور نہ کسی طرف سے کوئی آواز اُٹھتی ہے جہاں تک حکومت کے مصالح و مقاصد کا تعلق ہے وہ معلوم ہیں لیکن سوال ان لوگوں کا ہے جو اس وقت شہید گنج کی بازیابی کے نام پر سیاسی ناکم کھیل رہے تھے۔“

بہر حال ان امرار سرلیٹہ کا خلاصہ یہ ہے کہ:

۱۔ مسجد حکومت کے ایما اور سربرہرٹ ایمرسن گورنر پنجاب کی شہ پر گرائی گئی۔ حکومت نے کریں مہیا کیا۔ جس شخص نے سب سے پہلے مسجد کے گنبد پر کدال چلائی وہ پنجاب سی آئی ڈی کا ایک سکریٹ سب انسپکٹر پولیس تھا۔ اس کی رپورٹ کا خلاصہ ایک مسلمان انسپکٹر پولیس کی معرفت مولانا مظفر علی خاں کے پاس پہنچا۔ وہاں سے راقم الحروف کے ہاتھ لگا۔

ڈوسولسٹ نوجوان اس الزام میں ماخوذ تھے کہ انہوں نے شہید گنج کے انہدام کا ذمہ دار حکومت کو گردانا تھا۔ ان کے خلاف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لاہور کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا۔ ان نوجوانوں نے راقم الحروف کو صفائی میں طلب کیا، راقم نے عدالت میں ذاتی مخالفت کا سوال اُٹھایا۔ عدالت نے حکام بالا سے مشورہ کیا۔ حکومت کے کارندوں کا ضمیر اس معاملہ میں مجرم تھا انہوں نے انکار کر دیا۔ شہادت مذہب کی مگر یہ بات اپنی جگہ موجود

ہے کہ انہدام مسجد میں اس وقت کے انگریز گورنر اور صوبائی جیورنل کی سی کلپور اپورا ہاتھ تھا۔

۲۔ سکھوں میں داخلی طور پر دو دھڑے تھے۔ ماسٹر تارا سنگھ اور ان کے ساتھیوں کا گوردوارہ پر بندھک کیٹی پر قبضہ تھا جو لوگ اندر خانے ان کے دھڑے کو شکست دینا چاہتے اور آئندہ انتخابات میں اپنی کامیابی کے لئے پرتول رہے تھے۔ انہوں نے سرکاری سازش میں شریک ہو کر مسجد کے انہدام کا فیصلہ کیا۔ ماسٹر تارا سنگھ کو اس وقت خبر ہوئی جب مسجد گرنے لگی۔ انہوں نے مولانا داؤد غزنوی سے صورت حالات سمجھنے کے بعد سردار منگل سنگھ کو لاہور بھیجا کہ مسجد گرانے والوں کو روکیں۔ مگر حکام نے انہیں بندھے بازار کے نکلنے پر روک لیا تا آنکہ صبح ہوا ہو گئی۔ اب کوئی سکھ لیڈر بھی انہدام مسجد کی مذمت کر کے سکھ قوم میں اپنی شہرت کھونے کو تیار نہ تھا۔ سب اکٹھے ہو گئے اس کا فائدہ یونینسٹ پارٹی کے دست و بازو سردار سنگھ مجھیٹیا کو بھی پہنچا وہ اپنے بعض ساتھیوں سمیت انتخاب میں کامیاب ہو گئے۔ غرض پنجاب میں وزارت بنوانے کا جو نقشہ انگریزوں کے ذہن میں تھا وہ ان کی مرضی و منشا کے مطابق بن گیا۔

۳۔ سر میاں فضل حسین ہندوستان میں مسلمانوں کی جاگیر دارانہ سیاست کے سب سے بڑے شاطر تھے۔ احرار نے سر ظفر اللہ خان کی مرکز میں نامزدگی پر میاں صاحب کو ہر طرف طمان بنا کر اپنا دشمن بنالیا تھا۔ تمام خاندانی کاسہ لیس جو احرار کے قبول عام سے خائف ہو کر ان کے گرد جمع تھے شہید گنج کے انہدام پر ہر بڑا اکڑ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان واحد میں مجلس عمل بن گئی۔ ایک بساط پر کئی مچھرے جمع ہو گئے۔ جو لوگ مخلص تھے انہیں دھوکے میں رکھا گیا۔ ادھر احرار راہنہ لاہور سے باہر تھے ان کی غیر حاضری میں سازش کا اختیاری و غیر اختیاری لائحہ عمل تکمیل پا گیا۔ چال یہ تھی کہ احرار راستہ سے ہٹ جائیں یعنی تحریک میں حصہ لیں تو مارے جائیں نہ حصہ لیں تو پٹ جائیں۔ دونوں صورتوں میں ان کے لئے کربلا کا ایک میدان تھا اور انہیں مٹانے کیلئے متضاد و متباہن عناصر اکٹھے ہو گئے تھے۔

۱- احرار کو شروع ہی سے نشانے پر رکھا گیا مسجد کا حصول مؤخر اور احرار پر سبب و شتم مقدم ہو گئے۔

ب۔ میاں عبدالعزیز پار ایٹ لار کے مکان پر بہ شمول احرار مختلف حلقہ ہائے خیال کے لوگوں کی جو میٹنگ ہوئی اس میں اہتمام مسجد کے خلاف حکم امتناعی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن مولانا اختر علی خان ڈپٹی کمشنر ایس پرتاب اور سٹی مجسٹریٹ سردار عزیز ہنگو کے جھانسنے میں آگئے۔ درخواست تحریری (د)، یا لسانی (د)، جیب میں رکھ چھوڑی، مسجد سمار ہو گئی۔

ج۔ جن مختلف انجیال عناصر نے احتجاج کا بیڑا اٹھایا تھا وہ خرابی حالات کے ثروت سے خود تجویز کر کے نظر بند ہو گئے مگر مخلص نوجوانوں کو کسی مہروں کی انگلیخت پر گولیوں کا نشانہ بنا پڑا۔ سب سے بڑی سیاسی ضرب احرار پر پڑی ان کے خلاف مسلسل واویلا شروع ہو گیا۔ اسی دوران میں ان لوگوں کو بھی صف آرا کیا گیا جو افسروں کے جاسوس اور سرکاری کسال میں ڈھلے ہوئے تھے۔ حضرت امیر ملت سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد جن لوگوں کو مامور کیا گیا ان میں سے نوٹسے فیصد حکومت کے کارندے اور پنجاب سی آئی ڈی کے ایک سپرنٹنڈنٹ میرزا معراج دین کے آلہ کار و خدمت گزار تھے۔

د۔ مجلس اتحاد ملت پر ابتداءً ان لوگوں کا عمل دخل رہا جو سی آئی ڈی کے تنخواہ دار و مخبر تھے اور حصول شہید گنج کے مقاصد کی بجائے میرزا معراج دین سپرنٹنڈنٹ (سی آئی ڈی) اور ایس پرتاب ڈپٹی کمشنر لاہور کی باہمی آویزش کا کھونا بتے ہوئے تھے۔ مولانا ظفر علی خاں نظر بندی سے رہا ہو کر لاہور تشریف لائے تو مجلس اتحاد ملت کے ڈرامہ کا نیا باب شروع ہو گیا۔ عام انتخابات میں مولانا عبدالقادر قصوری اور ڈاکٹر شیخ محمد عالم بھی احرار سے اپنا قرض چکانے کے لئے اتحاد ملت کے نفیب بن گئے۔ ادھر احرار شہید گنج کے طلبے میں بڑی طرح دب چکے تھے، چودھری افضل حق جن سے یونینٹ راہنما خون کھاتے تھے فرضی شہیدوں کی نمائش سے ہرا دیئے گئے۔ انتخاب کا پالا یونینٹوں نے مار لیا۔ ڈاکٹر عالم شہید گنج

کی اینٹوں کا نام لے کر کامیاب ہو گئے مگر جیتنے کے فوراً بعد کانگریس میں چلے گئے۔ وہاں وال  
نگلی تو ایک کا رخ کیا ملک خضر حیات اور قائد اعظم میں تصادم ہو گیا تو خضر حیات کا ساتھ دیا  
آخر ۱۹۲۶ء کے انتخاب میں ہار کر اشد کو پیارے ہو گئے۔

اس انتخاب کے بعد جب احرار کی سیاسی شکست مکمل ہو گئی اور عمومی شہرت کو دھکا  
لگ چکا تو کسی نے شہید گنج کا نام نہ لیا۔ ملک برکت علی مرحوم نے بازیابی کے لئے مسودہ قرارداد  
پیش کرنا چاہا لیکن ایک دلچسپ افتاد مانع ہو گئی۔

اب احرار نے شہید گنج کے راہنماؤں کو لٹکارنا شروع کیا، مولانا مظہر علی اظہر نے سول  
نافرمانی کا ڈول ڈالا۔ خود بھی قید ہو گئے اور کئی سورتھ کاروں کو بھی قید کرا ڈالا۔ مگر بات نہ  
بنی۔ عوام کے دل لے مدت ہوئی مرچکے تھے، جو لوگ مجلس اتحاد ملت کے لیڈر تھے وہ  
مختلف افسروں کے ہاتھ میں تھے۔ ان کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ شہید گنج کا حصول نہ اس  
وقت پیش نظر تھا زاب — آخر سردار سکندر حیات نے زبان کھولی اور اعلان کیا کہ  
شہید گنج کا حصول بوجہ دشواری ہے کیونکہ اس ایک مسجد کے جبری حصول سے مسلمانوں کو  
وہ تمام معاہدے ٹوٹانے ہوں گے جن پر مسلمان بادشاہوں کے عہد میں مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں۔  
ان کے اس اعلان کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا حتیٰ کہ اتحاد ملتی لیڈر بھی آتنا و صدقنا  
پکار اٹھے۔

یہ اعلان کوئی نیا نہیں تھا بلکہ مستعار تھا۔ مولانا مظہر علی اظہر نے انہدام مسجد کے وقت  
جب مسلمان ابھی شہید نہیں ہوئے تھے یہی دلیل دی تھی مگر اس وقت سازشی لیڈر ماننے  
کو تیار نہ تھے اور سادہ دل عوام غیظ میں تھے۔ اب جانہین نے اپنا پینٹر ابدل لیا۔  
ادرا کہتے تھے آؤ مسجد لیں، داعی کہتے تھے سکندر حیات کی بات درست ہے۔

احرار کے لئے آزمائش کا یہ سب سے بڑا دور تھا۔ ایک محدود ذہن کے سوا تقریباً  
سب لوگ ان سے کٹ چکے تھے۔ تمام احرار راہنماؤں کو ایک شدید لیغار کا سامنا کرنا پڑا

گورفتہ رفتہ انہوں نے اسٹیج پر قابو پایا اور اپنی بات بھی کہنے لگے لیکن بہت کچھ کھو کر۔  
 اصلاً شہید گنج کے معاملہ میں ان سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی اگر وہ شروع ہی میں حصہ  
 لے کر اس کا رخ پلٹتے تو زیادہ مفید نتائج پیدا ہوتے۔ انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر کے  
 حالات کا صحیح اندازہ نہ کیا جس سے مار کھا گئے۔

احرار کی اس بربادی کا سب سے زیادہ فائدہ ایک خاص دائرہ میں میرزا بشیر الدین محمود  
 نے اٹھایا۔ اس نے شروع سے آخر تک اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ جہاں کہیں اور جس  
 طرح بھی احرار کو ضعف پہنچ سکتا تھا اس نے اس میں رتی بھر کمی نہ کی۔

سید عطار اللہ شاہ بخاری کے مقدمہ میں میرزا بشیر الدین محمود کے خلاف بھرتی ہوئی  
 کھوسلہ کمیشن جج گورداسپور کا فیصلہ ایک دو ٹوک حکمہ تھا۔ یہ فیصلہ ۶ جون ۱۹۳۵ء کو  
 سنایا گیا۔ کوئی ایک ماہ بعد شہید گنج کا ساتھ پیش آ گیا، میرزا نے احرار دشمن تقریروں کی  
 پشت پناہی کا بیڑا اٹھایا، چنانچہ ایک روایت کے مطابق اس نے اس مہم میں کئی لاکھ روپیہ  
 صرف کیا مگر ایک منفی فائدے کے سوا میرزا نیت کو کوئی اثباتی فائدہ نہ پہنچا۔ عام مسلمانوں  
 میں قادیانیت کا وجود ہمیشہ کے لئے مشتبہ ہو گیا، اس کے پیرو مسلمان عوام کے اعتباری  
 نرغہ میں آ گئے، مذہبی اعتبار سے ان کی محرومی دائمی ہو گئی، ان کا تجزیہ و محاسبہ ایک تحریک  
 بن گیا اور یہ سب کچھ احرار کی بالواسطہ و بلاواسطہ مساعی کا نتیجہ تھا۔ اب میرزا اصحاب اور  
 ان کی مشینری کے اعضاء احرار پر شہید گنج کی مسجد کا ملبہ پھینکنے میں پیش پیش تھے۔

شاہ جی یار و غبار کی ان نوازشوں سے دل برداشتہ بھی ہوئے اور صورت حالات  
 کا ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر قلباً یہ رائے قائم کر لی کہ الیکشن بہت بڑا فتنہ ہیں۔ پھر طوعاً و کرہاً  
 الیکشن میں حصہ لیا مگر علی الاعلان فرماتے الیکشن قومی زہر ہیں۔ جماعت کو الیکشن سے باز  
 رکھنے کی ہر دفعہ کوشش کی لیکن جماعت کے ”دماغ“ ان کی ”زبان“ کی پناہ تو لیتے مگر ان کے  
 دماغ سے فائدہ نہ اٹھاتے نتیجہ معلوم کہ انگریزی مہم کے آخری انتخابات (۱۹۴۷ء) میں

ان کے ساتھیوں نے ان کی بات نہ مان کر جوڑک اٹھائی اس کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑا کہ ان پر ایک دوسری شہید گنج گر گئی۔ حتیٰ کہ ان کے حقیقی کارنامے بھی انتخابات کی پے درپے شکستوں کے گرد و غبار میں دب کر سیاسی کلنڈروں کے آوارہ قہنپے ہو گئے اور اب س

لختے برد از دل گزرو بہر کہ نہ پشیم  
من تاش فروش دل صد پارہ خورشیم

## دوسری جنگِ عظیم

ابھی شہید گنج کے زخموں کا کھرنبڈ باقی تھا کہ احرار نے برطانوی حکومت کو منبر میں لگانے کا فیصلہ کیا اور آرمی بل کی مخالفت شروع کر دی یہ بل یورپ کے جنگی امکانات کی وجہ سے سنٹرل اسمبلی میں زیر بحث ہی تھا کہ احرار نے رائے عامہ کو اس کے خلاف منظم کرنا شروع کیا اور بیٹی سے لے کر پشاور تک ہنگامہ رچا دیا۔ ستمبر ۱۹۳۹ء میں ہٹلر نے ڈینزنگ پر حملہ کر کے دوسری عالمگیر جنگ چھیڑ دی۔ احرار راہنما اسی دن کی راہ دیکھ رہے تھے۔ چودھری افضل حق نے چھ ماہ قبل ۷ اپریل ۱۹۳۹ء کو آل انڈیا احرار کانفرنس کے صدارتی ایڈریس میں کہا تھا۔

”جنگِ قضا نے مبرم بن کر مغرب کے سروں پر گر گس کی طرح منڈلا رہی ہے۔ یہ نازک و مغلوب قوموں کو خبردار ہونے کا اشارہ ہے، برطانوی سرکار میدانِ جنگ میں پہلا گولہ گرنے سے پیشتر نیاز مندی کا نونہ بن کر سامنے آئے گی۔ احرار شہنشاہیت کی اس مصیبت کو غلاموں کے لئے رحمت خیال کرتے اور آئندہ جنگ کو ہندوستان و دنیائے اسلام کے لئے حصولِ آزادی کا بہترین موقع سمجھتے ہیں۔ ہمارا فرض ہو گا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر برطانوی شہنشاہیت پر ضرب لگائیں“

چنانچہ احرار ہائی کمانڈ کا فوری اجلاس ۱۳ ستمبر کو امرتسر میں منعقد ہوا جس میں فوجی سہرتی کے خلاف جدوجہد کا فیصلہ کیا گیا۔ لیگ نے اس وقت تک حصولِ پاکستان کا نصب العین اختیار نہیں کیا تھا۔ اس کے سارے چھ ماہ بعد جب بڑے بڑے احرار زعماء

جیل خانوں میں تھے لیکن لاهور کے سالانہ سیشن میں پاکستان کارپوریٹیشن پاس کیا۔ اس وقت تک عامۃ المسلمین میں احرار کے جرأت مندانہ اقدام سے ہمدردی کا فرہمن عام تھا، گو سول نافرمانی میں وہ اجتماعاً شریک نہ تھے لیکن آشیر وار دینے میں پیچھے بھی نہ تھے۔ کانگریس نے احرار کے اس فیصلے کو ناجلانہ قرار دیا۔ سوشلسٹوں نے تعاون کی پیش کش کی اور وہ ایک متحدہ محاذ بنانے کے سوال پر گفتگو بھی کرتے رہے لیکن فوری گرفتاریوں سے مشترکہ محاذ کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا۔

احرار کو اپنے اس اقدام کی بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی۔ مسلمان قرار داد پاکستان کے بعد انہیں بھول گئے۔ کانگریس نے نظر انداز کیا بالخصوص پنجاب کے کانگریسی نہ عمال و احرار کی نسبت سردار سکندر حیات سے زیادہ قریب تھے۔ انگریزوں نے اپنے گماشتوں کی معرفت احرار کو طویل سے طویل سزائیں دے کر بڑے بڑے خورش خوار کیا۔ جیلوں میں احرار قیدیوں کے ساتھ اخلاقی قیدیوں سے بدتر سلوک ہوتا رہا۔ گو جرنالہ کے ایک ہندو مجسٹریٹ نے احرار کے ایک نوجوان کو سزا دیتے ہوئے اپنے فیصلہ میں لکھا کہ احرار سے اخلاقی قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ اس پر بڑے بڑے دلپش ججکٹ منڈ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے۔ ایک موقع پر رائے بہادر مہر چند کھنڈ نے جو آگے چل کر خان وزارت میں وزیر مالیات ہو گئے، کانڈھی سے یہ بیان حاصل کیا کہ احرار کھاڑی رکھتے ہیں جو تشدد کا نشان ہے، لہذا ان کا کانگریس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بیان کی آرٹیں ڈاکٹر گوپی چند بھارگو ایسے مہاراشٹوں کو بھی کھل کھیلنے کا موقع ملا۔

ان مختصر احرار نے اس معرکہ میں سخت سے سخت اذیتیں سہیں، ہر استبداد کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ حتیٰ کہ موت و حیات کے درمیان کوئی راہ باقی نہ رہی۔ چودھری افضل حق جان لیوا مرض میں مبتلا ہو کر رہا ہوئے اور چند مہینوں ہی میں داعی اہل کولیک کہا۔ مولانا محمد گل شیر، صوفی عنایت محمد پسروری، احسن عثمانی، حکیم غوث محمد بامپوری



اور راقم الحروف دو برس تک قید تنہائی میں رکھے گئے، تمام عرصہ چکی پیسنے کو دی گئی۔ حکیم صاحب سی کلاس کی خوراک سے دمر کے دائمی مریض ہو گئے۔ احسن عثمانی نے جھوک بڑھتا لیا تو اس کی مقعد میں نالی گھسیڑ کر اسے نڈھال کر دیا گیا۔ آخر اس داخلی صدمہ کی تاب نہ لاکر وہ رہا ہوتے ہی موت کے منہ میں چلے گئے۔ راقم الحروف سے جو سلوک ہوتا رہا اس کی بہیمیت کا تذکرہ پس دیوار زندان“ میں آگیا ہے جو راقم کے ایام اسیری کی مرکز شست ہے۔

چودھری صاحب کی موت کے بعد احرار کا سیاسی رخ یکسر پٹ گیا۔ چنانچہ اگست ۱۹۴۲ء میں کانگریس نے ”ہندوستان چھوڑو“ کی تحریک چلائی تو احرار نے حکومت الہیہ کا ریزولوشن پاس کر کے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ احرار نہ کانگریس کے رہنے نہ لیگ کے، دونوں کی ہمسفری وہم نوائی سے گریز کیا پھر جب حکومت الہیہ کا ریزولوشن پاس ہوا تو اس وقت کئی احرار رہنما جیل میں تھے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جو احرار کے ہمیشہ سے صدر چلے آتے تھے ایک بے میعاد زمانہ نظر بندی دھرم سالہ جیل میں گزار رہے تھے۔

دراصل یہ احرار کے ایک ایسے ذہن کا انداز فکر تھا جو اینٹی برٹش ہونے کے باوجود کانگریس سے ہم آہنگ نہ تھا۔

جنگ ختم ہو گئی، اتحادیوں کو فتح، دنی لیکن جن لوگوں کو ظالمانہ حد تک انگریز دشمن سمجھا جاتا تھا وہ ایک بڑا صدمہ بانڈ اور زبان بند ہی رہے۔ خود راقم الحروف اتحادیوں کی فتح کے ایک سال بعد تک نظر بند رہا۔

### مولانا محمد گل شیر کی شہادت

انہی دنوں احرار کو ایک اور وار سہنا پڑا۔ مولانا محمد گل شیر اپنے گاؤں جنبھ ضلع کیمبل پور میں رات کے وقت سوتے میں گولی مار کر شہید کر دیئے گئے۔ ان کے قاتلوں کا سراغ کبھی نہ ملا۔ بہر حال ان کا قتل ایک سیاسی قتل تھا اور اس کے پس منظر میں وہ تمام رجحانات وسیلات تھے جن کا ذکر پنجاب کی خصوصیتوں کے ابتدائی ذکر میں آچکا ہے۔ مولانا جب تک

کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ تھے اور صرف واعظ تھے اس وقت تک کیمبل پورہ  
 انگ اور میانوالی وغیرہ میں بڑے لوگوں کی آکھ کا تارا تھے۔ وہ مدتوں احرار کی مخالفت  
 کرتے رہے۔ جب کوئی احرار لیڈر ان علاقوں میں جاتا اس سے اگلے ہی دن اس کا اثر نائل  
 کرنے وہاں پہنچ جاتے۔ آواز میں بلا کا سوز اور خطابت میں ایک طرح کا سحر تھا ٹیٹھ  
 پنجابی اس آواز پر مرتے تھے۔ ان اصداغ کے عوام میں ان کا خاصہ اثر تھا۔

۱۹۳۸ء میں حج کو گئے تو وہاں مدینہ منورہ میں خراب دیکھا۔ حضورؐ فرماتے ہیں احرار  
 سے مل کر خدمت خلق کرو۔ مولانا فرماتے تھے میں نے اپنی پچھلی مخالفتوں سے توبہ کی اور  
 آتے ہی احرار میں شمول کا اعلان کر دیا۔ کوئی ایک سال بعد احرار نے فوجی بھرتی بائیکاٹ کی  
 تحریک چلائی تو آپ بھی دو سال کے لئے قید کر دیئے گئے۔ قید کا زمانہ انتہائی شجاعت  
 اور غیرت سے بسر کیا۔ معلوم ہوتا قرن اقل کا کوئی صحابی راہِ خدا میں معرہ نہیں برداشت  
 کر رہا ہے۔ اُدھر ملاقات کے خانوں کو آپ کا احرار میں شمول ناپسند تھا۔ ادھر آپ نے ان  
 کے علاقوں میں احرار کی شاخیں قائم کرنا شروع کر رکھی تھیں۔ ایک دو جگہ کسانوں اور خانوں  
 میں بڑبڑ بھی ہوئی۔ جن خوانین نے لوگوں کو شاہ جی کی میزبانی سے روک دیا تھا وہ بھلا مولانا  
 محمد گل شیر کے اس قبولِ عامہ اور دعوتِ احرار کیونکر برداشت کرتے۔ مولانا چند مہینوں  
 ہی میں قتل کر دیئے گئے۔ ملک خضر حیات نے بہ طور وزیر اعلیٰ قاتلوں کی تلاش کے کئی وعدے  
 کئے لیکن سب دوشیزاؤں کی کہہ مکرنیاں ثابت ہوئے۔ یا پھر پولیس افسروں کے ہلکے بسم میں گم  
 ہو گئے کہ ان مسکراہٹوں میں سازشوں کی تہ بہ تہ کڑواہٹیں چھپی ہوتی ہیں۔

### چوہدری صاحب کی موت

چوہدری افضل حق کی رحلت کے بعد احرار کے سیاسی فیصلے تضاد و تعظیم کا شکار ہونے  
 لگے۔ اقل تر احرار نے کتابی نظریوں کو فریفت دی۔ ووم ان کا ایٹلی برٹش ذہن اتنا پختہ تھا  
 کہ وہ سر تا پا جذباتی ہو چکے تھے۔ انہیں اس امر کا اندازہ ہی نہ تھا کہ سیاسیات میں حالات و واقعات

کی رفتار دیکھ کر فیصلے کرنا پڑتے ہیں وہ دل سے سوچنے کے عادی تھے ان کا جذبہ رفتہ رفتہ مند بن چکا تھا اور اس ضد کو پروان چڑھانے میں بعض ایسے کوتاہ کار عناصر کی ایک خاص روت کا ہاتھ بھی تھا جو قربانی و ایثار، جذبہ و اعتقاد اور ایمان و اخلاص میں تو ان سے کوسوں پیچھے تھے لیکن اثر و سرور، دولت و ثروت اور جاہ و منصب میں منزلوں آگے تھے۔

## ماضی مرحوم

احرار ۱۹۴۶ء میں بھی ۱۹۲۰ء (تحریک خلافت) کے زمانے میں گھوم رہے تھے۔ حالانکہ زمانہ چھبیس برس آگے نکل چکا اور دو قومی نظریہ پیدا ہو کر جوان ہو گیا تھا۔ ان کا اعتقاد ہنوز نظری سیاست پر تھا۔ مسلم مسلمان علی سیاست میں ڈوب چکے تھے۔ انہیں تاریخ کے اس عمل سے کوئی واسطہ نہ تھا کہ قوموں اور ملکوں کی سیاسیات میں خاص قسم کے معاشی حالات بھی حصہ دار ہوتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ مسلمان اعتقادات کی باتیں تو ان سے سن کر خوش ہوتے لیکن معاملات کے وقت ان کا رخ ان لوگوں کی طرف ہوتا جو ان کے حقوق و مراعات کا نام لیتے اور ہمسایہ قوم کی مسلمان آزادی کا ذکر چھیڑتے تھے۔ انگریز اسلام اور ملک دونوں کا دشمن تھا لیکن مسلمانوں کے ہاتھ اتنے بلند نہ تھے کہ وہ اس کی آستین سے دستہ و خنجر نکال لیں۔ ان کی نگاہیں روزمرہ کے ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو دیکھ کر خشک گین ہوتی تھیں جن کا سرچشمہ ہمسایہ قوم کے لوگ تھے۔

## احرار اور لیگ

احرار کو غیر شعوری ذمہ تھا کہ وہ صورتاً یا سیرتاً اسلام سے قریب ہیں۔ ان کے ظاہر و باطن میں اس کے اثرات بھی تھے، لیکن لیگ کے راہنما مسلمان عوام کی روزمرہ کی زندگی میں گھس پکے تھے اور ان کی طبعی خواہشات کو متشکل کر کے اس کا نام پاکستان رکھ دیا تھا۔ پاکستان ابتدا ہندوؤں سے مسلمانوں کی اجتماعی ناراضگی کا اظہار تھا۔ رفتہ رفتہ ان کے اسلامی لیکن مادی تقاضوں کا مظہر ہو گیا۔ احرار پاکستان کے مجوزین کی طبقاتی سیرت اور سیاسی کردار کو زیر بحث

لاکر اپنے جائز خدشات کا منفی طریقہ سے اظہار کرتے تھے۔ انہیں اس سے غرض نہ تھی کہ مسلمان عوام کیا چاہتے ہیں وہ صرف اس سے بحث کرتے تھے کہ جن کی معرفت چاہتے ہیں وہ کون ہیں؛ چودھری افضل حق مرحوم نے انہیں آخری ایام زندگی میں مستنبہ بھی کیا تھا کہ پاکستان کی مخالفت نہ کرنا دکھی دلوں کی فریاد ہے لیکن ان کی جذباتی سیاست نے اپنے ہی قائد کی بات کو آویزہ گوش بنانے سے گریز کیا۔

### وجہ مغائرت

ہند یوں پیدا ہوئی کہ لیگ کے دولت مند اکابر ان کی غریبی پر طعن توڑتے اور انہیں بندوؤں کا زور خرید کہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک سپنڈل گالیوں کی اجتماعی یلغار سے بگڑے گا۔ پھر یہ لگاڑ اس صورت میں اور بھی مضبوط ہوتا ہے جب گالی دینے والا خود گالی ہو اور الزام لگانے والا فی نفسہ الزام ہو۔ احرار نے کس پر سی، غصے بھینچلاہٹ اور ضد میں پاکستان کے ملی موقف کی اہمیت کو نظر انداز کر کے نہ صرف لیگ کے رہنماؤں سے محاذ جنگ قائم کر لیا بلکہ اس وقت انتخاب میں کود پڑے۔ جب قومی مستقبل کے سوال پھین انتخاب ہی نہیں استصواب ہو رہا تھا۔

۱۹۴۶ء کے انتخاب میں حصہ لینا احرار کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بعض اجنبی جماعت نے ضد میں آکر ریفرنڈم کا ہاتھ بٹایا۔ جس سے احرار کے اجتماعی وقار کو سخت دھکا لگا لیکن اس میں عام احرار یا اکابر احرار کوئی حصہ نہ تھا۔ چودھری صاحب کی موت کے بعد احرار کے قائد مولانا مظہر علی اظہر تھے جن کا انفرادی ذہن احرار کا جماعتی ذہن سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ احرار رہنماؤں میں سیاسی اصولوں کے بجائے ذاتی دوستیوں کا میلان ہی غالب رہا اس لئے ایک کی بات پر سب طوعاً یا کرہاً سر جھکا دیتے تھے۔ شاہ جی "انتخابی دیدھ" میں حصہ لینے کے سخت خلاف تھے جب جماعت کا فیصلہ ہوا اور مولانا مظہر علی اظہر نے پہلی انتخابی تقریر کی تو شاہ جی سری نگر میں تھے۔ مولانا کی تقریر کے ایک ماہ بعد لاہور

تشریف لائے تو نہ صرف انتخاب رٹنے کے فیصلے پر ناراض ہوئے بلکہ مولانا مظہر علی اظہر سے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا کہ آپ نے سیاسیات میں ذاتیات کو لاکر ایک بڑی مثال قائم کی ہے، براہ کرم آئندہ اس موضوع سے پرہیز کیجئے۔ اب یہ کوشش کی گئی کہ شاہ جی بھی انتخابی مہم میں حصہ لیں۔ شاہ جی نے یونیٹوں پر تو بڑی بھیجا لیکن اتنا برکت راضی ہو گئے کہ صرف آزموہ احرار امیدواروں ہی کے حلقہ ہائے انتخاب میں جائیں گے۔ اس زمانے میں آپ نے جو تقریریں کیں اس میں مستقبل کے خدشات بالتفصیل بیان کئے لیکن رنگینی و شہینی کا وہ انداز ناپید ہی رہا جو زبان و دل کے متحد ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق

یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

انتخاب میں احرار کو متوقع شکست ہوئی ان کا ایک امیدوار بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ سٹوٹ سے دنوں بعد شاہ جی کو بعض ناگفتہ بہ حقائق کا پتہ چلا تو سخت دل برداشتہ ہوئے بلکہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔

ادھر وزارتی مشن ہندوستان پہنچ چکا تھا۔ احرار رہنماؤں کا وہ قبیلہ جس کی دوستی قابل رشک سمجھی جاتی تھی اپنے اندرونی اختلافات کے باعث بٹنے اور بکھرنے لگا۔

مولانا ظفر علی خاں اور غازی عبدالرحمن ۱۹۳۱ء ہی میں الگ ہو گئے تھے، وہ صرف نیوآٹھانے میں شریک ہوئے تھے اور بس، تحریک شہید گنج کے بعد مولانا داؤد غزنوی نے بھی ذہنی علیحدگی اختیار کر لی اور ۱۹۴۰ء کے وسط میں کانگرس میں چلے گئے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے رہا ہوتے ہی شملہ کانفرنس کے موقع پر اعلان کر دیا کہ ان کے لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ احرار سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تقسیم ہندوستان کے بعد انہوں نے دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور بھارتی شہری ہو گئے۔ ۱۹۶۰ء میں اشد کو پیارے ہو گئے۔

مولانا مظہر علی اظہر نے ۱۹۴۷ء کے شروع میں احرار سے استعفیٰ دے دیا اور

انفرادی طور پر پاکستان کی حمایت کرنے لگے۔ پاکستان بنا تو شاہ جی نے جماعت کے نام ایک خط لکھا کہ احرار کو اپنی سیاسی حیثیت ختم کر دینی چاہیے۔ کچھ دنوں بعد احرار کا ایک ایسا گروہ لیگ کی طرف راجع ہونے لگا جس میں سیاسی شکست خوردگی کا احساس نمایاں تھا۔ غالباً ۱۹۴۹ء میں ایک کھلی کانفرنس منعقد کر کے احرار نے لیگ میں ادغام کا اعلان کیا اور جماعت تبلیغی بنا دی۔ اس تبلیغی تنظیم نے قادیانیت کی سرکوبی شروع کی۔ رفتہ رفتہ پاکستان کے سبھی علماء ہم نوا ہو گئے، اس سہمنوائی نے قادیانیت کے خلاف ایک مضبوط محاذ کی صورت پیدا کی، فروری ۱۹۵۳ء میں راست اقدام کی آگ بھڑک اٹھی، حکومت کو لاہور میں مارشل لا نافذ کرنا پڑا۔

اواخر دسمبر ۱۹۵۲ء میں حکومت پنجاب نے مجلس احرار کو خلاف قانون قرار دے کر سامان وغیرہ پر قبضہ کر لیا دفاتر سرزمہر کر دیئے، کئی سال بعد نواب مظفر علی قزلباش ون یونٹ کے وزیر اعلیٰ ہوئے تو انہوں نے ۱۸ اگست ۱۹۵۸ء کو یہ پابندی ختم کر دی۔ لیکن احرار میں جو لوگ مذہبی اور دینی مزاج و طبیعت رکھتے تھے انہوں نے شاہ جی کی قیادت میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنا ڈالی اور قادیانیت کے خلاف سرگرم ہو گئے جن کے پیش نظر شروع ہی سے امور سیاست تھے۔ وہ عوامی لیگ میں چلے گئے لیکن بھاری پتھر تھا اٹھ نہ سکا چوم کے چھوڑ دیا۔ ادھر خلاف قانون ہو کر بھی احرار می ذہن علیٰ حالہ قائم رہا۔ پنجاب کے شہروں میں نہ صرف اس کے مضبوط حلقے تھے بلکہ سیاسی طور پر بھی ان میں ایسا استحکام اور انضباط تھا جن نے حوادث و افکاس کی طویل گردشوں کے بعد ایک قبیلوی عصبيت کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔

مندرجہ بالا تصریحات کا تجزیاتی خلاصہ یہ ہے۔

### خلاصہ احرار

۱۔ احرار پنجاب کے ادنیٰ متوسط طبقے کے شہریوں کی ایک ایسی تحریک تھے جس میں جوش و جذبہ و آفر تھا۔ وہ لیگ کے ہمہ گیر سیاسی ذہن اور کانگرس کی ہمہ گیر تنظیم کے مقابلہ میں سیاسیات و مذہبیات کے ترکیبی عناصر کا ایک جانثار اور جان پار مجموعہ تھے ان میں وسعت اور تنوع

۱۔ تھا وہ زیادہ تر پنجاب تک محدود تھے اور ان کے پیروکار عموماً اذنی درمیانے درجہ کے شہری لوگ تھے۔

۲۔ ان میں سیاست کی ایک رنگی کے بجائے رفاقت کی ہم رنگی کا جذبہ کارفرما تھا۔

۳۔ داخلی طور پر ان میں خیالات کا ٹکراؤ بھی تھا لیکن ایٹھی برٹش ذہن کی مشترکہ چھاپ نے انہیں متحد کر رکھا تھا۔

۴۔ جن طاقتوں کے خلاف صفت آ رہے تھے ان کی مختلف الاصل جارحیت کے خلاف مذہبی زبان میں سیاسی اثر پیدا کرتے تھے۔

۵۔ مسلم لیگ کے فروغ سے پہلے اور خلافت، کمیٹی کی رحلت کے بعد ہندوستان کے شمال مغربی مسلمانوں میں مضبوط ترین عوامی جماعت تھے ان کا واحد پروگرام انگریزی حکومت کا خاتمہ تھا۔

۶۔ ان کا جماعتی وجود کانگریس اور جمعیت العلماء کی منشا کے خلاف تھا اور یہ دونو جماعتیں احرار سے کسی حال میں بھی متفق نہ تھیں، مگر کئی احرار رہنما کانگریس اور جمعیت العلماء کے ذہن کی سفارت کرتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی سے ایک گونہ عقیدت رکھتے اور ان کی ذات کے لئے نبرد آزما ہونے لگے تھے۔

۷۔ انہوں نے ہندوستان کی قومی تحریک میں لہی جذبے سے بے مثال ذہانیاں کیس متی کہ اپنی عمروں کا بیشتر حصہ جیلوں میں گلا دیا۔ لیکن کانگریس اور لیگ دونوں نے صرف نفرت ہمارا جب وہ برطانوی حکومت کے خلاف کانگریس کے ذہن کی تائید کرتے تو مسلمان بدکتے جب مسلمانوں کے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے تو کانگریسیوں کو ناگوار کرتا اور جب مدح صحابہ ایسی تحریک میں رہنمایانہ حصہ لیتے تو غم و مسک مسلمانوں میں مذہبی دیوانگی کے سزاوار ہوتے۔  
الغرض انگریز ہندو اور مسلمان تینوں اپنے دوائر میں ان کے خلاف تھے۔

۸۔ احرار کسی خاص فکر ہی تحریک کے مظہر نہ تھے، مگر ایسی ٹیشن برپا کرنے اور پروپیگنڈا

رچانے کے فن میں بے مثال تھے۔

۹۔ ان کے نظریات میں رومانی تضاد تھا مثلاً سیاست میں اینٹی برٹش ڈہس کے وارث، مذہب میں حکومت الہیہ کے مبلغ، ثقافت میں اسلامیات کے دلدادہ، معاشیات میں دولت کی برابر تقسیم کے داعی، غرض ان کی تقریروں کا لب لباب قرآن و حدیث اور تاریخ و سیرت کا مرکب ہوتا اور مذہب ہی کے نام پر مسلمانوں سے مخاطب ہوتے۔

۱۰۔ انہوں نے اجتماعی سیاسی ذہن پیدا کیا لیکن تنظیم نہیں چودھری افضل علی مرحوم سے زندگی و فکرتی تو ممکن تھا وہ تنظیم کو خدائی خدمت گار تحریک کے ہم پایہ بنا لیتے لیکن ان کی موت کے بعد جماعت کا یہ پہلو کمزور ہو گیا۔ شاہ جی جوڑ ٹوڑ کے آدمی نہیں تھے وہ ایک روال دوال انسان تھے۔

۱۱۔ احرار نے ساری زندگی شہروں یا قصبوں کو اپنی جدوجہد کا مرکز بنا کر رکھا۔ دیہات کا رخ دیر بعد کیا لیکن تبلیغی حیثیت سے! مرزائیت کے خلاف اصلاح الرسوم اور بدعات کی بیخ کنی کے لئے یا سیرت کے محبتوں میں! شاہ جی مدت تک لوگوں کو اسلام علیکم کہنا سکھاتے رہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل پر مسلسل و غلط کئے مگر لوگوں کے معاشی یا مجلسی مسائل کو تنظیمی اعتبار سے چھوڑا تک نہیں البتہ پنجابی مسلمانوں کو تجارت کی راہ پر لانے میں شاہ جی اور احرار نے عظیم خدمات انجام دیں۔

۱۲۔ احرار میں قربانی، احتجاج، حوصلہ اور خطابت کا جوہر وافر تھا، لیکن فکر، نظر، سوچی اور قیادت کا تناسب مقابلیت کمزور تھا۔ انہوں نے زمانے کے مطابق چلنے سے ہمیشہ گریز کیا ان میں سپاہی ہی سپاہی تھے لیکن مدبرانہ شاذ کا لہجہ و موم۔ وہ ہنگامہ کے ایک لمحہ کو مصلحت کی سوسالہ زندگی پر ترجیح دیتے تھے۔ وہ میدان میں بلا کے لڑوینے تھے لیکن ہزارہ شیوہ سیاست وال نہیں تھے۔



۱۳۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری وسائل کا فقدان تھا جو کچھ تھے اپنے ہی اندر تھے، ان کی "پلائی لائنیں" خارج میں نہ تھیں۔ وہ فقر و فاقہ اور جوش و غضب کا بہرا دل دستہ تھے۔

۱۴۔ انہیں امرار کے ذہن سے مدد و جوتفر تھا اس تنفر ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے تحریک پاکستان کو عوام کی بجائے خواص کے آئینہ میں دیکھا اور ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ:

"جن لیگیوں اور کانگریسیوں کو سیاسی اور اقتصادی مساوات سے گھن آتی ہے وہ سن لیں کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، نہ وطنی۔ وہ لٹیروں کا ذہن رکھتے ہیں ان کا اور احرار کا ساتھ نبھ نہیں سکتا۔ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم تقسیم ہند کے قائل ہو، ہم اس سوال کا جواب دینے سے قبل سائل سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم دولت کی منصفانہ تقسیم کے قائل ہو، اگر قائل ہو تو پھر ہندوستان ایک طرف رہا، ہم شہروں کی تقسیم کے بھی قائل ہیں لیکن ہم اس کے سخت خلاف ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانی دے کر کسی یزید جیسے مسلمان کے لئے سخت سلطنت بچھایا جائے۔" (تاریخ احرار صفحہ ۱۴۱) جان گنہگر کے نزدیک احرار مذہبی اعتبار سے فرقہ پرست فرائی اور سیاسی اعتبار سے انتہا پسند سیاستین تھے (دورِ حاضر کا اسلام) لیکن ماڈرن اسلام ان انڈیا ————— کے مصنف مسٹر ویلفریڈ سی سمتھ کا خیال تھا کہ احرار ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیائے اسلام کی پہلی مسلم سوشلسٹ تحریک ہیں۔

ان محاسن و معائب کے پس منظر میں احرار کی پوری تاریخ سامنے آجاتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تحریک کس بے دردی سے برباد ہو گئی۔ — تاہم ایک مؤرخ واقعات کی چھان پھٹک کے بعد اس نتیجہ پر ضرور پہنچتا ہے کہ احرار نے جس ذہن کی آبیاری کی اس کی بہت سی شاخیں بڑھ اور ہوئیں، مثلاً

۱۔ مسلمان نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت میں خلافت سادراج ذہن پیدا کیا جو نچتہ ہو کر ان کی فطرت ہو گیا۔ اس سے متاثر ہونے والے زیادہ تر درمیانے درجے کے مفکر و الحمال

لوگ تھے۔

۲۔ غریبوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کی جس کا ذہن مسلمان امر کے استحصال سے برافروختہ ہو کر طبقاتی شعور کی راہ پر آگیا۔ اس جماعت کا وجود بازار سیاست میں خرید و فروخت سے ہمیشہ ماورئی رہا۔

۳۔ مسلمانوں میں فعال سیاسی کارکنوں کی ایک کھیپ پیدا ہوگئی جس کا عام حالات میں قحط تھا۔

۴۔ مسلمانوں میں اچھے مقرروں کا ایک گروہ پیدا ہوگیا جس نے ذہنی انقلاب کی آبیاری میں قابل قدر حصہ لیا۔

۵۔ عام لوگوں کی چیرطی میں سے استحالی گروہ کا خوف جاتا رہا، غراب میں احساس خودی توانا ہونے لگا۔

۶۔ مسلمانوں میں پہلے کی بہ نسبت کئی سوگنا بدعات کا خاتمہ ہوگیا اور وہ بعض معاشری

گمراہیوں سے بچ نکلے۔

بعض متقدموں نے سیاست دان اس طبقاتی ذہن کو احرار کا پیدا کیا ہوا ذہن تسلیم کرنے

سے شاید ہچکچاہٹ میں یوں بھی تاریخ شکست خوردہ لوگوں سے کبھی انصاف نہیں کرتی لیکن یہ

ذہن (بغیر نام، بہر حال پاکستان کے مستقبل کا ذہن ہے۔ اور دنیا کے ضمیر میں یہ ہیجان برپا

ہو چکا ہے کہ سرمایہ داری کا نظام ختم ہونا چاہیے، دولت کی غلط تقسیم نے کروڑوں انسانوں کو ایک طرف مفلوج دوسری طرف مشتعل کر رکھا ہے۔

# میرزا ایت

## پاکستان سے پہلے

مسلمانوں اور میرزا ایتوں میں ٹھکراؤ کی جو صورتیں پیدا ہوتی رہی ہیں ان کی بنیاد اس دن رکھی گئی جب ۱۸۸۰ء میں میرزا غلام احمد نے اپنے طہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی سال آپ نے ”براہین احمدیہ“ لکھی جس میں اپنے مجدد ہونے کا اعلان کیا۔ یکم دسمبر ۱۸۸۸ء کو آپ نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ ۱۸۹۱ء میں اپنے مسیح موعود ہونے کا انکشاف کیا اور ظلی نبی کی معطلہ ایجاد فرمائی۔ نومبر ۱۹۰۴ء میں آپ نے سیاکھوٹ کے ایک جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے تخیل کرشن ہونے کا دعویٰ کیا پھر فرمایا کہ آپ ہر مذہب کے اوتار ہیں۔ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو آپ کا انتقال ہو گیا۔

اس آثار میں ۱۸۸۰ء سے لے کر ۱۹۰۸ء تک جن مقاصد و مصالح کی آبیاری کی گئی ان کے بگ و بار کا خلاصہ یہ ہے۔

اولاً میرزا اصحاب نے عیسائی مشنریوں سے مناظروں کی بنا رکھ کر مسلمانوں کی ذہنی زندگی کو ایک ایسے الجھاؤ میں چنسا دیا جس کا بد یہی نتیجہ ان حالات میں انگریزی حکومت کی مصلحتوں

کے لئے نفع آور تھا۔

ثانیاً آریہ سماجیوں سے تو نکال کر راہ پیدا کی چنانچہ سب سے پہلا مناظرہ آپ نے اوائل مارچ ۱۸۸۹ء میں لالہ مٹھی دھر آریہ سماجی سے ہوشیار پور میں کیا وہاں پہلی دفعہ اُس دشنام و تفریق کی بنا رکھی گئی جس نے آئندہ چل کر راجپال اور بعض دوسرے شاتم رسول پیدا کئے اور یہ سب میرزا صاحب کے مبالغوں کا قدرتی نتیجہ تھا کہ اس کا فائدہ برطانوی حکومت کے تفریقی مقاصد کو پہنچتا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف بدگوئی کی مہم کا سبب میرزا صاحب کے یہی مبالغے اور مجادلے تھے۔ آخر علماء کے ایک گروہ میں ظلی نبوت کے دعویٰ کی مزاحمت شروع ہو گئی، مولوی محمد حسین بٹالوی جو میرزا صاحب کے دعویٰ نبوت سے پہلے عیسائیوں اور آریوں سے مناظرے کرتے اور تیغ جہاد کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ رہے تھے ایک ایسا فریٹ ہو گئے۔ عام مسلمانوں میں ایک ہیجان سا پیدا ہو گیا۔

جن لوگوں کو آپ کے ضد و مخال کا قریبی علم تھا انہوں نے جو ابی فتوے صادر کئے یہ فتوے پہلے پہل ۱۸۹۰ء میں جاری کئے گئے۔ سب سے پہلا فتویٰ لدھیانہ کے علمائے جلدی کیا جن میں مولانا محمد عبد اللہ اور مولانا عبدالعزیز رحمہم اللہ تعالیٰ پیش پیش تھے۔ ان کی تائید میں مولوی سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی نے فتویٰ صادر کیا پھر دہلی، آگرہ، حیدرآباد اور بنگال کے علماء نے فتاویٰ جاری کئے تاکہ میرزا صاحب کی مہر ویت اور نبوت مسلمانوں میں نزاع کا باعث ہو گئی دو نوظرف مباحثوں کا بازار گرم ہو گیا اور وہ توجہ جو انگلیزیوں کی طرف تھی میرزا صاحب کی طرف منتقل ہو گئی یا انہوں نے اپنی طرف پھیر لی۔ میرزا صاحب نے ظلی نبوت کے جو کمالات دکھائے اس کی فصاحت و بلاغت کے نونے آئندہ صفحات میں ضمنی مباحث کی مناسبت سے پیش کئے جا رہے ہیں۔

### مقدمہ بازی

ان مباحثوں اور مبالغوں کا ایک نتیجہ اور نکلنا کہ نوبت مقدمہ بازی تک جا پہنچی۔ سب

سے پہلا مقدمہ پادری کلا رک نے کیا اس نے الزام لگایا کہ میرزا صاحب نے اپنے کسی اہل  
 کی سچائی ثابت کرنے کے لئے ایک شخص عبد الحمید کو ان کے قتل پر مامور کیا ہے۔ دوسرا  
 مقدمہ پولیس نے ۱۸۹۸ء میں ایک پیشین گوئی کی بنا پر دائر کیا جس میں مولانا محمد حسین بٹالوی  
 کا رشتہ حیات منقطع کئے جانے کا اشارہ تھا۔ اسی طرح ۱۹۰۲ء کے آخر میں ایک مسلمان  
 نے جہلم میں دو مقدمے دائر کئے۔ ہر مقدمہ میں میرزا صاحب چھوڑ دیئے گئے۔ آریوں سے  
 مناظروں میں بدگوئی کی سزا میرزا صاحب کے بجائے اسلام کو جھگٹی پڑھی چنانچہ ستیا رتھ پرکاش  
 کا پہلا ایڈیشن جو ۱۸۷۵ء میں راجہ جے کشن داس سی ایس آئی کے زیر اہتمام بنارس میں چھپا  
 تھا اور جس کے حقوق سوامی دیانند نے ان کے ہاتھ فروخت کر دیئے تھے ابتداً بارہ ابواب  
 پر مشتمل تھا۔ اس میں تیرھویں اور چودھویں باب کا اضافہ میرزا صاحب کی ان تحریروں  
 کے بعد ہوا جن میں آریوں کے نیوگ ایسے معاشرتی مسئلے کو چھیڑ کر ان کا مذاق اڑایا گیا  
 اور ان کے بعض عقائد کو مضحک قرار دیا گیا تھا، سوامی دیانند ۳۰ اکتوبر ۱۸۸۳ء کو انتقال  
 کر گئے تو میرزا صاحب نے ان کی موت کو بھی اپنی پیش گوئیوں سے وابستہ کر لیا۔ چنانچہ  
 ان کی رحلت کے بعد ستیا رتھ پرکاش کا جو دوسرا ایڈیشن چھپا، اس میں تیرھویں اور چودھویں  
 باب کا اضافہ تھا جن میں خدا اور رسول پر ریک جملے کئے گئے تھے، ایک میرزائی قاسم علی نے  
 انیسویں صدی کا مہاشی دیانند شائع کی جس میں آری سماج کے بانی کو چیتھارا اسی کا نتیجہ تھا  
 ”نگیلا رسول“ (خاکم بدہن) جس کے مصنف پنڈت چمپاوتی ایم اے پر ویسٹ ڈی اے وی  
 کالج لاہور اور ناشر مہاشا راجپال تھے۔

غلام احمد کو ان کی زندگی ہی میں ان دعویٰ ہائے مہدویت اور نبوت کی بنا پر گھیرا گیا۔  
 گو ان کے دعویٰ کو پڑھے کھے لوگوں میں محض مسخرے پن سے تعبیر کیا گیا مگر عام مسلمانوں

نے ان دعاوی سے اجتماعاً کوئی دلچسپی نہ لی۔ ان کے تعاقب میں مولوی شتار اللہ امرتسری نے بڑا نام پیدا کیا، لیکن میرزا صاحب کی وفات کے بعد اصل خرابی میرزا محمود احمد کے عہد میں شروع ہوئی۔ حکیم نور الدین خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا تو میرزا محمود احمد مصلح موعود کا لبادہ اوڑھ کر بزعم خورشید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بیٹھے۔

پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) سے لے کر دوسری جنگ عظیم (۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۵ء) کے آغاز تک میرزا سیت ایک بندھی اور لپٹی ہوئی چیز کی طرح خود بخود کھلتی اور بکھرتی چلی گئی۔ عامۃ الناس کو رفتہ رفتہ معلوم ہو گیا کہ میرزا سیت کا مافی الضمیر کیا ہے؟ اور اس کے ظاہری و باطنی وجود میں کس قدر تفاوت یا مطابقت ہے؟ حکیم نور الدین کی حیات تک عام لوگوں میں اس کا تبلیغی کردار ہی نمایاں رہا۔ لیکن میرزا محمود احمد کی خلافت نشینی نے چہرے کی تمام نقابیں اٹھا دیں اور لوگ غالباً پہلی دفعہ پہچاننے لگے کہ اس تبلیغ کے پس منظر میں جو عظیم قائم ہوئی ہے اس کو ایک سیاسی تحریک بنانے میں کن عوامل و عناصر کا ہاتھ ہے۔

چنانچہ پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں بالخصوص انگریزوں کے فتح پر اس تحریک یا تنظیم نے جو کارنامے سرانجام دیئے اور خلافت عثمانیہ کے سقوط پر جس مسرت کا اظہار کیا اس سے مسلمانوں کے کان کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں کی سیاسی تحریکوں کے دینی راہنماؤں نے پہلی دفعہ میرزا سیت کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ شروع کیا۔

### مولانا ظفر علی خاں کی مزاحمت

اس وقت تک میرزا غلام احمد کے بارے میں عوام و خاص کی معلومات زیادہ تر سماعی تھیں اور لوگ نظریہ ظاہر انہیں اسلام کا ایک مبلغ و مناظر سمجھتے تھے اور ان کی جماعت کو بوجہ ایک تبلیغی جماعت، لیکن اسلامی ملکوں کی تاخت و تاراج پر میرزا سیتوں نے جو چرافل کیا اس سے عام مسلمان نہ صرف پرگشتہ ہو گئے بلکہ میرزا سیت کا توڑ قرآن و حدیث سے کیا جانے لگا۔ اس وقت میرزا سیت کی سیاسی کارگزاریوں کو بوجہ چیلنج نہیں کیا گیا بلکہ اس

کی مذہبی عمارت کو ڈھانے کے لئے مذہب ہی کو واسطہ بنایا گیا۔ لیکن رفتہ رفتہ مزاحمت کا جو ذہن تحریک بن گیا۔ اس کے داعی اول مولانا ظفر علی خان مدیر زمیندار تھے مولانا نے میرزا ایت کے خلاف جمہور المسلمین میں ہنگامہ برپا کر دیا اور میرزا ایت کو شہروں سے بھاگ کر دیہات میں پناہ لینی پڑی۔ — مولانا نے تردید میرزا ایت کے ضمن میں بعض طویل اور گراں قدر مقالے لکھے۔ جو غالباً ۱۹۳۳ء یا ۱۹۳۴ء میں بعض فکاہی نظموں کے ساتھ ارنغان قادیان کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے۔ کہا جاتا ہے اس کتاب کی تمام جلدیں میرزا میوں نے اپنے ایجنٹوں کی معرفت خرید کر جلا دیں اور مولانا اختر علی خان کو آئندہ اشاعت سے باز رکھنے کے لئے رام کر لیا، مولانا ظفر علی خان کی پیدائی ہوئی اس عوامی تحریک کو اسی جوش و ہیجان کے ساتھ بعض سیاسی اور دینی حلقوں نے اپنانا شروع کیا چنانچہ چودھری افضل حق مرحوم نے بعض تلخ سیاسی تجربات کی بنا پر احرار فقار کو آمادہ کیا کہ وہ اس تحریک کو ہاتھ میں لے کر قادیانیت کی اجتماعی منتوں کا جماعتی مقابلہ کریں۔

### احرار کی جماعتی مزاحمت

شاہ جی نے میدان مبارزت کی کمان خود سنبھال لی پہلا موقع تھا کہ میرزا ایت کو ایک سخت ہان طاقت سے مقابلہ کرنا پڑا جس کی پاداش میں احرار کو صعوبتوں پر صعوبتیں سہنی پڑیں حتیٰ کہ مذہب کے اس محاذ کا خمیازہ انہوں نے سیاسی محاذ کی پے در پے ناگامیوں میں سبکتا۔ لیکن میرزا ایت حملوں اور برطانوی مزاحمتوں کے باوجود میرزا ایت اور اس کے پیروؤں کو احرار نے ایک ایسی پوزیشن میں لاکر کھڑا کیا کہ :

۱۔ عام مسلمانوں میں ان کا وجود اعتقاد سے خارج ہو گیا۔

۲۔ ان کے تبلیغی دروازے بڑی طرح بند ہو گئے۔

۳۔ انہیں مذہب مسلمانوں سے خارج سمجھ جانے لگا اور سیاست برطانوی اقتدار کا مہرہ، جس کا اقرار

خود میرزا محمود احمد نے اپنے بہت سے خطبوں میں کیا ہے، مثلاً :

”جماری جماعت وہ ہے جسے شروع ہی سے لوگ کہتے چلے آتے ہیں کہ یہ خوشامدی اور گورنمنٹ کے پشتو ہیں، بعض لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے جاسوس ہیں، پنجابی محاورہ کے مطابق ہمیں ”جھولی چک“ اور نئے زمینداروں (غالباً اخبار زمیندار“ مراد ہے، محاورہ کے مطابق ہمیں ”ٹوٹی“ کہا جاتا ہے۔“

(خطبہ میرزا محمود احمد

الفضل قادیان جلد نمبر ۲۲

نمبر ۵۹ مورخہ ۱۱ نومبر ۱۹۳۴ء

۴۔ احرار کی مزاحمت سے پہلے نئی نسل کے انگریزی پڑھے لکھے مسلمانوں کی ایک جمعیت میرزا میوں کے تبلیغی جلسوں میں شریک ہو کر ان کی بالواسطہ تقویت کا موجب بنتی تھی اس سے ناخواندہ مسلمانوں میں میرزا ایت کا مذہبی اعتبار بڑھتا تھا، احرار نے یہ سب نقشہ پٹ ڈالا حتیٰ کہ مسلمان خواص کو بھی جہور کی ناراضی کے پیش نظر ان کی معاونت سے دست کش ہونا پڑا۔ ۵۔ مسلمانوں نے میرزا میوں کو اپنے بیشتر اداروں سے نکال باہر کیا اور عام انتخاب میں ان کے چناؤ کی تمام راہیں سدود ہو گئیں۔

۶۔ سب سے بڑی جیت یہ ہوئی کہ دور ممانہ کے سب سے بڑے مسلمان مفکر علامہ اقبال نے قادیانی تحریک کے مالہ و ماعلیہ کا مطالعہ کر کے اس کا تجزیہ کیا۔ چنانچہ میرزا میوں کو مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرار دینے کے مجوز حضرت علامہ ہی تھے۔ میرزا ایت سے متعلق علامہ اقبال کے الفاظ بلاشبہ حوت آخرو ہیں۔

(ملاحظہ ہو علامہ اقبال کا بیان مطبوعہ سٹیٹسین، ۱۰ جون ۱۹۳۵ء)

۷۔ مولانا فخر علی خان اور جماعت احرار کی پیدا کردہ تحریک کے درمیانی دنوں میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے صدر شعبہ معاشیات پروفیسر محمد الیاس برنی نے قادیانی مذہب کے نام سے ایک ضمیمہ کتاب لکھی جس کی لوح پر عبارت ذیل درج ہے۔



”دین و ملت کی صلاح و فلاح کا دعویٰ کر کے کس کس طرح تخریب و تفرقہ کی سازش کی گئی قادیانیت کا یہ فریب اسلام کی تاریخ میں یادگار ہے گا اور انجام بھی عبرت آموز ہوگا۔“

”قادیانی مذہب کی اشاعت سے نہ صرف میرزاہیوں میں پہلے پھیل گئی بلکہ پڑھے لکھے لوگوں میں ان کی قلمی کھینے لگی۔“

۸۔ علامہ اقبالؒ کی ہمنوائی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج میرزا سرفراز علی نے بھی یہ دلائل ثابت کیا کہ قومیں نبوتوں کی بنا پر معرض وجود میں آتیں اور الگ الگ شمار ہوتی ہیں۔

۹۔ میرزاہیت کے کاسہ سر پر سب سے کارمی قانونی ضرب مسٹر جی ڈی کھوسہ سیشن جج گودا سپور کے فیصلے سے پڑھی، اس فیصلہ سے میرزاہی بوکھلا گئے۔ انہوں نے بعض حصوں کو مخدوف کرانے کے لئے عدالت عالیہ سے رجوع کیا۔ غرض یہ پہلا عدالتی جائزہ تھا کہ میرزاہیوں کی ریاست اندر ریاست کے چہرے سے گھونگٹ اٹھایا گیا اور حکومت کو بھی غالباً پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ اس کا ٹھوڈا کاشٹہ پودا ”نودسربھی ہے۔“

## قادیانیت کا مسلک

احرار کو اصرار تھا کہ :

۱۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین کے بعد اگر کوئی شخص ظلی یا بروزی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی سیاسی وحدت کے موجودہ زوال سے فائدہ اٹھا کر ان کی دینی وحدت کو بھی پارہ پارہ کرتا ہے جس کے نتائج دین و دنیا دونوں کیلئے خسران کا موجب ہوں گے اور میرزاہیت فی زمانہ اسی خسران کا سرچشمہ ہے۔

لے ملاحظہ ہو اعتراف مند رج تبلیغ رسالت بلکہ ہضم بہ عنوان درخواست بھنور نواب میٹھنٹ گورنر بہادر و دام اقبالہ۔ صبا نوب میرزا انعام احمد مورخہ ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء

۲۔ میرزا ابی برٹش امپریلیزم کے گھلے ایجنٹ ہیں۔

۳۔ وہ عام مسلمانوں سے نہ صرف مذہبی علیحدگی رکھتے ہیں بلکہ سپانڈہ مسلمانوں کا مجلسی و معاشی مقاطعہ بھی کرتے ہیں جس کا واحد مقصد انہیں مرعوب و خوفزدہ کر کے اپنے مطلقہ بیعت میں شامل کرنا ہوتا ہے۔

۴۔ وہ مسلمانوں میں بطور فتنہ کالم کام کرتے ہیں۔

دیکھو تاریخ احرار صفحہ ۳۸ تا ۱۴۴

## بین شہادت

احرار کے ان دعاوی اور بہ الفاظ میرزا محمود احمد الزامات کی پرکھ کے لئے ضروری ہے کہ ہم میرزا اینوں اور ان کے محسنوں کی مستند تحریروں سے اصل حقیقت معلوم کریں اس سے میرزا اینوں کو یہ شکایت نہ ہوگی کہ انہیں کسی پرانی حکایت یا روایت پر ملزم گردانا گیا ہے۔ اس طرح احرار کے دعاوی کی اصلیت بھی معلوم ہو جائے گی کہ وہ جو کچھ بیان کرتے رہے ہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے۔

جو لوگ پیغمبر یا رسول کہلاتے ہیں ان کے بارے میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے جس سے عامۃ الناس جاننا چاہتے ہیں کہ مدعی خود کیا ہے؟ — اسی اصل کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب سے پہلے میرزا صاحب کے خاندان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

میرزا صاحب کتاب البریۃ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

”میرے والد کو انگریزی حکام نے خوشنود دی مزاج کی چھٹیاں دی تھیں۔

سر ایبل گریفن نے اپنی کتاب تاریخ ریساں جناب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔“

؛ ملاحظہ ہو ریلوی آف ریلیجنز صفحہ ۲۱۹ بابت جون جلد ۵ نمبر ۶

اس تذکرہ کا اردو ترجمہ سید نواز علی شاہ مترجم دفتر لیفٹیننٹ گورنر بہاولپور پنجاب

نے ۱۹۱۱ء میں سرکار کی خصوصی اجازت سے کیا اور نول کشور گیس پرنٹنگ ورکس کے زیر اہتمام  
 بڑے تزک و احتشام سے چھپوایا، اس کی جلد دوم کے صفحہ ۶۶ پر میرزا غلام احمد صاحب  
 کے خاندان کا شجرہ نسب اور ضروری کوائف درج ہیں۔ انہی کے الفاظ میں اس کا خلاصہ ہے۔  
 ۱۔ عطا محمد میرزا صاحب کے دادا، اور ان کا والد گل محمد رام گڑھیہ اور کھنیا بسوں  
 دسکھ جماعتوں سے لڑتے رہے آخر کار عطا محمد اپنی تمام جاگیر کھو کر سردار فتح سنگھ اہلووالیا  
 کی پناہ میں بگیو وال چلا گیا جہاں بارہ سال تک امن و امان سے زندگی بسر کی۔

۲۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے عطا محمد کی وفات پر اس کے بیٹے غلام مرتضیٰ میرزا  
 غلام احمد کے والد کو یہ سونپا لیا۔ اور جبری جاگیر کا بہت بڑا حصہ لوٹا دیا۔ اس پر غلام مرتضیٰ  
 اپنے بھائیوں سمیت بہاراجہ کی فوج میں داخل ہوا اور کشمیر کی سرحد کے علاوہ دوسرے مقامات  
 پر قابل قدر خدمات انجام دیں۔

۳۔ نونہال سنگھ، شیر سنگھ اور دربار لاہور کے دور دور سے میں غلام مرتضیٰ فوجی خدمت  
 پر مامور رہا۔ ۱۸۶۱ء میں جرنیل و نظور اسکے ساتھ منڈھی اور کلوکی طرف بھیجا گیا پھر ۱۸۶۳ء  
 میں ایک پیادہ فوج کا کمانڈر بنا کر پشاوڑ روانہ کیا گیا۔ ہزارہ کے مفصلے میں اس نے  
 کاروائی نمایاں انجام دی ہے۔

۴۔ جب پنجاب کا انگریزوں سے الحاق ہو گیا تو خاندان کے دوسرے افراد کی جاگیریں بڑ  
 ہو گئی لیکن سات سو روپیہ کی پیش غلام مرتضیٰ اور اس کے بھائیوں کو عطا کی گئی۔

۵۔ اس خاندان کے خدو، ۱۸۵۷ء کے دوران میں بہت اچھی خدمات سر انجام دیں۔  
 غلام مرتضیٰ نے بہت سے آدمی بھرتی کئے اس کا بیٹا غلام قادر، میرزا غلام احمد و چھائی  
 اس وقت جرنل نکلسن کی فوج میں تھا اس نے ۱۸۶۶ء میں انٹرنیشنل (سیانکوٹ) کے باغیوں

کو تہ تیغ کیا۔ جنرل مذکور نے غلام قادر کو ایک سند عطا کی جس میں لکھا:  
 ”کہ ان کا خاندان قادیان منٹل گورنمنٹ سپور کے تمام دوسرے خاندانوں سے زیادہ  
 نمک ملال رہا ہے۔“

اپنی اس نمک ملالی کا اقرار و اعتراف خود میرزا صاحب اور ان کے جانشینوں کو رہا۔  
 ان کے اپنے الفاظ میں کتابوں کی سچاس ماریاں بھری پڑھی تھیں جن میں انگریزوں کے  
 قصیدے مرقوم تھے مگر سکھوں سے اپنی وفاداری کی پوری رُو واد اسی طرح غائب کر دی  
 جس طرح آج انگریزوں کے پلے جانے پر کاسر ایسی کاریگر ڈٹلتی لگ گیا اور تعمیر و تاویل کا دلچسپ  
 اثاثہ فراہم کر کے اب کئی جلدوں میں تاریخ احمدیت لکھی گئی ہے۔

میرزا صاحب کے ان خاندانی حالات سے جن واقعات کی نشاندہی ہوتی ہے ان کی  
 تاریخی تفصیلات معلوم کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میرزا صاحب کے اب و جد  
 نے مغلوں کی گرتی ہوئی دیوار کے زمانے میں سکھوں کا ساتھ دیا اور سکھوں کو زوال آدہ  
 پایا تو انگریزوں سے رشتہ موت استوار کیا۔ میرزا صاحب کے دادا اور پڑدادا نے  
 رام گڑھیا اور کھنیا سلوں سے جو لڑائیاں لڑیں وہ کسی اسلامی مقصد یا اپنے اقتدار کیلئے  
 نہ تھیں بلکہ ایک مسل کے خلاف دوسری مسل کے حق میں تھیں، کیونکہ پنجاب کا بیشتر حصہ  
 تاخت و تاراج ہو کر سکھوں کی بارہ سلوں کے تصرف میں تھا۔ ان میں سے چھ مسلمین  
 دریائے ستلج کے جنوب میں اور چھ شمال میں تھیں۔ میرزا صاحب کے بزرگ ان سلوں کی  
 باہمی جنگوں میں رام گڑھیا اور کھنیا سلوں کے برخلاف اہلو الیہا مسل کے حلیف تھے چنانچہ  
 اہلو الیہا مسل کی شکست خوردگیوں کے باعث میرزا صاحب کے دادا کو قادیان چھوڑ کر سردار  
 فتح سنگھ اہلو الیہا کی پناہ میں بیگو وال مانا پڑا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اکال گڑھ کی فتح یاہی  
 کے بعد اہلو الیہا مسل کے سردار فتح سنگھ کو رام کرنے کے لئے کپور تھلہ کا قصد کیا۔ سردار  
 مذکور کا باپ سردار بھاگ سنگھ دفات پاچکا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پہلے تو ماتم پرسی کی

پھر گڑھی بدل کر اس کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا۔ اس مغاہمت ہی کے نتیجے میں آگے چل کر میرزا عطا محمد کے خاندان کی جلا وطنی ختم ہو گئی، عطا محمد خود تو فوت ہو چکا تھا لیکن اس کا بیٹا غلام مرتضیٰ مہاراجہ کی فوج میں ملازم ہو گیا۔

مہاراجہ رنجیت سنگھ اور سردار فتح سنگھ اہلو والیہ نے متحد ہو کر ڈسکہ فتح کیا پھر قصور پر چڑھائی کی اور خان افتخار حسین خان ممدوٹ کے مورث اعلیٰ نظام الدین خان کو شکست دے کر قبضہ کر لیا۔ اس پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے میرزا غلام مرتضیٰ کی خدمات سے خوش ہو کر اسے قاریان کی جاگیر کا ایک حصہ واگزار کر دیا۔

### خدمات جلیلہ

غرض سرلیپل ایچ گزلفین اور کرنل سیسی کی روایت کے مطابق میرزا غلام مرتضیٰ نے اپنے بھائیوں سمیت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ہر تاخت میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ ان لڑائیوں کی تفصیلات کا یہ محل نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کشمیر، پشاور اور ہزارہہ پر سکھوں نے جتنے حملے کئے وہ مسلمانوں ہی کے خلاف تھے ان حملوں میں میرزا غلام مرتضیٰ اور اس کے بھائی سکھوں کی طرف سے سکھوں کے ہمراہ لڑتے رہے۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس دور میں سکھوں سے بڑھ کر مسلمانوں کے املاک و اموال اور عزت و آبرو کا کوئی دشمن نہ تھا ان کا واحد نصب العین مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا تھا۔

یہاں اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ دربار لاہور نے اپنے دور اقتدار میں جن فوجی خدمات کو سرا انجام دیا ان میں ایک بڑا کارنامہ حضرت سید احمد بریلویؒ کی شہادت کا الیہ ہے اس دربار کے جو سردار حضرت سید احمد بریلویؒ اور ان کی جماعت مجاہدین سے مختلف معرکوں میں صفت آ رہے ان میں جنرل و نظروا، ہر سی سنگھ نلوا اور مہاراجہ شیر سنگھ فرزند مہاراجہ رنجیت سنگھ پیش پیش تھے۔ میرزا کے والد اور بھائی انہی کی معیت میں لڑتے رہے۔ غور کیجئے میرزا صاحب کے ابا اور چچا نے دربار لاہور کی حمایت میں کیا کیا کارنامے سر انجام نہیں دیئے ہونگے۔

حضرت سید احمد بریلویؒ کی شہادت کا ایسا اصل میں اعلیٰ کلمہ رب العالمین اور  
احیائے سنت ختم المرسلین کی تحریک کے قتل کا سانحہ تھا۔

میرزا غلام احمد کے والد میرزا غلام مرتضیٰ نے جو گریفن کی روایت کے مطابق سکھوں  
کی فوج میں تھے لازماً حضرت سید احمد علیہ الرحمۃ اور جماعت مجاہدین کا مقابلہ کیا ہوگا، ہزارہ  
اور پشاور کے معرکوں میں ان کی شرکت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ  
ہری سنگھ نلوا کے ہمراہ بھی گئے ہوں، مہر مال سید صاحب پر جو بیٹی اس کی المناک روداد  
مولانا غلام رسول مہر کی فاضلانہ تصنیف سید احمد شہید میں بہ تفصیل درج ہے اور قرین قیاس  
یہی ہے کہ گریفن کی روایات سے جو لغت و نشر مرتب ہوتا ہے، اس کے مطابق میرزا صاحب  
کے والد شیر سنگھ کی ماتحتی میں حضرت سید احمد شہید اور ان کے لشکر سے ضرور لڑے ہوں گے  
اس ضمن میں اس کی تصدیق اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سید احمد کی شہادت  
کے بعد ۱۸۴۲ء میں میرزا صاحب کے والد کو ایک پیادہ فوج کا کمانڈر بنا کر پشاور بھیجا گیا جو  
کاملاً اعتماد کے بغیر ناممکن تھا۔ ان معرکوں کی سرگزشت تاریخ پنجاب معصنہ سید محمد لطیف میں  
بصراحت درج ہے۔ بعض زیر نظر مباحث کے پیش نظر قریبی اور یقینی شہادت اسی  
تاریخ سے ماخوذ ہے۔ چونکہ میرزا غلام مرتضیٰ نے اپنی فوجی خدمات کا بیشتر حصہ شیر سنگھ کی  
ماتحتی میں بسر کیا تھا اس لئے شیر سنگھ کے مختصر حالات نذر قارئین ہیں۔

### راجہ شیر سنگھ

شیر سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دوسرا بیٹا تھا جو اپنی سجادہ مہارانی جنڈاں سے کش کش  
کے بعد گدی پر بیٹھ گیا۔ مہارانی جنڈاں کے حامیوں میں راجہ گلاب سنگھ، راجہ ہیرا سنگھ اور  
سندھانوالیہ کے سردار تھے، مہارانی جنڈاں اور مہاراجہ شیر سنگھ کی فوجوں کے مابین لاہور میں  
گھمسان کارن پڑا، شیر سنگھ کے فوجیوں نے دہلی دروازہ اور کی دروازہ سے لاہور قلعہ تک جو  
دکان یا مکان نظر پڑا لوٹ لیا۔ چھتہ بازار کو آگ لگا دی، حضور ی باغ کے چاروں طرف

سمت جھڑپیں ہوئیں۔ شیرنگھ کی سپاہ نے پاؤں اکھڑتے دیکھے تو ہزار بارہ سو کے قریب  
 طوائفوں کو شہر سے پکڑ لائے اور توپوں کے دھانے پر رسیوں سے باندھ کر کھڑا کر دیا تاکہ اس  
 فیصل کے عقب میں اپنے آپ کو چھپالیں۔ شاہی مسجد کے چاروں میناروں پر گولہ باری  
 کے لئے توپیں رکھ دیں۔ تمام مسجد کو فوج کی رسد گاہ بنا لیا۔ ادھر قلعہ کے محصورین نے فیصلہ  
 کیا کہ مسجد کو بارود سے اڑا دیں لیکن اس ڈر سے مبادا آگ قلعہ کو لپیٹے وہ ہرگ گئے اس  
 محاصرہ میں لاہور کی نصف دوکانیں برباد ہو گئیں، جس مکان میں شہتیریاں اور بلیاں نظر آئیں  
 اکھاڑ لی گئیں۔ آخر جانین میں صلح ہو گئی۔ جو لوگ اس معرکے میں کام آئے ان کی لاشیں بے شمار  
 زخمیوں کے ساتھ جلادی گئیں۔ عام مجروحین نے داویلا کیا تو انہیں یہ کہہ کر آگ کے لادکی  
 جینٹ کر دیا گیا کہ موت سے کیوں ڈرتے ہو آخر مرنا ہی ہے۔

قدرت کا انتقام ملاحظہ ہو کہ یہی شیرنگھ جس کی کمانڈ میں حضرت سید احمد شہید کا سرتن سے  
 جدا کیا گیا تھا سندھانوالیہ کے سردار اجیت سنگھ کی بدوق کا نشانہ ہو گیا اور اس کا سر فوراً ہی  
 دھڑ سے جدا کر دیا گیا۔ اس کی خاکستر تک نہ رہی لیکن بالاکوٹ کا مشہد آج بھی لاکھوں انسانوں کی  
 جلوہ گاہ ارادت ہے۔

۱۸۵۷ء کا سانحہ

جنرل نکسن نے ۴۶ فیٹو انفنٹری سیکورٹی کے سپاہیوں کو جس بے دردی سے قتل کیا  
 وہ ایک ایزہ خیز داستان ہے، مگر لیٹن نے ان کی قتل گاہ ترمیو گھاٹ بتائی ہے جو صحیح نہیں، ان  
 سپاہیوں کو رومی کے کنارے قتل کیا گیا اور جو ہندوستانی سپاہی ان کے قتل پر مقرر کئے گئے وہ دلجو  
 ایک بانٹی کو باری باری سے گولی کا نشانہ بناتے رہے، ان میں سے بیشتر اس ہوش ربا  
 نظارے کی تاب نہ لاکر بے ہوش ہو گئے۔ جنرل نکسن کے مظالم اتنے بہیمانہ تھے کہ اکثر انگریز  
 مورخوں اور وقائع نگاروں نے ان کو انگریز قوم کے ہاتھ پر کلک کا ٹیکہ قرار دیا۔  
 لارڈ آفسٹن نے کہا تھا:

”ہماری فوجوں کے مظالم کا تذکرہ رورج میں کپکپی پیدا کر دیتا ہے، جہاں تک ٹوٹ مار کا تعلق ہے ہم نادر شاہ ایرانی سے بھی بازی لے گئے ہیں۔“

اسی جنرل نکلن نے میرزا غلام احمد کے والد ماجد کو سندھ عطا کی تھی کہ قادیان ضلع گوداسپور کے خاندانوں میں ان کا خاندان سب سے زیادہ نمک حلال رہا ہے۔

ہر پاکستانی اور ہندوستانی، ۱۸۵۷ء کے دل خراش حوادث اور جاگدازہ واقعے سے کماحقہ واقف ہے۔ اب تو غیر انگریز نہیں رہا اور تاریخ کا گرد و غبار بھی لبرعت تمام دھل گیا ہے لیکن، ۱۸۵۷ء کے لرزہ خیز حالات خود انگریزوں کے عہد میں سامنے آگئے تھے اس بارے میں بربادی عامہ کی جزئیات تک محفوظ ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ ۱۸۵۷ء کا خمیازہ تمام ہندوستانیوں کو جگمگا پڑا۔ گو مسلمانوں کے دوش بدوش ہندو بھی لڑے تھے لیکن جو مصائب مسلمانوں پر ٹوٹے اس کے ماتم سے تاریخ انسانی کبھی فارغ نہ ہوگی۔ ان لاکھوں مسلمانوں کو جو بہمہ وجوہ نصاریٰ کی اطاعت کے خلاف تھے اور جن کے رگ و ریشہ میں راست باز علما نے اپنی ساعی پیہم سے جوش جہاد بھردیا تھا وہ ایک ایک کر کے غم کئے گئے، لارڈ رابرٹس کے نزدیک اس کام کا ایک مقصد تھا کہ:

”ان بد معاش مسلمانوں کو تباہ یا جانے کہ خدا کے حکم سے صرف انگریز ہی ہندوستان میں حکومت کریں گے“

چنانچہ باغیوں کی اس عجز تناک سرکوبی پر لارنس نے اپنی والدہ کو ایک خط میں اظہارِ مرست کرتے ہوئے لکھا:

”ہم پشاور سے جہلم پیدل پہنچے اور راستہ میں کچھ کام بھی کرتے چلے آئے، باغیوں سے اسلحہ چھینا، ان کو سپانسیوں پر شکایا اور توپ سے باندھ کر اڑا دینے کا جو طریقہ ہم نے استعمال کیا اس سے لوگوں کے دل پر ہماری ہیبت بیٹھ گئی۔ ہر چاؤنی میں اسی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے۔“



ایک پادری کی بیوہ رقمطراز ہے۔

” بہت سے قیدیوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ وہ موت کی کوئی خاص پروا نہیں کرتے تو بقیۃ السیف کو توپوں سے باندھ کر اڑایا گیا۔“

میرزا صاحب کے خاندانی ممدوح جنرل نکسن نے مسٹرا ڈورڈ کو ایک خط میں لکھا:

” ہمیں ایک ایسا قانون پاس کرنا چاہیے جس کی رو سے ہم انگریز عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کو زندہ جلا سکیں یا ان کی کھالیں اتار لیں یا گرم سلاخوں سے مدارات کریں۔ پھانسی ایک معمولی سزا ہے۔“

سر ہنری کاٹن کی یادداشتوں میں درج ہے کہ:

” میں نے اپنے سکھ اردلی کی خواہش پر ان بد بخت مسلمانوں کو عالم نزع میں دیکھا جنہیں شکلیں کس کے زمین پر برہنہ بدن لٹا دیا گیا اور ان کے تمام جسم پر گرم تانبے کی سلاخیں داغ دی گئی تھیں۔ میں نے انہیں پستول سے ختم کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ بد نصیب قیدیوں کے پلٹے ہوئے گوشت سے مکروہ بدبو نکل کر آس پاس کی فضا کو مسموم بنا رہی تھی۔“

مسٹر ڈمی لین ایڈیٹر ٹائمز آف انڈیا کا اقتباس ذیل — رسل کی ڈاٹری کے صفحہ ۴۳ (مطبوعہ مئی ۱۸۵۸ء) سے ماخوذ ہے:

” زندہ مسلمانوں کو سوز کی کھال میں سینا یا پھانسی دینے سے پہلے ان کے جسم پر سوز کی چربی لٹایا زندہ آگ میں جلانا اور انہیں مجبور کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی کریں۔“

نینیا عیسائیت کے نام پر ایک بدنامہ صیہ ہے:

نکسن کا ان دنوں ایک ہی نعرہ تھا، پھانسی پر لے چلو۔ چنانچہ مجنڈی لکھتا ہے کہ:

” وہ رات ہم نے جامع مسجد پر پہرہ دیتے ہوئے بسر کی، ہمارا زیادہ وقت ان قیدیوں کو گولی مارنے یا پھانسی دینے میں گزرا، جن کو ہم نے صبح کے وقت گرفتار کیا تھا لیکن ان کے چہروں سے شجاعت اور ضبط کے آثار مٹنے سے جو کسی بڑے مقصد پر جان دینے

کی علامتیں تھیں“

جنرل نیل کا حکم تھا:

”فتح پور کے قصبے کو حراست میں لے کر تمام آبادی کو تہ تیغ کر دو اور سرخوؤں کے سر عمارتوں پر لٹکا دو“  
وہ لکھتا ہے:

”ہم چنانسی دیتے وقت عام طور پر آم کے درخت اور ہاتھی کو استعمال کرتے تھے۔ یعنی بلزم کو ہاتھی پر بٹھا کر درخت کے نیچے لے جاتے اور پھر سے رستی ڈال کر ہاتھی کو بٹھا کر دیا جاتا بلزم ٹھک کر تڑپنے لگتا اور جاگنے کے وقت انگریزی کے ہنڈ سے 8 کی دلچسپ شکل بن کر رہ جاتا“

• عورتوں نے عصمت دری کے خوف سے خودکشیاں کر لیں۔

• مردہ سپاہیوں کی لاشوں کو بھی درختوں پر لٹکا دیا گیا۔

دہلی اور لکھنؤ کے شاہی خاندانوں پر جو بیتی وہ ایک مستقل غرینیں باب ہے، دہلی کا حال تو یہ تھا کہ جس شخص کے چہرے پر داڑھی نظر آتی یا کسی کے پاجامہ کا پانچ اونچا معلوم ہوتا وہ تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا۔

اور اس سارے غرینیں تماشے کا بہایت کار کون تھا، بر قول مسٹر ایڈورڈ ٹامسن لپیہ قد

نکسن جن نے میرزا غلام احمد اور سردار سکندر حیات کے اسلاف کو نیک حلال کی سببیں عطا کی تھیں۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ احرار نے اول الذکر کی نبوت کے خلاف دینی محاذ قائم کیا اور مؤخر الذکر کی وزارت کے خلاف سیاسی محاذ، آج دونوں کی بدولت انہیں بے شمار قوتوں کا ہدف بنا پڑا حتیٰ کہ تحقیقاتی عدالت کی سنگدلانہ رپورٹ (مصنف جسٹس محمد منیر) میں ان

کا گرفت چڑا ہے پر لٹکا دیا گیا۔ صدر کے حادثوں اور سانحوں پر W. H. Fitchett

کی کتاب Tale of the great Munity سے بہتر تبصرہ ناممکن ہے، وہ ایک پادری

کو روایت سے لکھتا ہے:

”ایک دفعہ اس نے عیسائی مبلغوں کی ایک جماعت سے کہا کہ وہ غدر پر جواب مضمون لکھیں۔ لیکن ہر طالب علم نے کچھ لکھے بغیر خالی کاغذ واپس کر دیئے جس کا مطلب خاموش متفقہ اور ناقابل عفو انکار تھا۔“

### ٹیلپو سے ظفر تک

القصد سلطان ٹیلپو کی شہادت (۱۶۹۹ء) سے جس المیہ کا آغاز ہوا تھا وہ ایک اٹھارہ برس کی مدت میں بہادر شاہ ظفر کی جلا وطنی (۱۸۵۷ء) پر ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ سلطان ٹیلپو کی شہادت پر بہت سی تاریخیں کہی گئیں جن میں شمشیر گم شدہ ”تلوار گم ہو گئی، الہامی ہے، آخر ۱۸۵۷ء میں قطع پید ہو گیا۔ اب مسلمان سارے ہندوستان میں جسمانی طور پر مغلوب تھے اور صرف دماغوں کا قتل عمد باقی تھا۔ اس خاکستر میں جو چنگاریاں رہ گئی تھیں اور جنہیں حضرت سید احمد شہیدؒ کے باقیات الصالحات کہنا صحیح ہو گا وہ اپنے ماضی کے پشتیبان تھے۔ حضرت سید احمد کا جہاد صرف سکھوں ہی کے خلاف نہ تھا بلکہ اس کا اصل نشانہ انگریز تھے، گوالیار کے فرزانہ اور دولت راول سندھیہ کے برادر نسبتی ہندو راول گھوٹکے کے نام سید احمد ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

”وہ غیر جن کا وطن بہت دور ہے بادشاہ بن گئے جو تاجر سامان بیچ رہے تھے انہوں نے سلطنت قائم کر لی۔“

اور ان کے بارے میں ان کا عزم کیا تھا۔ شاہ محمود درانی والی بہرات کے فرزند شہزادہ کامران کو لکھتے ہیں:

”پھر میں مجاہدین کو لے کر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوں گا، مرا اصل مقصد ہندوستان

لے غدر کے متعلق مذکور بالا حوالے انقلاب ۱۸۵۷ء کی تصویر کا دوسرا رخ ہے ماخوذ ہیں

پر جہاد ہے۔

مومن خان مومن کے ایک نعتیہ تصنیف کے دعائیہ اشعار سے بھی اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت سید احمد شہید کے نزدیک جہاد کی علی التواتر تلمیق و نزغیب کا مقصد ہندوستان سے انگریزوں کا اخراج تھا۔

(ملاحظہ ہو جماعت مجاہدین مسند غلام رسول مہر صفر ۱۱۶ تا ۱۱۷)

مونا غلام رسول مہر کی تحقیق کے مطابق حضرت سید احمد شہید کے جہاد کا رخ انگریزوں سے سٹائیکوں کی عافیت پھیلنے والے سرسید احمد خان ہیں۔

دیکھو سیرت سید احمد شہید صفر ۲۵۲ عنوان افسانہ طرازیوں،

## جہاد کا خوف

انگریزوں نے ہندوستان توفیق کر لیا لیکن مسلمانوں کے دل و دماغ میں جہاد کا جو عقیدہ راسخ تھا وہ اس کی مالی روج سے عاقل نہ تھے، اور اس کا تجربہ انہیں مسلمان ملکوں میں خصوصیت سے ہو رہا تھا بلکہ صلیبی جنگوں کا ایک پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ لائیڈ جارج نے گو بہت بعد میں کہا لیکن انگریزوں کے تحت اشعور میں یہ خیال ہمیشہ جاگزیں رہا کہ قرآن ہمارے راستے کی بہت بڑی روک ہے۔

اپنی اس کھلی ہار (۱۸۵۷ء) کے بعد علماء نے پینڈا بدل اور زور دینا شروع کیا کہ ہندوستان دارالسلام سے دارالحرب ہو گیا ہے۔ اس ذہنی صفت بندی کی ایک گونہ تفصیلات ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کی تصنیف ہمارے ہندوستانی مسلمان سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں ان علمائے کرام کے فتاویٰ بھی درج ہیں جو جسمانی امن کے بعد انگریزی حکومت کے پرستاروں اور گانگوتوں کی معرفت حاصل کئے گئے۔ مثلاً شمالی ہند کے ویرام پوری اور سات مکھنوی علماء کا فتویٰ جو سید امیر حسین شاہ اسٹنٹ کشر بھگل پور کے استفتاء پر جاری کیا گیا اس پر ۷ ارجو لائی، ۸۷ کی تاریخ ثبت ہے ہندوستان میں جہاد جائز ہے

یا نہیں؟ کا جواب دیتے ہیں: ان علمائے کرام کا ارشاد ہے کہ:

”مسلمان رعایا کے پاس نہ اپنے حاکموں کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہے نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، پر خلافت اس کے اگر لڑانی شروع کر دی جائے تو شکست ناگزیر ہے جس سے اسلام کی عورت کو نقصان پہنچے گا۔ لہذا جہاد واجب نہیں۔ ضروری ہے کہ جہاد کیا جائے تو اس میں مسلمانوں کی فتح اور اسلام کی برتری کا قیاس غالب ہو اگر اس قسم کے قیاس کا امکان نہ ہو تو جہاد ناجائز ہے“

اسی کتاب میں ایک اور فتویٰ محمد بن سوساطی کلکتہ کی طرف سے مرقوم ہے جس میں جہاد کو بغاوت سے تعبیر کیا گیا اور مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ بغاوت کی صورت میں اپنے حاکموں کا ساتھ دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جماعت مجاہدین کا قافلہ شمال مغربی سرحدی علاقوں میں سرگرم تھا اور انگریزوں نے ان پر لگاتار چڑھائیاں کر رکھی تھیں — اس جذبے کو مدہم کرنے کے لئے جمال دین ابن عبداللہ، شیخ عمر، حنفی مفتی مکہ معظمہ، احمد بن ذہبی شافعی مفتی مکہ معظمہ اور حسین بن ابراہیم مالکی مفتی مکہ معظمہ سے اس مطلب کے فتوے حاصل کئے گئے کہ ہندوستان دارالسلام ہے۔

### علماء کے خلاف مقدمات

انگریزوں نے جنگ اہلبیلہ (سرحد) ۱۸۶۳ء کے بعد ان مجاہدین و معاونین پر ہاتھ صاف کرنا شروع کئے جو ہندوستان کو دارالحرب کہتے اور جہاد و غزوات کے علمبردار تھے، ایک پٹھان غزن خان کی مجزی پر مجاہدین کے تمام مددگار پکڑے گئے اور مندرجہ تحت پانچ مقدمہ ہائے سازش کی بنا رکھی گئی۔

۱۔ مقدمہ سازش اہلبالہ (۱۸۶۴ء) میں گیارہ ملزم تھے، مولانا یحییٰ علی صاوق پوری ان کے امیر تھے یہ قول راونشا مولانا کو ”امیر الواعظین“ کا خطاب حاصل تھا۔ سربراہ برٹ نے انہیں سزائے موت سناتے ہوئے فیصلہ میں لکھا۔

”یہ شخص اسلام کے قابل نفرت اعدوں (جہاد وغیرہ) کی اشاعت کرتا رہا اور اپنی سازشوں سے برطانوی ہند کو ایک خطرناک سرحدی جنگ میں دھکیل دیا، اس کا تعلق ایک موروثی باغی جہادی خاندان سے ہے۔“

مولانا یحییٰ علی کی سزائے موت اس دلیل سے عمر قید بہ عبور دریا سے شور میں بدل دی گئی کہ ڈپٹی کمشنر پھانسی گھر پہنچا اور چیف کورٹ کا حکم پڑھ کر سنایا کہ تم لوگ پھانسی پانے کو بہت دوست رکھتے اور شہادت سمجھتے ہو لہذا سرکار تمہاری چہیتی سزائے موت کو نہیں دے گی تمہاری سزائے موت عمر قید میں بدل دی گئی ہے۔ مولانا کی داڑھی کے بال بے جبر کتر دیئے گئے تو آپ کتر سے ہوتے بالوں کو اٹھا اٹھا کر کہتے، افسوس نہ کر، تو اللہ کی راہ میں پکڑی گئی اس واسطے کتری گئی اور مجھ سے بازی لے گئی۔ (تواریخ عجیب صفحہ ۴۴)

ان کے علاوہ مولانا عبدالرحیم صاد پوری اور میاں عبد الغفار کو بھی عمر قید کی سزائیں دی گئیں۔ دونوں نے ۲۸، ۲۸ برس جزیرہ انڈیمان میں بسر کئے، ان میں قاضی میاں جان جیل ہی میں وفات پا گئے۔

۲۔ مقدمہ سازش پٹنہ (۱۸۶۵ء) میں سید صاحب کے خلیفہ مولانا احمد اللہ صاد پوری کو موت کی سزا دی گئی جو عمر قید میں تبدیل ہو گئی لیکن کاسے پانی ہی میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔

۳۔ مقدمہ سازش راجہ محل (۱۸۶۰ء) ابراہیم منڈل کو عمر قید بہ عبور دریا سے شور کے علاوہ صبیطی جائیداد کی سزا دی گئی۔

۴۔ مقدمہ سازش مالوہ (۱۸۶۰ء) مولوی امیر الدین کے خلاف الزام یہ تھا کہ روپیہ اور آدمی سرحد کو بھیجتے تھے، عمر قید کی سزا پائی۔

لے ان تفصیلات کیلئے دیکھو ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک“ مؤلفہ مسعود عالم ندوی صفحہ ۱۰۶ تا ۱۸۱۔

۵۔ مقدمہ سازش پٹنہ ۱۶۱۸ء کے سات ملزم تھے۔ جج نے ایک کروڑ پتی ملزم امیر خان کی بابت لکھا کہ یہ بہت دشوار معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جہاد سے ثابت کیا جائے۔ وہ فیاض ضرور ہے، جہاد ہی نہیں لیکن امیر خان سمیت پانچ ملزموں کو اس مقدمہ میں جس دوام پر عبور دیا سائے شور کی سزائی۔

ان پانچ مقدمات سازش کے علاوہ ۱۸۴۹ء سے لے کر ۱۸۶۱ء تک بے شمار لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے۔ تفصیلات زیر نظر کتاب کا حصہ نہیں فی الجملہ ۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان اپنی تمام وسعتوں کے باوجود مسلمانوں کے لئے خرابہ ہوا۔ انگریزوں نے پنجاب فتح کرنے کے بعد سر لوڈ کوشش کی کہ قبائلی علاقے کو مطیع و منقاد بنالیں اور افغانستان پر قبضہ جمائیں۔ اس غرض سے ان کی پالیسی یہ تھی کہ جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کر لیں لیکن ہیل سنڈھے نہ چڑھی۔ کرنل نے اس پالیسی کو بدل ڈالا، قبائلی خوانین کے وظیفے مقرر کئے، افغان ملیشیا قائم کیا اور آخر کار پنجاب کے سرحدی اضلاع کو الگ کر کے ۱۹۰۱ء میں شمال مغربی سرحدی صوبے کی بنا ڈالی۔

اس سے پہلے ۱۸۹۲ء میں سر مارٹین ڈیورینڈ کی معرفت افغانستان اور ہندوستان کی جنوبی اور مشرقی سرحد طے پا چکی تھی جس کا نام ڈیورینڈ لائن رکھا گیا۔ الغرض بیسویں صدی کے آغاز تک مسلمانوں میں جہاد کا ذہن اتنا قوی تھا کہ انگریز اپنے لاؤشکر سمیت حملہ پر حملہ کرتے رہے لیکن انہیں حسرت رہی کہ مسلمانوں کو صحیح طور پر کچل نہ سکے۔ بعض سرکاری خطوط سے اس حسرت کا سراغ ملتا ہے مثلاً۔

”پنجاب گورنمنٹ کو افسوس رہا کہ یہ ہم ختم ہو گئی لیکن ہندوستان کے مذہبی مجبوز نکالے نہ جاسکے اور نہ ہم انہیں مطیع کر کے ان کے گھروں میں واپس لاسکے۔“

(مسلمانان ہند، ڈاکٹر ہنتر صفحہ ۴۲)

یا پھر سٹریسی بیلی سیکر ڈی گورنمنٹ آف انڈیا کے الفاظ میں:

”مسلمانوں کی مذہبی دیوانگی، جس کے لئے قرآن سے کافی سند مل سکتی ہے۔ بہت بھرپور دہی گئی ہے۔ اندیشہ ہے کہ عامۃ المسلمین بہت جلد باغی ہو جائیں گے جن میں ناراض مذہبی دیوانے اور تنگ نظر علماء بھی شامل ہوں گے جو حکومت سے ناجائز طور پر ناراض ہیں اور جاہل مسلمانوں پر بے حد اثر رکھتے ہیں۔“

(مسلمانان ہند۔ ہنر صفحہ ۱۵۱)

ڈاکٹر ہنر نے مزید لکھا۔

”سب سے پہلے شمالی ہندوستان کے مسلمان علماء نے حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا اس کے بعد مسلمانان بنگال نے اسی مضمون پر ایک رسالہ جاری کیا اور ظیم جو تعداد میں تقوڑ سے ہیں وہ بھی اپنے خیالات کی اشاعت سے مرگ نہ سکے۔“

(مسلمانان ہند۔ صفحہ ۱۸)

## علی گڑھ کی تحریک

دوسری طرف انگریزوں نے علی گڑھ کی تحریک کو فنیت سمجھا۔ فروری ۱۸۷۳ء میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی گئی، کالج کے بانی سر سید احمد خان (علیہ الرحمۃ) پر پیش آمدہ حالات کی سنگینی کا ایک خاص اثر تھا اور وہ مسلمانوں کو ان کی گرتی ہوئی دیوار سے سہانا چاہتے تھے چنانچہ تعلیمی مذہبی اور اصلاحی تحریکوں کا ایک سرچشمہ چھوٹنے لگا۔ جہاں تک قرآن مجید کی جدید تفسیروں اور اسلام سے عیسائیت کے اختلافات کی فروعی بحثوں کا تعلق تھا ان کا فائدہ ارادی طور پر نہ سہی غیر ارادی طور پر انگریزوں ہی کو پہنچا۔ کیونکہ اصل مقصد مسلمانوں کے فکر و نظر میں سوچ بچ کی تبدیلیاں لانا اور ان میں دو ایسی جماعتیں تیار کرنا تھا جو نہ صرف باہم گمراہی اختلافات کا شکار ہوں بلکہ ان کے الجھاؤ سے مسلمانوں کی مذہبی وحدت میں دراڑ واقع ہو۔ چنانچہ ان حصوں میں جہاں ۱۸۷۳ء کے حالات کا بلاواسطہ اثر تھا اور انگریزوں کے خلاف جذبات شدت پر تھے ایک خاص کوشش سے اصول مفسد اور فروع مفاسد کی بنیادیں قائم کی گئیں۔



ابراہیم بن العزری عند بیتی نے ان تین جملوں میں ان مفاسد کی تعریف بیان کی ہے تاویل الجاہلین  
و تحریف الغافلین و انتحال المطلبین۔

سرولیم میور یوپی کا گورنر تھا۔ اسی نے علی گڑھ کالج کی پہلی عمارت ایم اے او سکول کا  
سنگ بنیاد رکھا۔ اس کو مسلمانوں سے اس قدر عناد تھا کہ آج تک اسلام اور بانی اسلام کے  
خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے بدتر کتاب اسی بد بخت کی ہے۔ اس کی کتاب کا  
خلاصہ اسی کے الفاظ میں یہ ہے کہ انسانیت کے دو سب سے بڑے دشمن محمدؐ کی تلوار اور  
محمدؐ کا قرآن ہیں (خود باللہ)

دیکھو موج کوثر مصنفہ شیخ محمد اکرام صفحہ ۱۶۳

جن لوگوں نے حوادث کے اس زمانے میں فسخ جہاد کی تاویلوں کے علاوہ اطیعوا اللہ  
و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں اولی الامر کا مصداق انگریزوں کو ٹھہرایا ان میں مشہور  
انشا پرداز ڈپٹی نذیر احمد کا نام بھی ہے جو ایک شیوا بیان مقرر ہونے کے علاوہ مایہ ناز ادیب  
اور بلند پایہ مصنف بھی تھے انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے میں انگریزوں کو پہلی دفعہ اولوالا  
قرار دیا اور ان کی اطاعت کو اللہ اور رسول کی اطاعت سے مستلزم، اپنے اس ترجمہ کی  
کاپی سرولیم میور کو انگلستان بھجوانی تو اس کی سفارش سے شمس العلماء کا خطاب پایا اور اسی ترجمہ  
پر ایڈیٹر البریونیورسٹی نے ایل ایل ڈی کی ڈگری عطا کی۔

دیکھو داستان تاریخ اردو مصنفہ حامد حسین قادری صفحہ ۶۹۸

پنجاب میں تاویل الجاہلین و تحریف الغافلین و انتحال المطلبین کے صحیح مظہر  
میرزا غلام احمد ثابت ہوئے۔ میرزا صاحب نے اپنے والد میرزا غلام مرتضیٰ کی وفات (۱۸۷۶ء)  
کے عرصہ بعد ۱۸۹۱ء میں مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرزا صاحب پہلے ٹرپٹی کشن  
سیالکوٹ کی عدالت میں اہل کار تھے۔ وہاں سے الگ ہو کر تین جہاد کی تلقین و ترغیب کا دھندا  
حشر و ع کیا اور انگریزوں کی غلامی کا مذہبی جواز پیدا کرنے لگے۔ اس جواز کی بنیاد الہامات پر رکھی

اور وہ تمام خصوصیتیں جو اسلام، اعتماد است کا طرہ امتیاز تھیں اپنی ذات میں مرکب کرنا شروع  
کیں۔ ان کے ان عجیب و غریب دعاوی اور افغانی علاقے میں جہاد وغیرہ کا زنازہ ایک ہی ہے۔  
نتیجہ یہ نکلا کہ اُدھر دہلی سے کلکتہ تک کا علاقہ تو دیوبند اور علی گڑھ کے ذہنی تصادمات میں مبتلا تھا۔  
دہلی سے اٹک ادھر تک کے علاقہ میں ایک نیا مسلہ پیدا ہو گیا۔ ظلی اور بروزی نبوت۔  
علماء و مشائخ نے جہاد کے ساتھ نبوت جاتے دیکھی تو اس فتنے کی سرکوبی میں لگ گئے۔  
جن سے انگریزی حکومت کو فوری فائدہ یہ پہنچا کہ اسلام کا جو خطرہ اسے درپیش تھا وہ  
اس مسلہ کی نذر ہو گیا۔

میرزا صاحب نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی عیسائی مشنریوں سے مناظرے  
کئے، بعض ماڈرن لوگوں نے ان مناظروں کو میرزا صاحب کی اسلامی خدمات پر محمول کیا اور  
غیر شعوری طور پر اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ میرزا صاحب کی نبوت میں انگریزی حکومت کا  
بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی ہاتھ نہیں۔ حالانکہ اس بارے میں ایک بات بالکل صاف تھی کہ جو انگریز  
اس کوشش میں تھے کہ محمد اور قرآن کو مسلمانوں کے سینے سے خارج کر دیں وہ کسی ایسے  
آدمی کو کیوں کہ برداشت کر سکتے تھے جو نبوت کا مدعی ہو، اسلام کی تجدید چاہے اور اچھے دین  
کا داعی بنے پھر ایسے صوبے میں جو جماعت مجاہدین کی پناہ گاہوں کے وہانے پر واقع  
تھا اور جس کے سرحدی صوبے میں لڑائیوں یا جھڑپوں کا غیر مختتم سلسلہ جاری تھا۔  
میرزا صاحب نے عیسائی مشنریوں سے جو مجاہد لے کئے ملکہ ٹوریہ کے نام اپنے  
ایک خط میں لکھتے ہیں کہ یہ مناظرے یا مجاہدے صرف اس لئے کرتا ہوں کہ :

متنیغ جہاد کے متعلق میں نے جو ان تک سماعی سرانجام دی ہیں اور برطانیہ کی  
وفاداری کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے مسلمانوں کو جس تسلسل سے رام کیا ہے اس کے پیش نظر  
انہیں یہ شبہ نہ رہے کہ سرحد کی طرف سے اس کام پر بانورہوں۔ مشنریوں سے مناظرہ کرتا ہوں  
تو مسلمانوں میں متنغ جہاد کا اعتبار پیدا ہوتا ہے۔

## اپنی کہانی اپنی زبانی

اس طویل پس منظر کے بعد میرزا ایست کی حقیقی غایت خود بخود اظہار آتی ہے۔ اب ذرا یہ کہانی کسی دوسرے کی زبانی نہیں بلکہ خود مسیح موعود اور مہدی موعود کی زبان الہام ترجمان سے سماعت فرمائیے۔

۱- ”ہمارا جہاں نثار خاندان سرکار دولت مدار کا خود کاشتہ پودا ہے، ہم نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنا خرقہ بہانے اور جان دینے سے کبھی دریغ نہیں کیا“ (لیکن اللہ کی راہ میں جہاد حرام ہے، مؤلف)

(تلخیص از درخوست، مسطور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر منجانب خاکسار غلام احمد ۲۴ فروری ۱۹۱۸ء مندرجہ تبلیغ رسالت جلد ہفتم مؤلف میر قاسم علی صاحب)

۲- ”غرض یہ ایک ایسی جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک پروردہ، نیک نامی حاصل کردہ اور مورد مراحم گورنمنٹ ہے۔“

(درخواست مذکور)

۳- ”مسیح موعود فرماتے ہیں میں مہدی ہوں اور برطانوی حکومت میری تلوار! پھیر ہمیں احمدیوں کی فتح بغداد سے کیوں خوشی نہ ہو، عراق، عرب ہو یا شام ہو ہم ہر جگہ اپنی تلوار کی چمک دیکھنا چاہتے ہیں۔“

(اخبار الفضل جلد ۶ نمبر ۲۲ مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۱۸ء)

۵- بعض اہم سوال کیا کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ سو یاد رہے کہ ان کا سوال نہایت حماقت کا ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی ایک بدکار اور حرامی آدمی کا کام ہے۔“

(شہادت القرآن مصنف میرزا غلام احمد کاتمہ منقول از افضل جلد ۲)

(مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۳۹ء)

۶۔ ہمارے سر پر سلطنت برطانیہ کے بہت احسان ہیں، وہ مسلمان سخت جاہل، سخت نادان اور سخت نالائق ہے جو اس گورنمنٹ سے کیس نہ رکھے اگر ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو پھر خدا تعالیٰ کے بھی ناشکر گزار ہوں گے۔ اس سے زیادہ بے ایمان شخص کون ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا مسیح تو کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو انگریزوں کی کامیابی کے لئے دعا کرنی چاہیے اور یہ کہتا ہے کہ دُعا کی کیا ضرورت ہے، انگریزوں کو شکست ہو تو زیادہ بہتر ہے۔“

والفضل مورخہ ۵ جون ۱۹۴۰ء میاں محمود احمد کا خطبہ

۷۔ ”حضرت مسیح موعود نے اپنی پاک تعلیم میں گورنمنٹ عالیہ کی اطاعت اور وفاداری کو جزو مذہب قرار دے کر ہمیں ان منافق طبع مسلمانوں سے علیمدہ کر دیا جو ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ خونِ مہدی ایک جوازِ شکر لے کر آبدار تلواروں اور سیاہ سرخ پرچموں کے ساتھ کہیں ظاہر ہوگا اور سب عیسائی سلطنتوں کو مٹا کر ان نام کے مسلمانوں کو حکمران بنا دینگا۔“

والفضل جلد ۴ نمبر ۸۶ مورخہ یکم مئی ۱۹۱۱ء

۸۔ ”میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے کیونکہ مجھ کو مسیح اور مہدی جان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار ہے۔“

(اشتہار میرزا صاحب مندرجہ تبلیغ رسالت جلد ہفتم)

۹۔ ”میں سولہ برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانیہ فرض ہے اور جہاد حرام ہے۔“

(اشتہار مورخہ ۱ دسمبر ۱۸۹۴ء مندرجہ تبلیغ رسالت جلد سوم صفحہ ۱۳۰)

۱۰۔ ”میں نے ۲۲ برس سے اپنے ذمے یہ فرض کر رکھا ہے کہ وہ تمام کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو اسلامی ملکوں میں منور بھیج دیا کروں گا۔“

(تبلیغ رسالت جلد دہم صفحہ ۲۶)

۱۱۔ ”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزارا ہے اور

میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے غیر خواہ ہو جائیں اور مہدی غوثی اور مسیح غوثی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ میں اس سلطنت کا بدخواہ ہوتا یا کوئی ناجائز باغیانہ منصوبے اپنی جماعت میں پھیلاتا جب کہ میں بیس برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا۔ اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا تو کیونکر ممکن تھا کہ ان تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے کی میں تعلیم کروں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں اور نہ سلطنت روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ میں۔ پھر میں خود اپنے آرام کا دشمن بنوں؟ اگر اس سلطنت کے بارے میں کوئی باغیانہ منصوبہ دل میں مخفی رکھوں اور جو لوگ مسلمانوں میں سے ایسے بد خیال جہاد اور بغاوت کے دلوں میں مخفی رکھتے ہیں میں ان کو سخت نادم، بد قسمت اور ظالم سمجھتا ہوں کیونکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سایہ سے پیدا ہوئی ہے، تم چاہو دل میں مجھے کچھ کہو، گالیاں نکالو یا پہلے کی طرح کافر کافر توئی لکھو مگر میرا اصول یہی ہے کہ ایسی سلطنت سے دل میں بغاوت کے خیالات رکھنا یا ایسے خیال جن سے بغاوت کا احتمال ہو سکے سخت بد ذاقی اور خدا تعالیٰ کا گناہ ہے۔

(منقول تریاق القلوب مصنف میرزا غلام احمد مطبوعہ میک ڈلوپو قادیان ۱۹۲۲ء صفحہ ۲۸-۲۷)

۱۲ میں نے قرین مصلحت سمجھ کر مخالفت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلائے کے لیے

عربی اور فارسی کتابیں تالیف کیں اور وہ تمام کتابیں عرب، شام، روم، مصر اور بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئیں میں یقین کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہوگا۔

دغلام احمد از تبلیغ رسالت جلد ۸ صفحہ ۶۲

۱۳۔ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، ایک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو جلالی تھا دوسرا احمد جو جمالی تھا چونکہ فرقہ احمدیہ نام رکھنے میں اصل عزم اس امر کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ زمانہ جہاد اور غوریزی کا نہیں اس لئے احمدیہ نام اختیار کیا گیا“

دغلیص از سلسلہ احمدیہ کے مختصر حالات اور عقائد“ از ریویلو آف ریلیجینز۔۔۔ بحوالہ افسر مردم شماری بمبئی صفحہ ۱۵۱ مئی ۱۹۰۶ء

۱۴۔ ”مجھے تین باتوں نے گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی میں اول درجہ پر بنا دیا ہے۔

① والد مرحوم کے اترنے۔

② اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے

③ خدا تعالیٰ کے الہام نے۔

(تربیاق القلوب صفحہ ۳۱۰ - ۳۰۹)

۱۵۔ ”میرے پانچ اسول ہیں، جن میں دو حرمت جہاد اور اطاعت برطانیہ بھی ہیں۔

(دغلیص از تبلیغ رسالت صفحہ ۱۰۷)

۱۶۔ ”یہ عاجز گورنمنٹ کے اس قدیم خاندان میں سے ہے جس کی خیر خواہی کا گورنمنٹ کے

عالی مرتبت حکام نے اعتراف کیا اور اپنی چھٹیوں سے گواہی دی ہے۔۔۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ گورنمنٹ محنت کے ناشکر گزار نہ بنیں اور نمک حرامی سے خدا کے گنہگار نہ ٹھہریں کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمارے مال و خون کی محافظ ہے“

۱۷۔ ”مجھے عیسائی رسالہ ”نور افشاں“ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت توہین آمیز الفاظ

پڑھ کر اندیشہ ہوا مبادا مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا

کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہوتا ہے میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اپنی صحیح اور پاک نیت سے مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لئے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تاکہ سریع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں بد امنی پیدا نہ ہو۔ میرے کانشنس نے مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کیلئے یہ طریق کافی ہوگا۔

”مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا۔“

دو ریاضہ خاکسار بھنور گورنمنٹ عالیہ میرزا غلام احمد از قادیان، المرقوم، ۲۴ ستمبر ۱۸۹۹ء  
مذربہ تریاق القلوب صفحہ ۳۰۶

۱۸۔ میرزا صاحب کے خاندان کی وفاداری کا اعتراف سرکار عالی مدار کے علاوہ جناب جمیٹ کشر صاحب بہادر پنجاب نے اپنے ایک خط مجریہ ۱۰ اگست ۱۸۵۸ء (جوالہ ۵، ۶) میں کیا اور دو سو روپیہ صلہ خدمت دیا گیا، دوسرا خط میرزا غلام قادر (برادر میرزا غلام احمد) کے نام سر رابرٹ ایسٹرٹن فنانشل کشر نے لکھا ہے، تیسرا خط جناب و سن صاحب کشر بہادر لاہور کا ہے، جو میرزا غلام مرتضیٰ کو لکھا گیا ان سب خطوں میں خاندان کی وفاداری کا اقرار ہے۔ ان خطوط کا حوالہ دینے کے بعد میرزا صاحب فرماتے ہیں:

”تمام فرقوں میں ہمارا فرقہ ہی گورنمنٹ کا وفادار اور جان نثار ہے، سرکار تجربہ کے وقت ہمارے آدمیوں کو اقل درجہ کا خیر خواہ پائے گی۔“

”ہمارے خاندان نے سرکار کی داغ بیل میں خون بہانے اور جان دینے سے کبھی فرق نہیں کیا۔“  
دخاکسار میرزا غلام احمد ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء ماخوذ از تبلیغ رسالت جلد ۷

۱۹۔ مسلمہ حمیدیہ کا گورنمنٹ برطانیہ سے جو تعلق ہے وہ باقی تمام جماعتوں سے نرالا

ہے ہمارے فرائد ایک ہو گئے ہیں اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچا تو اس صدر سے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔“

(تبلیغ قادیان کا اعلان مندرجہ الفضل ۲۷ جولائی ۱۹۱۸ء)

میرزا صاحب کی ایک دوسری درخواست بمختصر گورنر جنرل بہادر کمشنر ہند مجریہ یکم جنوری ۱۸۹۶ء تبلیغ رسالت ”میں درج ہے۔ میرزا صاحب نے اس درخواست میں اپنے کاسہ لیسانہ خیالات کا امداد کیا اور ان لوگوں کا ایک خانہ دار نقشہ دیا ہے جو حکومت کے غیر وفادار ہیں اور نماز جمعہ صرف اس لئے نہیں پڑھتے کہ یہاں کوئی خلیفہ موجود نہیں۔ ہندوستان ان کے نزدیک دار الحرب ہے۔

ان ارشادات کی تائید و تکمیل کے لئے میرزا صاحب کا طرز مخاطبت یہ ہے کہ:

۱- ہم رسول (ورنہی) ہیں۔ (اخبار بدر ۵ مارچ ۱۸۹۸ء)

۲- سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔

(دافع البلاء صفحہ ۱۱)

۳- خدا نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں مجھے

اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبیوں پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان سے ان کی نبوت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۳۱)

۴- جو وحی و نبوت کا جام ہر نبی کو ملا وہ مجھے بھی ملا ہے۔ (نزول المسیح صفحہ ۹۹)

اور جو ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے ان کے حق میں ارشاد ہوتا ہے۔

۱- کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کی ہے مگر کجبروں

اور بدکار عورتوں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۵۴)

۲- جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے۔

(تبلیغ رسالت جلد ۹ صفحہ ۲۷)



۳۔ جو شخص ہماری فتح کا فائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو والد المہرام بننے کا شوق ہے، حرام زادوں کو کھہی نشانی ہے۔ (انوار السلام صفحہ ۳۰)

۴۔ ہمارے دشمن بیا بانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کیتوں سے بھی بڑھ گئیں۔ (در ثمین عربی صفحہ ۲۲۹)

۵۔ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوتے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر ہیں۔ (آئینہ صداقت ۳۵)

عام مسلمانوں سے سلوک

۱۔ حضرت مسیح موعود نے سختی سے تاکید فرمائی ہے کہ کسی احمدی کو غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ ہی میں یہی جواب دوں گا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں جائز نہیں جائز نہیں۔“

(انوار خلافت صفحہ ۸۹ از میرزا محمود احمد)

۲۔ ”ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔“ (انوار خلافت ۹۰)

۳۔ ”اگر کوئی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح موعود کا منکر نہیں؟ میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے۔“

(انوار خلافت ۹۳)

۴۔ حضرت مسیح موعود نے اس احمدی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبور یوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دے دی تو حضرت خلیفہ اقل نے اس کو احمدیوں کی امامت سے

ہٹا دیا۔ جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھ سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی  
 باوجودیکہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا۔  
 (الانوار خلافت ۹۴ - ۹۳)

۵۔ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو  
 نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ روا رکھا تھا، غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان  
 کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کا جنازہ پڑھنے سے روکا گیا اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ جو  
 ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں دینی اور دنیوی، دینی تعلق  
 کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے، اور دنیوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ و  
 ناطہ ہے سو یہ دونوں ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی  
 اجازت ہے تو میں کہتا ہوں کہ نصاریٰ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے اور اگر یہ کہو کہ  
 غیر احمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض  
 اوقات نبی کریم نے یہود تک کو سلام کا جواب دیا ہے۔

دکلمہ الفضل مندرجہ ریویو آف ریلیجیئر صفحہ ۶۹

میرزا صاحب کی نبوت اور ان کے فرزند ارجمند کی خلافت کے نگار خانہ کی مزید جھلکیاں  
 ملاحظہ فرمائیے۔ افسوس کہ عام مسلمانوں کو ان سے آگاہی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

۱۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج  
 رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ قلم ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات  
 مسیح یا چند اور مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 کا وجود قرآن، نماز، روزہ، حج، ذکوٰۃ غرض کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔

(جلد ۱۹ نمبر ۱۳ اخبار الفضل)

۲۔ تم اپنے امتیازی نشانوں کو کیوں چھوڑتے ہو۔ تم ایک بگڑیہ نبی کو مانتے ہو اور  
 تمہارے مخالف اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت کے زمانہ میں ایک تمویز ہوئی کہ احمدی غیر احمدی

مل کر تبلیغ کریں مگر حضرت نے فرمایا کہ تم کون سا اسلام پیش کرو گے۔ کیا خدا نے جو نشان تمہیں دیئے اور جو انعام خدا نے تم پر کیا وہ چھپاؤ گے۔

(آئینہ صداقت صفحہ ۵۳)

۳۔ ہندوستان سے باہر ہر ایک ملک میں ہم اپنے واعظ جمعیں مگر میں اس بات کے کہنے سے نہیں ڈرتا کہ اس تبلیغ سے پہاڑی غرض سلسلہ احمدیہ کی صورت میں اسلام کی تبلیغ ہو میرا یہی مذہب ہے کہ اسلام کی تبلیغ، یہی میری تبلیغ ہے، پس اس اسلام کی تبلیغ کرو جو مسیح موعود لایا۔  
(منصب خلافت تقریر صفحہ ۲۰۰)

۴۔ جب کوئی مصلح آیا تو اس کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے علیحدہ ہونا پڑا۔ اگر تمام انبیاء سابق کا یہ فعل قابل ملامت نہیں اور ہرگز نہیں تو میرزا غلام احمد کو الزام دینے والے انصاف کریں کہ اس مقدس ذات پر الزام کس لئے ہے پس جس طرح حضرت موسیٰ کے وقت میں موسیٰ کی آواز اسلام کی آواز تھی اور حضرت عیسیٰ کے وقت میں عیسیٰ کی آواز اسلام کی آواز تھی، پھر سیدنا مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اسلام کا صورت تھا اسی طرح آج قادیان سے بلند ہونے والی آواز اسلام کی آواز ہے۔

(جلد ۹، نمبر ۹۰۔ الفضل)

۵ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب کی تجویز پر ۱۹۰۵ء میں ایڈیٹر صاحب اخبار وطن نے ایک فنڈ اس غرض سے شروع کیا کہ اس سے ریویو آف ریلیجینز کی کاپیاں بیرونی ممالک میں بھیجی جائیں بشرطیکہ اس میں حضرت مسیح موعود کا نام نہ ہو، مگر حضرت اقدس نے اس تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا کہ مجھ کو چھوڑ کر کیا مردہ اسلام پیش کرو گے، اس پر ایڈیٹر وطن نے اس چندہ کے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔  
(جلد ۶، نمبر ۳۲۔ الفضل)

۶۔ کیا مسیح ناصر نے اپنے پیروؤں کو یہود سے الگ نہیں کیا؟ کیا وہ انبیاء جن کی

سوانح کا علم ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں انہوں نے اپنی ان جماعتوں کو غیروں سے الگ نہیں کر دیا۔ ہر ایک شخص کو ماننا پڑے گا آخر شک کیا ہے۔ اگر حضرت میرزا صاحب نے بھی جو کہ نبی اور رسول ہیں اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے الگ کر دیا تو نبی اور انوکھی بات کون سی ہے ؟

(جلد نمبر ۵ نمبر ۷۷ - ۷۹ - الفضل)

۷۔ چودھری صاحب کی بحث تو صرف یہ تھی کہ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ ہم کو کافر قرار دینا غلطی ہے باقی غیر احمدی کافر ہیں یا نہیں اس کے متعلق عدالت ماتحت میں بھی احمدیوں کا یہی جواب تھا کہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی چودھری صاحب نے اسی کی تائید کی۔ (جلد ۱۰ نمبر ۲۱، الفضل)

۸۔ کیا غیر احمدیوں کے ساتھ سیدنا حضرت مسیح موعود کا عمل درآمد کسی پر مخفی ہے، آپ اپنی ساری زندگی میں نہ غیروں کی کسی انجمن کے ممبر ہوئے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنی انجمن کا ممبر بنایا اور نہ کبھی ان کو چندہ دیا اور نہ کبھی ان سے چندہ مانگا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ علی گڑھ میں قرآن مجید کی اشاعت کی غرض سے ایک انجمن بنائی گئی اور وہاں کے جناب سیکرٹری صاحب نے ایک خاص خط بھیجا کہ چونکہ آپ لوگ خادم اور ماہر قرآن مجید ہو لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس انجمن میں آپ صاحبان میں سے کچھ شریک ہوں مگر باوجود جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی کوشش کے حضور نے انکار ہی فرمایا۔ پھر سر سید صاحب کے چندہ مدرسہ مانگنے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے یہاں تک کہ وہ ایک روپیہ تک بھی مانگتے رہے لیکن حضور نے شرکت سے انکار فرمایا حالانکہ مدرسہ انگریزوں کا جاری کیا ہوا تھا۔

(دکشف الاختلاف صفحہ ۴۲ از سرور شاہ)

۹۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ انگریزوں کی سلطنت

کی حفاظت اور ان کی کامیابی کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیوں دعائیں کیں حضور بھی ان کی کامیابی کے لئے دعا کرتے ہیں اور اپنی جماعت کے لوگوں کو جنگ میں مدد دینے کے لئے بھرتی ہونے کا ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ انگریز مسلمان نہیں۔ اس کے جواب میں حضور نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ عرض کیا جاتا ہے، فرمایا اس سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نظارے دکھانے گئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایک گری ہوئی دیوار بنا دی گئی جس کی وجہ بعد میں یہ بیان کی گئی کہ اس کے نیچے خزانہ تھا۔ جس کے مالک چھوٹے بچے تھے، دیوار اس لئے بنا دی گئی کہ ان لوگوں کے بڑے ہونے تک خزانہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے، اور ان کے لئے محفوظ رہے۔ یہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے متعلق پیش گوئی ہے جب تک جماعت احمدیہ نظام حکومت سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی اس وقت تک ضروری ہے کہ اس دیوار کو قائم رکھا جائے تاکہ یہ نظام کسی ایسی طاقت کے قبضہ میں نہ چلا جائے جو احمدیت کے مفادات کے لئے زیادہ مضر اور نقصان رساں ہو۔ جب جماعت میں قابلیت پیدا ہو جائے گی اس وقت نظام اس کے ہاتھ میں آجائے گا یہ وجہ ہے انگریزوں کی حکومت کے لئے دعا کرنے اور ان کو فتح حاصل کرنے میں مدد دینے کی۔

(جلد ۳۳ نمبر ۲ الفضل قادیان)

۱۰۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ میں وہ مہدی موعود ہوں اور گورنمنٹ برطانیہ میری وہ تلوار ہے جس کے مقابلہ میں ان عمار کی کچھ پیش نہیں جاتی، اب غور کرنے کا مقام ہے کہ پھر ہم احمدیوں کو اس فتح سے کیوں خوشی نہ ہو۔ عراق عرب ہو یا شام ہو ہم ہر جگہ اپنی تلوار کی چمک دکھینا چاہتے ہیں۔

منقول از اخبار الفضل جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۹

(سقوط بغداد)

۱۱۔ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے۔ (حقیقۃ الرویا مصنفہ تغلیف ربوہ)

۱۲۔ قادیان وہ مقام ہے جس کو خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کے لئے ناف کے طور پر بنایا ہے اور اس کو تمام جہان کے لئے اُمّ القریٰ قرار دیا ہے کہ ہر ایک فیض دنیا کو اس مقام مقدس سے حاصل ہو سکتا ہے۔  
(الفضل ۳ جنوری ۱۹۲۵ء)

۱۳۔ ہم ان لوگوں سے متفق نہیں جو کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی حرمین پر حملہ نہیں کیا جاسکتا۔ مدینہ پر بھی چڑھائی ہو سکتی ہے۔  
(الفضل ۱۲ ستمبر ۱۹۳۵ء)

۱۴۔ یہاں قادیان میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔ قادیان کا سالانہ میلہ ظلی حج ہے۔ یہ نفل اب فرض بن گیا ہے۔  
(الفضل ۱۱ ستمبر ۱۹۳۲ء)

میرزا صاحب کے یہ عجوبے انیسویں صدی کی آخری دہائی میں ۱۸۵۷ء کے خوف اور خون کی وجہ سے سہ لئے گئے اور بیسویں صدی کی پہلی دو دہائیوں میں علماء کے تبلیغی محاسبہ تک محدود رہے لیکن ہندوستان کی کمالاً بیداری اور مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے بعد ان کا احتساب ناگزیر ہو گیا۔ مسلمانوں نے مزاحمت شروع کی۔ احرار نے اپنی طبعی افتاد کے باعث مزاحمت کے فرائض اپنے ذمے لے لئے تو یہ ان سیاسی اور دینی مضمرات کا قدرتی نتیجہ تھا۔ جن دینی و سیاسی خصوصیات کا مظہر احرار تھے۔ احرار اگر مزاحمت نہ کرتے تو ایک سانحہ ہوتا۔ احرار نے مزاحمت کر کے ایک ایسی جماعت یا امت کو زخم چاٹنے پر مجبور کر دیا جس کا وجود علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں نہ صرف مسلمانوں کی دینی وحدت کے لئے خطرے کا موجب تھا بلکہ اپنے اندر یہودیت کے وظائف کی خصوصیتیں رکھتا تھا۔ میرزا غلام احمد کی نبوت کا وظیفہ ہندوستان کی سیاسی فلامی کے حق میں الہامی بنیادیں فراہم کرنا تھا۔

فسادات پنجاب (۱۹۵۳ء) کی تحقیقاتی عدالت نے اس قضیہ نامرضیہ کو عجیب و غریب حالات میں چھپڑا اور عجیب و غریب نتائج سے سمیٹا۔ جن اطلاعات پر عدالتی رپورٹ لکھی گئی ان کے مطالعہ سے دو باتیں صاف طور پر مرشح ہوتی ہیں۔

اولاً: جماعتوں میں احرار سب سے زیادہ گروں زدونی قرار دیئے گئے۔

ثانیاً : افراد میں سید عطار اللہ شاہ بخاری، خضیہ پولیس کے قلم کی خواندگی زد میں رہے۔  
ان حالات میں اس رپورٹ کے مندرجات کا تجزیاتی مطالعہ زیر نظر مباحث میں  
زیادہ مضید ثابت ہوگا، ایک تو اس رپورٹ کی حیثیت ایک تاریخی دستاویز کی سی ہے، دوسرے  
اس پر نقد و بحث کے بغیر میرزا سیت سے متعلق شاہ جی کے سوانح مکمل نہیں ہوتے، تیسرے  
قادیانی نبوت کی مشورہ طرازیوں سامنے آجاتی ہیں۔ واضح رہے کہ شاہ جی کے سفر زندگی میں قادیانی  
کی سرکوبی کا مسئلہ ان کے سوانح حیات کا نصف ہے۔

---





# میرزا ائیت

## پاکستان کے بعد

احرار کے نزدیک بیگ کا موقف ہندوستانی مسلمانوں کے قومی مسئلے کا سیاسی حل نہ تھا لیکن وہ اس کی مخالفت مذہب کے واسطے سے کرتے تھے۔ اس کے برعکس قادیانی قیام پاکستان کو اپنے مذہب کی موت سمجھتے لیکن سیارہ گوگلو کی حالت میں تھے۔ میرزا محمود احمد کی بعض تحریروں سے پاکستان کی مخالفت کا نمایاں سراغ ملتا ہے اور میرزا انکو ازسی رپورٹ (صفحہ ۱۱) نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔

مثلاً میرزا البشیر الدین محمود نے ایک تقریر میں فرمایا اور یہ تقریر ان کے سرکاری ترجمان روزنامہ الفضل میں چھپ چکی ہے کہ موجودہ ملکی تقسیم غلط ہوئی ہے، وہ تقسیم ختم کرانے اور دونوں ملکوں کے باہمی افتراق دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس عارضی تقسیم کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا ہی جائے گا اور ہندوستان و پاکستان کو پھوسے اکھنڈ ہندوستان بنایا جائے گا۔

احرار چونکہ مسلمان عوام سے مخاطب تھے اور ان کا نقطہ نگاہ مشروط طور پر کانگریس کا نقطہ نگاہ تھا۔ اس لئے ان کی مخالفت کا چرچا ہو گیا اور میرزا محمود احمد کی مخالفت کا چرچا

یا شہرت اس لئے نہ ہو سکی کہ وہ نہ تو لیگ کے مقابلہ میں صفت آرا تھے اور نہ ان کا رویہ مزاحمانہ تھا۔ لیکن وہ جس خلافت کو قائم کئے ہوئے تھے اس کی بقایا استحکام کے لئے قیام پاکستان سے خائف تھے۔ انہیں جائزہ طور پر یہ اندیشہ تھا کہ پاکستان میں ٹرڈ کاسٹہ پودا“ پروان نہیں چڑھے گا اور تحقیقاتی رپورٹ کے الفاظ میں اعتراف و تفریق کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔

چنانچہ احرار کے لئے انگریزوں کا نکل جانا سا لہا سال کی جدوجہد کا خوش آمد نتیجہ تھا اور قادیانوں کے لئے انگریزوں کا نکالا جانا ہو شریا سانحہ۔ لیکن دونوں کو اپنے انکار و کوائف کے باعث ایک ایسی منفی صورت حالات کا سامنا کرنا پڑا جس کا صحیح آئینہ فسادات پنجاب (۱۹۵۳ء) کی عدالتی رپورٹ ہے۔

جسٹس محمد منیر اور جسٹس محمد رستم کیانی اس رپورٹ کے مرتبین تھے۔ گورنر پنجاب کے آرڈی منس نمبر ۳ (۱۹۵۲ء) کی ہدایت و شرائط کے مطابق یہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی۔ فاضل نچ صاحبان کی تجویز کی ہوئی بعض ترمیموں کے بعد فسادات پنجاب تحقیقات عامہ (۱۹۵۲ء) ایکٹ بن گیا اور یکم جولائی ۱۹۵۳ء کو تحقیقات کا آغاز ہوا۔ کل ۱۱۷ اجلاس منعقد کئے گئے جن میں ۱۱۲ اجلاس شہادتوں کے لئے مخصوص رہے۔ ۲۸ فروری ۱۹۵۴ء کو کمیشن نے اپنا کام ختم کر دیا۔ فاضل جموں نے ۳۸۷ صفحات پر مشتمل انگریزی میں ایک رپورٹ لکھی جس کا اردو ترجمہ سرکاری اہتمام میں کرایا گیا اور محکمہ تعلقات عامہ (پنجاب) نے شائع کیا اس ترجمہ کے ۴۳۵ صفحات ہیں۔

جتنی جماعتیں اس معرکے میں ماخوذ تھیں ان میں سے لیگ اور احرار کے سوا تقریباً سب نے اپنے جوابی تبصرے کتابی شکل میں شائع کئے۔ لیگ نے اس سارے قضیے کو خواجہ ناظم الدین اور میاں محمد ممتاز دو لٹانہ کی ذمہ داری پر محمول کیا اور وہ دونوں وزارتوں سے سبکدوشی کے بعد لیگ کی مرکزی اور صوبائی صدارتوں سے بھی علیحدہ ہو چکے تھے۔

احرار کی جو ابی راہ میں بظاہر ہمیں رکاوٹیں تھیں۔

اولاً: مجلس احرار کو خلاف قانون تنظیم قرار دیا گیا۔

ثانیاً: وہ قلم کے نہیں زبان کے دھنی تھے یعنی تحریر کے بجائے تقریر کے آدمی تھے۔

ثالثاً: رپورٹ میں جس بڑے انداز سے ان کا ذکر کیا گیا شاید اس کے پیش نظر وہ اپنے مصفا کی تہمت لینے کو تیار نہ تھے۔

بہر حال رپورٹ کا غالب حصہ جانبدارانہ آلائشوں کا حامل ہے اور کسی لحاظ سے بھی

اس رپورٹ کو کسی جج کا تجزیہ نہیں کہا جاسکتا۔ اگرچہ اس کے مصنف جج تھے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال

خلعت الرشید علامہ اقبال نے اپنی ایک کتاب کے ویساچ

میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جو اسلام کے خلاف خود مسلمان ججوں کے قلم سے

نکلی ہے اس کی اشاعت روک لی جائے بلکہ اس کتاب کو ضبط ہونا چاہیے؟ دنیائے اسلام

میں آج تک نفس اسلام کے خلاف ایسی دستاویز شائع نہیں ہوئی۔ یہ سب سے بڑی تحریر ہے

جس میں دو مسلمان ججوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کی رسوائی کا سامان کیا گیا ہے۔ امتداد زمانہ کے

ساتھ یہ رپورٹ مرچکی ہے۔ جسٹس کیانی نے راقم سے کہا تھا کہ وہ اس کتاب کی اشاعت سے

پریشان و پیشیمان ہیں اور جو حصہ اس میں اسلام کے خلاف ہے وہ جسٹس میز کے قلم

سے ہے۔

تمام خرابی ان واقعات کی بوقلمونی میں ہے جنہیں رپورٹ میں زیر بحث لایا گیا ہے مولانا

مرتضیٰ احمد میکیش نے اس بوقلمونی ہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے محاسبہ (جوابی تبصرہ) کا سراغنا اس

طرح کیا ہے کہ:

”رپورٹ کی مثال اس ہاتھی کی ہے جس کے مختلف اعضاء کو چھ اندھوں نے اپنے

ہاتھوں سے ٹٹولا اور اپنی حس لامسہ کی مدد سے ہاتھی کے متعلق ہر ایک نے اپنا جدا جدا

خصوص تصور قائم کر لیا۔ ایک نے کہا ہاتھی ایسا تھا جیسے عمارت کا ستون۔ دوسرا بولا

ایک بہت بڑا اچھا جج۔ تیسرے نے کہا موٹا سا اڑدھا۔ چوتھے نے کہا کہ ہاتھ بھر کی موٹی رستی۔ پانچویں نے کہا ناہموار سا چبوترہ۔ چھٹے نے ارشاد فرمایا وہ ایک دیوار سی تھی اور بس۔ اس رپورٹ نے بعینہ اسی قسم کی کیفیت عامۃ الناس میں پیدا کی ہے اور ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق اس کے متعلق اپنا خیال اور تصور قائم کر چکا ہے یا کر رہا ہے۔

اس خرابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تحقیقات کا دائرہ غیر ضروری حد تک پھیلا دیا گیا۔ خود حکومت کا اس بارے میں کوئی نقطہ نگاہ نہ تھا۔ محولہ اختیارات کی دفعہ ۵ کی ذیلی دفعہ میں یہ صراحت درج تھا کہ عدالت مجموعہ ضابطہ فرمداری کی شرائط و قیود کی پابند نہ ہوگی۔ بنا بریں عدالت نے قانون شہادت کی پابندی سے مختلف راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ رپورٹ کی ابتداء میں اس کا ذکر موجود ہے لیکن عدالت نے اپنے اجلاسوں میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ اپنے متعلق عدالتی لیکن ماخوذین کے متعلق غیر عدالتی تھا۔

### نحفی اور جلی پہلو

بہر حال رپورٹ کے بہت سے نحفی اور جلی پہلو ہیں:

۱۔ اس رپورٹ کو علما کے برخلاف ایک اجتماعی مقدمہ COLLECTIVE TRIAL کی خصوصیت حاصل ہے۔ ساری اسلامی تاریخ میں اس نوعیت کا کوئی مقدمہ نہیں۔ میان فضل حسین نے ۱۹۳۶ء کے اواخر میں احرار سے قادیانی محاذ چھیننا چاہا تو مولانا ظفر علی خاں کو ڈلہوڑی بلا کر ترغیب دی کہ وہ عدالت عالیہ میں مقدمہ دائر کر کے قادیانی جماعت کے نامسلمان ہونے کا فیصلہ حاصل کریں۔ مولانا مقدمہ دائر کرنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن اس ساز باز کی اطلاع میان صاحب مرحوم کے ایک معتمد نے راتوں رات چودھری افضل حق کو پہنچا دی جس میں ”زیندار“ میں اس تجویز کا اعلان کیا گیا اسی صبح چودھری صاحب نے اپنے اخبار ”مجاہد“ میں بھانڈا پھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اُس تجویز پر پانی پھر گیا۔

گو اس مقدمہ کی تجویز اور اس رپورٹ کی نوعیت میں لفظاً و معنأً فرق ہے لیکن

اساس و بنیاد دونوں کی یکساں ہے۔ ایک گروہ جو ملاکی رجعت خواہی سے بیزار ہے اس اجتماعی مقدمہ کو علما کی شکست فاش سمجھ کر غمخوش ہوتا رہا۔ دوسرا گروہ جو انکو آزادی کے ماخوذین پر مشتمل تھا اپنے اپنے معتوبین یا ملزمین کی رسوائی پر غمخوش تھا۔ بعض تحریک اور اس کے نتائج کی ذمہ داری سے بچنا چاہتے تھے۔ تیسرا گروہ فسادات کے اسباب و علل کی کنہ تک پہنچنے کو تو درست سمجھتا تھا لیکن بعض علمی، عملی، شرعی اور نظری مباحث کے لئے عدالت کی عاقلانہ فیصلہ کو ناموزوں خیال کرتا تھا۔ چوتھا گروہ ان عناصر پر مشتمل تھا جن کے جذبات کا خلاصہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اس زمانہ میں مشرقی پاکستان کے حالات کی تجزیاتی رپورٹ میں بہ الفاظ ذیل پیش کیا تھا۔

”اسلام کے خلاف وسیع پروپیگنڈے کی پشت پر ہندو اور کمیونسٹ دماغ ہیں جو اسلام کو ناکام مذہب ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس کی ساری تاریخ کو گھنناؤنی اور قابل نفرت شکل میں پیش کرتے رہے ہیں۔ اس کے نظام زندگی کو ناکارہ اور نقصان رساں اور فرسودہ و جاہلانہ نظریات کا مجموعہ بتاتے رہے ہیں اور اس کام میں ان کو سب سے زیادہ مدد منیر رپورٹ سے ملی ہے جس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی دوسری دستاویز موجود نہیں ہے جو مشرق و مغرب میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس قدر خلط فہمیاں پھیلاتے کی موجب ثابت ہوئی ہو۔ (صفحہ ۱۸۶۱۷)

۲۔ تمام رپورٹ میں ضروری شہادت کا مدار زیادہ تر سی آئی ڈی کی رپورٹوں پر ہے اور ان کے بارے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سی آئی ڈی سے زیادہ ناکارہ عنصر ملک بھر میں شاید ہی ہو۔ ان رپورٹوں کا لب و لہجہ غایت درجہ معاندانہ بلکہ بڑی حد تک احمقانہ تھا۔ بسا اوقات خیال ہوتا ہے کہ سی آئی ڈی کے حکام قادیانی اُمت کے ساتھ مل کر اپنی رپورٹیں لکھتے کھاتے اور تجزیہ و تبصرہ کرتے تھے۔

## احرار کے خلاف محاذ

تمام رپورٹ کے بلاستیعاب مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ:

(الف) سی آئی ڈی نے احرار کو شروع ہی سے ہدف مطاعن بنائے رکھا۔ اس نے اصل نزار کو سمجھنے کی بجائے صرف احرار کو ملزم گرداننے کی کوشش کی۔ اس کا طریق فکر ایک ایسے ناول نگار کا ہے جو ایک خاص قسم کی ذہنی فضا تخلیق کر کے اچھے برے کر دار پیدا کرتا اور اپنے زور بیان کی نمائش کرتا ہے۔ احرار کے باب میں سی آئی ڈی کا قلم جراح کا نشتر نہیں ملام و حرام سے بے نیاز قصاب کا چھرا تھا۔ اس نے فولوگر افی کے بجائے مصویٰ کے فرائض اپنے اوپر مقوپ لئے تھے اور جس طرح چاہا ویسی تصویر بنا کر بزم غم خورش اپنے قلم کی داد حاصل کی۔

(ب) اس نے بظاہر قانون و انتظام کے مسئلے کو سامنے رکھا لیکن جو کچھ لکھا اس پر سیاست و انتقام کا رنگ غالب رہا۔ قادیانیت کی پوری تاریخ کو نظر انداز کر دیا اور غالباً سی آئی ڈی کے دانشوروں کو اس کا شعور ہی نہ تھا لیکن ماضی مرحوم میں احرار کی سیاسی شکستوں کے پیش نظر جو بھی ثقہ و غیر ثقہ روایت مل گئی اس کو اس مفروضہ پر جوڑ پڑوڑ لیا کہ شریک پاکستان کے سلسلہ میں احرار سے لیگ کی ناراضی کا اجتماعی ذہن اس کی توثیق و تسلیم کے لئے کافی ہوگا۔

(ج) ایک چیز جو ان رپورٹوں میں شروع سے آخر تک موجود ہے وہ ارباب انتظام بالخصوص پولیس کے افسران مجاز کا طرز عمل ہے کہ وہ نصف صدی سے زائد کی اس کش مکش کو بار بار احمدی احرار نزارع کا نام دیتے رہے۔

نظریہ ظاہر اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ قادیانی حکومت کے مختلف صیغوں میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے و افسران مجاز ان کے شوہری یا غیر شعوری احترام یا خوف میں محصور تھے۔ دوسری طرف احرار سیاست میں ایک شکست کھائی ہوئی جماعت تھے۔ ان کے لئے لیگ کا سیاست خانہ اپنی ہی فراہم کی ہوئی ناراضیوں کے باعث اجنبی تھا۔ بیورو کر لسی کی عادت ستمو

ہے کہ وہ کسی مسئلے اور اس کی نوعیت کو نہیں دیکھتی بلکہ جو لوگ پیش کر رہے ہیں ان کے اجر لئے سب اور اعضاءے حسب کی جانچ میں منفی ذہن سے کام کرتی ہے عوام یا حکومت کے خزانہ عامہ سے لاکھوں روپیہ بطور تنخواہ وصول کرنے کے بعد جو شاہکار تصنیف کرتی ہے اس کے نادر نمونے سی آئی ڈی کی ان زیر بحث یادداشتوں میں بکثرت موجود ہیں۔

## نادر نمونے

ان یادداشتوں میں افسران مجاز شروع سے آخر تک اس بات پر زور دیتے رہے

ہیں کہ :

احرار احمدیوں کے خلاف دشنام طرازی کی مسلسل مہم چلا رہے ہیں۔

(صفحہ ۱۵ محرمہ ۳۱ اگست ۱۹۵۰ء)

احرار مقررہ نے میرزا غلام احمد کو مارٹر تارا سنگھ سے تشبیہ دی اور چودھری نذر اللہ خان کے خلاف توہین آمیز اشارات کئے انہیں مسلمان قوم کا خدا بتایا۔ جماعت احمدیہ کے بانی اور اس کے موجودہ امام کے متعلق فحش باتیں کیں۔ (صفحہ ۱)

مجلس احرار احمدیت کے بانی اور اس کے موجودہ امام کے متعلق فحش اور غلیظ باتیں تو کرتی ہے اب اس نے دانستہ بھی اور نادانستہ بھی تشدد کی حمایت شروع کر دی ہے۔

احرار برصغیر کی تقسیم کے خلاف تھے ان پر کانگریس اعتبار کرتی تھی اور وہ ہمیشہ کانگریس کے کارکنوں سے غلامار کھتے تھے۔ (صفحہ ۱۹ محرمہ ۱۹ جون ۱۹۵۰ء)

احرار نے اپنی پوری توجہ احمدیوں کی بدگئی پر مرکوز کر دی اور نہایت شرمناک دشنام طرازی کا آغاز کیا۔ میرزا غلام احمد کی تحریروں کے اقتباسات ناگوار حد تک نقل کئے جا رہے اور ان کو توڑ موڑ کر ان سے فحش اور غلیظ مطالب نکلے جاتے ہیں۔

میرزا غلام احمد اور موجودہ خلیفہ کو زنا کار اور خلاف وضع فطرت حرکات کا مرتکب

(صفحہ ۲۰)

ظاہر کیا جا رہا ہے

احرار شائستگی کے حدود سے تجاوز کر چکے اور احمدیوں کے خلاف بے باک حملے کرتے رہے ہیں۔  
(صفر ۳۲ یا دو اداشت محرمہ یکم اکتوبر ۱۹۵۱ء)

بخاری ہرگز باز نہیں آتے گا کیونکہ اس کا اس کے سوا اور کوئی وصف ہی نہیں کہ وہ احمدیوں کو گالیاں دیتا رہے مندی اور ہٹلا آدمی ہے۔

(صفر ۳۸ محرمہ ۱۲ نومبر ۱۹۵۱ء)

احرار احمدی نزاع روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ (صفر ۳۸ دسمبر ۱۹۵۱ء)

اس میں شک نہیں کہ احرار لیڈر اور کارکن ہماری مملکت کی سلامتی اور اس کے امن و امان کو تباہ کرنے پر تلمے ہوئے ہیں اور احمدیوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کا ظاہری مقصد تو احمدیوں ان کے خلیفہ اور نطفہ اللہ خان کو بدنام کرنا ہے لیکن ان کا اندرونی مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بد نظمی اور لاقانونی پیدا کریں۔

(صفر ۴۲ محرمہ ۲۸ مارچ ۱۹۵۱ء)

احرار بجائے خود ایک مسک ہیں۔ (لیکن قادیانی بہ مولف)

(صفر ۵۰ محرمہ ۵ اپریل ۱۹۵۲ء)

قادیانی، اگر دوسرے اسلامی فرقوں کے افراد کو اپنے رسوم میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتے یا غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ نماز یا دوسرے دینی وظائف میں شریک ہونے سے پورا اجتناب کرتے ہیں تو یہ خالصتہً ان کا ذاتی معاملہ ہے۔

(صفر ۵۰ محرمہ ۳۰ مئی ۱۹۵۲ء)

بد قسمتی سے دلفظ بد قسمتی پر غور فرمائیے، مولف، عام مسلمانوں کا ذہنی رجمان

(صفر ۵۳ محرمہ ۳۰ مئی ۱۹۵۲ء)

احمدیوں کے خلاف ہے۔

آج کل جماعت احرار کا کام صرف یہ ہے کہ احمدیوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا

(صفر ۵۶)

جائے۔



احرار عوام کی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے اب تین نعرے استعمال کر رہے ہیں۔

۱۔ مسئلہ ختم نبوت کی تبلیغ و اشاعت۔

۲۔ احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا اعلان۔

۳۔ چودھری ظفر اللہ خان کی موقوفی۔

جہاں تک نمبر ۱ کا تعلق ہے مرکزی حکومت واضح طور پر بتائے کہ ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس مطالبے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ جسے احرار اور بعض دوسرے مسلمان رومی زانیت کہتے ہیں۔ کیا ہمیں ان سرگرمیوں کی اجازت دینی چاہیے یا ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے باشندوں کی ایک قلیل سی جماعت کو سمانی یا مذہبی اعتبار سے نابود کر دیا جائے۔ احمدیوں کی جماعت، مسئلہ عقائد پر قائم ہے اور ہر احمدیوں کے عقائد رنگارنگ ہیں۔ اگرچہ آخر الذکر کو احمدیوں کے خلاف جوش و خروش کے اظہار کی اجازت دی جائے تو کیا احمدیوں کو بھی یہ حق دیا جائے گا کہ وہ منبر اور پلٹ فارم سے صرف اپنے عقائد کو صحیح اور دوسرے تمام عقائد کو کفر قرار دیں۔ اگر ہم یہ حق جمہور کے کسی ایک طبقے کو دے دیں تو کیا ہم عیسائیوں کو یہ اجازت دینے کے لئے تیار ہوں گے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے خیالات کی اشاعت کریں؟ حضورؐ کی ختم المرسلین اور غلام احمد کی ظلی نبوت کو ایک دوسرے سے بریکٹ کرنا انتظامیہ ہی کے فکر رسا کی بوجہ ہو سکتی ہے۔ راقم اور آیا ہم شیعوں کو بعض نامور ترین صحابہ کرام کے متعلق اپنے جذبات کے عام مظاہرے کا موقع دینے پر آمادہ ہوں گے؟ کیا مقصود یہ ہے کہ اس ملک کو متخاصم گروہوں اور مذہبوں کا میدان جنگ بنا دیا جائے تاکہ جو لوگ شکست کھا جائیں وہ تلبہ ہو جائیں یا مذہب بدلنے پر مجبور کر دیئے جائیں۔ جس اشدھا کو احرار منظر عام پر لانا چاہتے ہیں اس کو اس کے خروج سے پہلے ہی ہلاک کر دینا چاہیے ورنہ وہ ہماری آزادی اور ہمارے تمام بالوفات و محرومات کو نکل جائے گا۔ (صفحہ ۲، جولائی ۱۹۵۲ء)

ارکان مرکز کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ احرار جو آخری دم تک پاکستان کے قیام کی مخالفت کرتے رہے ہیں اب پاکستان کو ختم کرنے کے لئے جو دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے آیا وہ اس سے مغلوب ہو جائیں گے۔ مرکز کو جو کچھ بھی فیصلہ ہو اس سے حتی الامکان جلد از جلد ہر شخص کو مطلع کر دینا چاہیے۔ (یادداشت مذکورہ صفحہ ۷۳)

منگمری کا ایک رسوائے عام احرار کی (ذبان ملاحظہ ہو، مولف) کا کہن جو حبیب الرحمن لدھیانوی کا چچرا بھائی ہے۔

سید عطار اللہ شاہ بخاری نے ملکہ وکٹوریہ اور ملکہ الزبتھ کے متعلق جو کچھ کہا بہتر ہی ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے اس کا ذکر قابل اعتراض ہے۔ (صفحہ ۱۲۱)

محمد علی جالندھری ایک بد آہنگ سیاسی مقرر ہے۔

(صفحہ ۱۲۲، محرمہ ۲۴، نومبر ۱۹۵۲ء)

سید عطار اللہ شاہ بخاری کبھی باز نہیں رہ سکتے ان کے ذہن میں گالی کے سوا اور کچھ نہیں۔ (صفحہ ۱۳۳)

احرار مقررین کو چودھری ظفر اللہ خان اور بانی جماعت احمدیہ کے خلاف علی الاعلان توہین آمیز باتیں کہنے سے روکا جائے۔ وہ عام طور پر اپنی تقریروں میں میرزا غلام احمد کو دجال کذاب اور زانی اور چودھری ظفر اللہ خان کو خدا اور دشمن پاکستان کہتے ہیں۔ (صفحہ ۱۲۵)

احرار یوں کی اس شورش کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں اور احمدیوں کے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں۔ (صفحہ ۱۲۶)

ڈپٹی انسپکٹر جنرل سی آئی ڈی نے اپنی یادداشتوں میں کئی دفعہ اس بات پر اظہارِ خشکی کیا کہ سید عطار اللہ شاہ بخاری ملکہ وکٹوریہ اور ملکہ الزبتھ کا ذکر قابل اعتراض طریق سے کرتے ہیں مگر یادداشتوں میں اس سیاق و سباق کا ذکر قطعاً مفقود ہے جس

کے تحت ملکہ وکٹوریہ کا ذکر کیا جاتا رہا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل کو بہر حال اصرار تھا کہ ملکہ معظّمہ کی توہین کی جاتی ہے۔ چنانچہ ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۲ء کی ایک یادداشت میں ڈی آئی جی میرزا غلام احمد کے ایک رویا:

”حضرت فاطمہؑ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا۔“

(ایک غلطی کا ازالہ صفحہ ۸)

کی توضیح کا فریضہ اپنے ذمے لیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ظاہر ہے کہ اس میں میرزا صاحب نے دختر رسول کا ذکر بالکل اس طرح کیا تھا جیسے کوئی ماں کا ذکر کرے۔“

اقصران مجاز کو میرزا غلام احمد، میاں محمود احمد اور چودھری نغفرا اللہ خان وغیرہ کے بارے میں احرار کے لب و لہجہ پر سخت اعتراض تھا لیکن اپنی یادداشتوں میں جو گندے الفاظ احرار بالخصوص سید عطار اللہ شاہ بخاری کے متعلق استعمال کئے اور ان میں ٹکسالی زبان کے جو نوادر ڈھائے ان کے بارے میں غالباً کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔

### جماعت اسلامی کی رائے

ایسے ہی لوگوں نے لالا کی ہچک و مک پر جماعت اسلامی کے تبصرہ نگاروں جناب نعیم صدیقی اور جناب سعید احمد ملک نے اظہار خیال کرتے ہوئے اپنی جوابی تصدیحات میں لکھا کہ:

”وہ محرکات جو قادیانیوں کے خلاف تحریک میں حصہ لینے کے لئے مختلف جماعتوں کی طرف منسوب کئے گئے ہیں ان کے متعلق اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ بیوروکریسی کی

سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش سے نداوی خدا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو نیچے جھکا دو اور اپنی آنکھیں بند کر لو فاطمہ بنت محمدؑ پُل صراط سے گزر جائے۔ اس وقت حدیث سید النساء کے ہمراہ ۱۰ ہزار حوریں بجلی کی طرح پُل صراط سے گزر جائیں گی۔

پست ذہنیت کا ایک معمولی سانمونہ ہے، یہ لوگ ہمیشہ اس مفروضہ پر اپنے خیالات اور احکام کی بنا رکھتے ہیں کہ جو شخص یا گروہ بھی سرکار عالی کی منشا کے خلاف کچھ کہتا ہے وہ بددیانتی اور گھٹیا درجے کے خود غرضانہ محرکات ہی کی بنا پر کہتا ہے۔ ایمان دارانہ راستے صرف سرکاری دفتروں کے کرسی نشینوں کا اجارہ ہے جو لوگ اپنی خدمات کے صلے میں بڑے بڑے عہدوں پر ترقیاں پاتے ہوں وہ تو ہیں کمال درجہ نیک نیت اور جنہیں اپنے مشن کی راہ میں قدم قدم پر جان و مال کے نقصانات سے سابقہ پیش آتا ہے وہ سب کچھ خود غرضی اور بد نیتی کی بنا پر کرتے ہیں۔

(تبصرہ صفحہ ۱۷۱، ناشر مکتبہ جماعت اسلامی لاہور)

۴۔ غرض تمام رپورٹ میں دلچسپ تضادات اور غلط اطلاعات کے نمونے عام ہیں۔ احرار کے سوا تقریباً سبھی جماعتوں نے اس کی نشاندہی کر دی تھی۔

مشق ستم

چونکہ احرار تحریک پاکستان میں عدم شرکت کی وجہ سے تختہ مشق ستم تھے اس لئے ان کے متعلق گفتنی و ناگفتنی سبھی باتیں جمع کی گئیں۔

سی آئی ڈی کا اصول ہے پاکستان بن جانے کے بعد بھی، کہ وہ اپنے مجرکانات اپنی اطلاعات سے بھی زیادہ صیغہ راز میں رکھتی ہے لیکن اس رپورٹ سے دونوں بھم کھل گئے۔ اولاً مذکورہ معلومات کی سطح اتنی پست تھی کہ مجروں کی قابلیت اور عداوت کا چہرہ مہرہ سامنے آ گیا۔ ثانیاً ڈپٹی انسپکٹر جنرل سی آئی ڈی نے ماسٹر تاج الدین صدر احرار سے بھی اپنی معلومات کے حصول کا ذکر کیا۔ فاضل جج صاحبان کی رائے میں: ”اگر ماسٹر تاج الدین اپنی جماعت ہی کی جاسوسی کر رہے تھے تو وہ اور بات ہے ورنہ ہمیں تو یہ بات بالکل بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ ان کی دی ہوئی اطلاع پر ذریعہ اطلاع ظاہر کئے بغیر اس قدر اعتبار کیا جائے کہ اس کو رپورٹ میں درج کر لیا جائے۔ ہم نے اس معاملہ کے متعلق جو کچھ فائلوں سے نقل کیا ان کو ماسٹر

انور علی کے بیان کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس سے یہ رائے قائم کرنے کے لئے خاصا مواد مہیا ہو جاتا ہے کہ ماسٹر تاج الدین سسٹر انور علی کو سیدھے راستے سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔“

### واضح غلطیاں

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل چند معلوماتی غلطیوں ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی اعلیٰ ذہنی کی اطلاعات کا سانچہ ناقص تھا، یا محض احرار ہی کے بارے میں غلط بیانیوں سے کام لیا گیا؟

۲۔ رپورٹ کے تیرھویں صفحہ کی چوتھی سطر میں جماعت احرار کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

”اس کے دو لیڈروں یعنی مولوی عبدالغنی ڈار اور مولانا حبیب الرحمن نے بھارت میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔“

جن لوگوں کو پنجاب مرحوم کے رجال سیاست سے تھوڑی سی شناسائی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مولوی عبدالغنی ڈار کبھی احرار کے جماعتی دوست نہ تھے بلکہ مولانا حبیب الرحمن کے برخلاف لدھیانہ کانگریس کی روح ورواں تھے، انہیں احرار راہنماؤں سے ہمیشہ شخصی اور جماعتی اختلاف رہا۔ جن عناصر نے احرار کو کانگریس سے دور کرنے یا دور رکھنے میں بیش از پیش حصہ لیا، ان میں مولوی عبدالغنی ڈار بھی ایک تھے۔

---

۱۔ چودھری افضل حق مرحوم نے تاریخ احرار میں (صفحہ ۱۳۰) ماسٹر جی کو خراج ذیل ادا کیا ہے۔

”ماسٹر تاج الدین ہماری جماعت میں بڑے جوڑ توڑ کے آدمی ہیں۔ میں نے انہیں کام کے لحاظ سے محنتی چیونٹی اور تدبر کے اعتبار سے دشمن کو تاروں میں الجھا کر مارنے والی مکڑی پایا ہے۔“

ب۔ ارشاد ہوتا ہے (صفحہ ۳۷، ۳۸) جو تنبیہ ایک دفعہ صدر مجلس احرار ماسٹر تاج الدین انصاری اور پھر مولوی مظہر علی انظر سیکرٹری کو دی گئی تھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ — انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مولانا مظہر علی انظر قیام پاکستان سے ڈیڑھ برس پہلے مجلس احرار کو چھوڑ چکے اور لیگ سے باہر رہ کر قیام پاکستان کے حق میں تھے۔ انہوں نے پاکستان بن جانے کے بعد تحریک میرزا آیت میں نام کو بھی حصہ نہ لیا۔ اور نہ دوبارہ مجلس احرار میں شامل ہوئے۔ خدا معلوم انہیں کہاں اور کیونکر تنبیہ ہو گئی۔ وہ خود اس لطیفہ کے سرزد ہونے پر حیران تھے۔

ج۔ احراری لیڈر تقسیم کے فوراً بعد "آئی این اے" کے جنرل، شاہنواز سے سازباز میں مصروف تھے جو بعد میں بھارت چلا گیا۔ (صفحہ ۱۵)

اس گستاخانہ الزام کی حقیقت سے نقاب سرکانافی الحال مناسب نہیں لیکن خدا علیم وخبیر ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وقت بتائے گا کہ شاہنواز نے سازباز کی تھی یا خدمت ہے

انہی موقعوں پر کہتے ہیں سے

کہ ہمیں مکتب وہمیں ملا

کارِ طفلان تمام خواہ شد

د۔ مولانا محمد علی جالندھری صوبائی گورنمنٹ کے حکم سے ملتان میں پابند تھے۔

ایک روز انہیں ڈپٹی کمشنر نے طلب کیا اور کہا کہ فلاں ضلع میں آپ نے جو تقریر کی ہے وہ حکومت کے نزدیک قابل اعتراض ہے۔ مولانا نے جواب دیا کہ میں تو آپ کے حکم

لے میں اپنے سوانح حیات جلد دوم میں اس کا مفصل ذکر کروں گا۔

سے یہاں پابند ہوں میری تقریر وہاں کیونکر ہو گئی؟ تو وہ خود اس فرضی رپورٹ پر شہدے  
رہ گیا۔

۴۔ جن اخباروں کی مندرجہ روئیدادوں کو احرار کے خلاف شہادت کی دستاویز  
بنایا گیا ان میں سے ننانوے فیصد کی بہتان آرائیوں اور قلم فروشوں کا رُخ رپورٹ ہی  
کے مندرجات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سرکار دولت مدار سے انہوں نے کتنی رقم  
حاصل کی۔

۵۔ فاضل عدالت نے جو روئیہ اختیار کیا اور اپنے تجربے کی بنیادیں جس اصل پر  
قائم کیں وہ تمام تر فریقین کی مہیا کردہ تھیں۔ ایک سوال میں بہت سے سوال منم ہوتے گئے۔  
اگر مسئلہ محض مسئلہ کی حیثیت سے سامنے آتا تو یقینی تھا کہ تجربے کی صورت مختلف ہوتی لیکن  
تحقیقات کا دائرہ پھیلتا گیا اور "ملزموں" کی فہرست بڑھتی گئی۔ مولانا رضی احمد میکیش نے  
محاہبہ میں ایسے تمام "ملزموں" کی فہرست دی ہے جو فاضل نزع صاحبان کے ریمارکس کا  
تختہ مشق بنے لیکن صفائی میں اپنے حسب منشا گواہ یا وکیل پیش نہ کر سکے۔ ان کے نام  
یہ ہیں۔

- ① — مسلم و مومن کی تعریف۔
- ② — مسئلہ قتل مرتد۔
- ③ — مسئلہ جہاد۔
- ④ — مسئلہ مالِ غنیمت و خمس۔
- ⑤ — جمہوریت۔
- ⑥ — نمائندہ حکومت اور نفاذ قانون و استمعاظ آئین۔
- ⑦ — لہو و لعب اور اسلام۔
- ⑧ — آرٹ، اور اسلام۔

⑨ — اسلامی ریاست۔

⑩ — بین الاقوامی قوانین و مجالس اور اسلام۔

⑪ — احادیث و سنن۔

⑫ — کنونشن کے مطالبات۔

۶۔ احرار کی جماعتی دستار میں اس قسم کے موقی ٹاٹک دیئے گئے کہ:

الف۔ انہوں نے احمدیوں کے خلاف نہایت پست قسم کی دشنام طرازی اور مسخرگی سے کام لیا۔ ان کی پالیسی کا غالب اور بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ کسی کے ماتحت ہو کر کام نہیں کریں گے۔ اسی اصول کے ماتحت وہ کانگریس سے علیحدہ ہوئے۔ گو اس کے بعد بھی انہوں نے کانگریس سے ہٹنے جلنے اور اس کے آگے دم ہلانے کا رویہ جاری رکھا۔ (ججوں کی زبان ملاحظہ ہو۔ مولف)

ب۔ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے مذہب کا مسلسل استعمال کیا۔ انہوں نے کانگریس کو ترک کیا تو مذہبی وجوہ کی بنا پر مسلم لیگ اور پاکستان کی مخالفت کی تو وہ بھی مذہب ہی کی بنا پر۔

ج۔ ان کی نیتوں کو مسٹر قربان علی خان انسپکٹر جنرل پولیس سے بہتر کوئی نہ جانتا تھا۔

واللہ اعلم

ان کے متعلق ہم نرم الفاظ استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا طرز عمل بطور خاص مکروہ اور قابل نفرت تھا۔ کوئی احمق ہی ان کے دعویٰ مذہبیت سے دھوکا کھا سکتا ہے۔ خواجہ ناظم الدین نے ان کو دشمن پاکستان قرار دیا اور وہ اپنی گزشتہ سرگرمیوں کی وجہ سے اسی لقب کے مستحق تھے۔

۱۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ فیصلہ کرے گی دشمن پاکستان احرار تھے یا سپریم کورٹ کے چیت جسٹس مسٹر محمد منیر۔



۵۔ جو پارٹی پاکستان مسلم لیگ اور بس کے تمام لیڈروں کی مخالفت اور کانگریس کی محض ایک کینیڈیٹی اس کے لئے کیونکہ ممکن تھا کہ وہ اپنے گزشتہ نظریات کو ترک کر دیتی۔

(صفحہ ۲۷۲ تا ۲۷۸)

محولہ الفاظ سرکاری افسروں کی بے ضمیری کا منطقی نتیجہ تھے ستم یہ تھا کہ:

۱۔ احرار اپنا مقدمہ کما حقہ پیش کرنے سے قاصر رہے۔

ب۔ ان کے ایڈووکیٹ مظہر علی اظہر قائد اعظم کے بارے میں خود ایک مسئلہ

بن گئے۔

۳۔ چونکہ حکومت کا سارا نزلہ احرار پر گر رہا تھا اس لئے مارشل لا وغیرہ کی استواریت سے بچنے کے لئے ہر فرد اور ہر جماعت نے مشترکہ ڈیفنس سے گریز کیا۔

۵۔ مسئلہ، نزاع اور فساد اس طرح اکٹھے کئے گئے کہ مسئلہ دب گیا۔ نزاع پر

مباحث ہوتے رہے اور فساد کے برگ و بار کو ملحوظ رکھتے ہوئے رپورٹ کی بنیادیں

استوار کی گئیں۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل سی آئی ڈی نے تو تعریفاً احراری ہونا بدقسمتی سے تعبیر

کیا لیکن حقیقتاً احراری اپنی تمام تر صلاحیتوں اور عظیم قربانیوں کے باوجود بدقسمت ہی تھے

ان کی مثال بدقسمت جرمن قوم کی سی تھی کہ جاں نثاری کے باوجود ہر معرکہ میں ہار ان کا نوشتہ تقدیر ہی۔

تحریک خلافت میں احرار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ملک کے طول و عرض کو گریا

لیکن کھویا سب کچھ، پایا کچھ بھی نہیں۔ بہ قول اقبال ع

چومہ از گردش خود کا ستم من

کانگریس کے دوشی بدوش غیر ملکی حکومت سے لڑتے رہے۔ بارہا آگے نکلنے کی

کوشش کی مگر ع

سحر ہوئی تو گل و لالہ کا نشان نہ رہا

تحریک کشمیر کی نیواٹھائی اور حاصل ع

آبر کی برق باریاں نہ گئیں

## تین حادثے

غرض احرار کے لئے تین حادثے جان گسل ثابت ہوئے، پہلی بار شہید گنج کے جھگڑے میں آگے اور خواص کے ہاتھوں پٹنا پڑا۔ دوسری دفعہ تحریک پاکستان میں عوام کی شدید ناراضی نے سیاسی طور پر گورنر سے پہنچا دیا۔ تیسری بار قادیانیوں کے مقابلے میں ارباب اختیار کے قہر و غضب کا شکار ہو گئے۔ اولاً شہرت کھوئی، ثانیاً قیادت، ثالثاً جماعت گویا ہے

تھی اس خیال پر بنیاد آشیانے کی  
کہ بجلیوں کو تمنا ہے مسکرانے کی

## احمدیوں سے مسلمانوں کے اختلافات

بہر کیف فاضل حجوں نے رپورٹ میں تسلیم کیا:

- ۱۔ عامۃ المسلمین سے احمدیوں کے اختلافات کی عمر نصف صدی سے بھی زیادہ ہے۔
- ۲۔ (ملک کی) تقسیم سے پہلے وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے پروپگنڈے اور تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ قیام پاکستان سے صورت حالات بدل گئی اب احمدی یہ سمجھتے تھے کہ نقطہ نگاہ یا نقطہ کار کی تبدیلی کے بغیر بھی عوام میں، ان کی سرگرمیوں کے خلاف کوئی برہمی پیدا نہ ہوگی اور نئی مملکت میں ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا تو گویا وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے تھے۔

ان کی سرگرمیوں اور جارحانہ نشر و اشاعت میں بدلے ہوئے حالات کے باوجود کوئی تغیر پیدا نہ ہوا۔ غیر احمدی مسلمانوں کے خلاف دل آزار باتیں برابر کہی جاتی رہیں۔ میرزا محمود احمد کی کونٹہ کی تھری نہ صرف نامناسب بلکہ غیر مال اندیشانہ اور اشتعال انگیز تھی اس تھری میں انہوں نے بلوچستان کے صوبے کی پوری آبادی کو احمدی بنا لینے اور صوبے

کو مزید جدوجہد کے مرکز کی حیثیت سے استعمال کرنے کی علی الاعلان حمایت کی اسی طرح جب انہوں نے اپنے پیروؤں کو یہ ہدایت کی کہ تبلیغ احمدیت کے پروپگنڈے کو تیز کریں تاکہ ۱۹۵۲ء کے آخر تک پوری مسلم آبادی احمدیت کے آغوش میں آجائے تو گو یا مسلمانوں کو تبدیلی مذہب کے متعلق سرگرمیوں کا کھلا نوٹس دے دیا۔ احمدی افسروں نے لوگوں کو احمدی بنانے کی مہم میں از سر تا پا مصروف ہو جانا اپنا فریضہ خیال کیا۔

ذمخیمات از صفحہ ۲۷۹ تا ۲۸۰، اردو ترجمہ

۴۔ قادیانی اپنی مطبوعات میں مسلمانوں کی مقدس مصطلحات مثلاً امیر المؤمنین، ام المؤمنین، سیدہ النسا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہایت بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں ان کے استعمال پر فاضل جج تحریر فرماتے ہیں:

”ہمارا وظیفہ یہ نہیں کہ ہم اس امر کا فیصلہ کریں کہ آیا یہ نام صحیح طور پر استعمال کئے گئے یا نہیں؛ لیکن ان اصطلاحات کے استعمال سے مسلمانوں کے احساسات پر جراثیم ہوتا ہے اس کے متعلق ہمیں ذرہ بھر شک نہیں کہ یہ اصطلاحات اپنے مخصوص اور محدود استعمال کی وجہ سے مقدس بن چکی ہیں اور تاریخ اسلام کی بعض اعلیٰ ہستیوں کی یاد سے مختص ہو گئی ہیں۔ احمدیوں کے لٹریچر میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان (اہل بیت) کی بعض خواتین کے متعلق جو ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہماری رائے یہی ہے۔ اگرچہ اس شکایت کی ایک مثال غالباً زیادہ بیہودہ صورت میں قلاترا الجواہر میں بھی موجود ہے۔ بلاشبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی دوسرے زندہ یا مردہ شخص کے درمیان کسی قسم کا موازنہ ہر مومن کے لئے دل آزاری کا موجب ہے۔“

(رپورٹ انگریزی صفحہ ۱۹۷)

۵۔ جب مسلمانوں کے لئے ایک جداگانہ وطن کے امکانات اُفق پر نمودار ہونے لگے تو آنے والے واقعات کا سایہ احمدیوں کو فکر مند بنانے لگا۔ ۱۹۷۵ء سے لے کر

۱۹۴۷ء کے آغاز تک احمدیوں کی بعض تحریرات منکشف کرتی ہیں کہ وہ برطانیہ کا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے لیکن جب پاکستان کا دھندلا سا خواب ایک آنے والی حقیقت کی شکل اختیار کرنے لگا تو وہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے لئے اپنے آپ کو ایک نئی مملکت کے تصور پر راضی کرنا ذرا ٹیڑھی کھیر ہے، وہ ضرور اپنے آپ کو ایک عجیب شخصے میں بدلا محسوس کرتے ہوں گے کیونکہ وہ نہ تو ایک ہندو دنیوی حکومت یعنی ہندوستان کو اپنے لئے پسند کر سکتے تھے نہ پاکستان کو منتخب کر سکتے تھے۔ جہاں اس امر کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ اعتزال و تفریق کی سوسلہ افزائی کی جائے گی۔ ان کی بعض تحریرات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ تقسیم ملکی کے خلاف تھے لیکن اگر تقسیم معرض عمل میں آجائے تو وہ ملک کو از سر نو متحد کرنے کیلئے کوشاں رہیں گے۔

(رپورٹ انگریزی صفحہ ۱۹۶)

۶۔ ہم نے اس موضوع پر احمدیوں کے سابقہ اعلانات دیکھے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارے نزدیک یہ اعلانات اس کے سوا اور کسی تشریح کے حامل نہیں کہ جو لوگ میرزا غلام احمد پر ایمان نہیں رکھتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان حضرت رسول اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مامور من اللہ کے دعوے کو قبول نہ کرے وہ اللہ اور رسول کا منکر نہیں لہذا وہ امت میں داخل ہے یہ تو جہہ ان کے سابقہ اعلانات سے مختلف نہیں کہ دوسرے مسلمان کافر ہیں۔ حقیقت یہ الفاظ ان کے سابقہ اعتقاد کی بالواسطہ از سر نو تصدیق کرتے ہیں کہ ایسے لوگ صرف اسی معنی میں مسلمان ہیں کہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اس لحاظ سے ایسے سلوک کے مستحق ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے کے افراد سے ہونا چاہئے یہ بات یہ کہنے سے بہت مختلف ہے کہ وہ مسلمان ہیں کافر نہیں۔

(رپورٹ انگریزی صفحہ ۱۹۹)

۷۔ جب ۱۹۱۸ء میں انگلینڈ میں بغداد فتح کیا تو قادیان میں جشن فتح منایا گیا۔

اس بات نے مسلمانوں کے قلوب میں سخت رنج اور تلخی پیدا کر دی اور وہ احمدیت کو برطانیہ کی لوندھی خیال کرنے لگے۔  
(رپورٹ انگریزی صفحہ ۱۹۶)

### عدالت کے ریمارکس

جہاں منصب یہ نہیں کہ ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ آیا احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا نہیں۔ ہم اس امر کا فیصلہ غیر احمدیوں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ احمدیوں کی اس نئی پوزیشن کے بعد کہ میرزا غلام احمد نے کوئی شریعت لایا نہ اصلی شریعت منسوخ کی اور وہ صرف ان معنوں میں بنی تھا کہ خدا نے اسے الہام میں اسی طرح ظاہر کیا تھا اور کوئی شخص میرزا صاحب کی وحی پر ایمان نہ لانے سے خارج از اسلام قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (تلخیص احمدیوں کو مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں؟)

### علماء کی تسکست کا سبب

اس میدان "مجادلہ" میں علماء کو جو تسکست ہوئی اس کی وجہ مذہب نہیں بلکہ خاص سیاست تھی جس کے پس منظر میں نصف صدی پرانی تاریخ تھی اس کے علاوہ رپورٹ کے بین السطور میں دو متصاوم مدرسہ ہائے فکر کی آویزش صاف طور پر جھلکتی ہے۔

اولاً ملائیت جو اسلامی معاشرے میں زوال بغداد کے بعد ایک ناکارہ عنصر کی حیثیت رکھتی ہے جس نے قرآن کی قوت محرکہ کو اپنے انجام سے منسلک کر لیا اور جس کا عقلی تعطل دنیائی فکر کو محیط ہے۔

لے چار سے سا نبر تک کی تلخیصات مولانا ترفی احمد مکیش کے محولہ تراجم سے ماخوذ ہیں۔  
علامہ میرزا یوں نے انکواری کمیٹی کے روبرو مسلمانوں کے متعلق جو نئی پوزیشن اختیار کی اس کی راستی کا اندازہ میرزا غلام احمد قادیانی کے اس فتویٰ سے کیا جاسکتا ہے کہ "عدالتی مقدمات و بیانات میں اپنے فائدہ اور رہائی کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے"۔ (ذکر حبیب مرتبہ مفتی محمد صادق صفحہ ۴۶)

ثانیاً جدیدیت جس کی عمر مسلمانوں میں سو برس سے زائد نہیں اور جس کا دماغ یورپی فلسفے کے ان عقلی سانچوں میں ڈھلا ہے جو مذہب و سیاست کو دو مختلف خانوں میں رکھتے اور بسا اوقات ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے نظر آتے ہیں ان کے نزدیک مذہب محض عقیدہ ہے اور عقیدہ انسان کا انفرادی معاملہ۔ اس دلچسپ تکرار ہی کا نتیجہ تھا کہ علمائے اپنے کہن سال نظریوں سے باہر جھانکنا گوارا نہ کیا اور فضلاً (جدید تعلیم یافتہ) نے ان کی سیاسی نامرادیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے فکر و نظر کی توضیحات قبول نہ کیں۔

### علامہ اقبال کے نظریات

علامہ اقبال (علیہ الرحمۃ) کی بالغ نظری کو جدید و قدیم کی اس چپقلش کا تازیت احساس رہا۔ آپ نے احمدیت کے مسئلہ پر جو مضامین لکھے ان میں کئی جگہ اس عقدہ کو اپنے ناخن فکر سے کھولا ہے۔ فرماتے ہیں:

”نام نہاد تعلیم یافتہ مسلمانوں کو ختم نبوت کے عقیدے کی پوری سمجھ نہیں۔ انہوں نے ختم نبوت کے تمدنی پہلو پر کبھی غور نہیں کیا۔ مغربیت کی ہوائے انہیں حفظ نفس کے جذبے ہی سے عاری کر دیا ہے۔“

(حرف اقبال صفحہ ۱۵)

حضرت علامہ علیہ الرحمۃ کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ:

۱۔ ہندوستان میں اسلامی دینیات کی جو تاریخ ۶۱۷ء سے شروع ہوتی ہے اس کی روشنی ہی میں احمدیت کے اصل منظرون سمجھے جاسکتے ہیں۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں ۶۱۷ء کا سال بے حد اہم ہے اسی سال ٹیپو کو شکست ہوئی، اسی سال جنگ نواریہ وقوع پزیر ہوئی جس میں سر کی کا بڑا تباہ ہو گیا۔ سلطان ٹیپو علیہ الرحمۃ کے مزار پر مندرجہ تاریخ شہادت لکھتا ہے:

ذهب عزم الروم والہند کلہا

ترجمہ: ہندوستان اور روم کی عظمت ختم ہو گئی۔

۲۔ سلطان شہید کی شکست اور مغربی شہنشاہیت کی ایشیا میں آمد کے بعد اسلامی

ہندوستان میں چند اہم سوال پیدا ہو گئے مثلاً۔

الف - کیا اسلام میں خلافت کا تصور ایک مذہبی ادارے کو مشتمل ہے؟ ہندوستانی مسلمان اور وہ مسلمان جو ترکی سلطنت سے باہر ہیں، ترک کی خلافت سے کیا تعلق رکھتے ہیں۔

ب - ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالسلام؟

ج - اسلام میں نظریہ جہاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟

د - قرآن کی آیت "اولی الامر منکم" میں منکم کا مفہوم کیا ہے؟

ی - احادیث میں مہدی کے درود کی پیشین گوئی کیا نوعیت رکھتی ہے؟

اسی قبیل کے دوسرے سوالات جو بعد میں پیدا ہوئے ان کا تعلق بدابہتہ صرف

ہندوستانی مسلمانوں سے تھا اور ان سوالات سے جو مناقشات پیدا ہوئے وہ اسلامی ہند کی تاریخ کا افسوسناک باب تھے۔

۳ - چونکہ مسلمان عوام کو صرف ایک ہی چیز قطعی طور پر متاثر کر سکتی ہے اور وہ ربانی سند ہے لہذا غیر ملکی شہنشاہیت کی خدمت گزاری کے لئے ایک الہامی بنیاد ضروری سمجھی گئی جس کو احمدیت نے فراہم کیا۔

مسلمانوں کے مذہبی تفکر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی سیاسی غلامی کے

حق میں الہامی بنیاد فراہم کرنا تھا۔

لے لارڈ مورگنٹن گورنر جنرل ہندوستان نے سٹراپنسر برطانوی سفیر مقیم قسطنطنیہ کی وساطت سے خلیفۃ المسلمین سلطان سلیم ثالث والی روم سے ایک سفارشی خط ٹیپو کے نام حاصل کیا جس میں انگریزوں کو دوست قرار دے کر ان سے صلح کر لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں سلطان نے خلیفۃ المسلمین کو لکھا کہ آجکل چونکہ انگریز ہم سے لڑ رہے ہیں لہذا مسلمانوں پر ان سے جہاد فرض ہے۔

۴۔ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں جہاں دیگر اقطاع ہند کے مقابلے میں پیر پستی زیادہ سلسلے ہے تحریک احمدیت سیاسی دینیات کا درجہ رکھتی ہے بالخصوص پنجاب میں مبہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی سے مسخر کر لیتا ہے جو صدیوں سے ظلم و ستم کا شکار ہے۔

غرض احمدیت دوسرے اسباب کے علاوہ لوگوں کے روحانی افلاس کی پیداوار ہے۔ چنانچہ جن مباحث کو انکواری رپورٹ میں فاضل زچ صاحبان نے استفہامی علامت کے طور پر پیش کیا حضرت علامہ نے ان پر پچیس برس پہلے پنڈت جواہر لال نہرو اور روزنامہ ”اسٹیس مین“ دہلی کی تحریروں کے جواب میں قلم اٹھایا تھا۔ ان کا اسادہ تھا کہ انگریز قوم کو ایک کھدے خط میں قادیانیوں اور مسلمانوں کی نزاع کے معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں سے آگاہ کریں۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کی پوری قومی زندگی سے وابستہ تھا۔ علامہ فرماتے ہیں۔

۱۔ میں کسی مذہبی بحث میں اُبھنا نہیں چاہتا اور نہ قادیانی تحریک کے بانی ہی کا نفسیاتی تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلی چیز عام مسلمانوں کے لئے کچھ دلچسپی نہیں رکھتی اور دوسری کیلئے ہندوستان میں ابھی وقت نہیں آیا۔

۲۔ مسلمان ان تحریکوں کے معاملے میں زیادہ حساس ہے جو اس کی وحدت کے لئے خطرناک ہوں چنانچہ یہ ایسی مذہبی جماعت جو تاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو لیکن اپنی بنا نئی نبوت پر رکھے اور بنوعلم خود اپنے الہامات پر اعتقاد نہ رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطرہ تصور کرے گا اور یہ اس لئے کہ

۳۔ علامہ اقبالؒ نے اپنے معنایں میں اسے قادیانیوں اور مسلمانوں کی نزاع قرار دیا ہے لیکن سی آئی ڈی کے افسران مجاز اس کو احرار اور احمدی نزاع سے تعبیر کرتے ہیں۔



اسلامی وحدت ختم نبوت ہی سے استوار ہوتی ہے۔

۳۔ انسانیت کی تمدنی تاریخ میں ختم نبوت کا تخیل غالباً سب سے انوکھا تخیل ہے جس کا صحیح اندازہ مغربی اور وسط ایشیا کے موبدانہ تمدن کی تاریخ ہی سے ہو سکتا ہے۔

۴۔ بہائیت، قادیانیت سے کہیں زیادہ مخلص ہے کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے لیکن موخر الذکر اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں، ظاہری طور پر عام رکھتی ہے مگر باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے ٹھیک ہے۔

۵۔ قادیانی جماعت کی تمام تاویلین و ختم نبوت سے متعلق، محض اس غرض سے ہیں کہ اس کا شمار حلقہ اسلام میں ہو، تاکہ اسے سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔

۶۔ ختم نبوت (دوسری خصوصیتوں کے علاوہ) ایک اجتماعی اور سیاسی، لیکن مکمل اور ابدی تنظیم ہے جسے عرفاً اسلام کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں جس سے انکار کفر کو مستلزم ہو جو شخص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔ قادیانیوں کا اعتقاد ہے کہ تحریک احمدیت کا بانی ایسے ہی الہام کا حامل تھا لہذا وہ تمام عالم اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔

۷۔ جب میں بانی احمدیت کی نفسیات کا مطالعہ ان کے دعویٰ نبوت کی روشنی میں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے نبوت کے ثبوت میں پیغمبر اسلام کی تخلیقی قوت کو صرف ایک نبی یعنی تحریک احمدیت کے بانی کی پیدائش تک محدود کر کے پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے سے انکار کرتا ہے اس طرح یہ نیا پیغمبر چپکے سے اپنے روحانی مورث کی ختم النبی پر متصرف ہو جاتا ہے۔

۸۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے اس قول پر کہ ایک مسلمان ولی کے لئے اپنے روحانی ارتقا کے دوران میں اس قسم کا تجربہ حاصل کرنا ممکن ہے جو شعور نبوت سے مختص ہوتا ہے علامہ فرماتے ہیں اگر شیخ کو اپنے کشف میں یہ نظر آ جاتا کہ ایک روز مشرق میں چند ہندوستانی

جنہیں تصوف کا شوق ہے، ان کی صوفیانہ نفسیات کے پردے میں پیغمبر اسلام کی حرم المسلمینی سے انکار کر دیں گے تو وہ یقیناً علمائے ہند سے بھی پہلے مسلمانان عالم کو ایسے خدا مانِ اسلام سے متنبہ کر دیتے۔

۹۔ جب کسی قوم کی زندگی میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے تو انحطاط ہی الہام کا ماخذ بن جاتا ہے ان لوگوں کی قوتِ ارادی پر غور کر و جنہیں الہام کی بنیاد پر یہ تعلقین کی جاتی ہے کہ ایسے سیاسی ماحول کو اٹل سمجھو۔ پس مرے خیال میں وہ تمام اکیٹر جنہوں نے احمدیت کے ڈرامہ میں مقتدیا ہے زوال اور انحطاط کے با مقصود میں محض سادہ لوح کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔

۱۰۔ قادیانی اور نہرو مختلف وجوہ کی بنا پر اپنے دل میں مسلمانان ہند کے مذہبی اور سیاسی استحکام کو پسند نہیں کرتے۔ قادیانی بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی بیداری سے سخت مضطرب ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانان ہندوستان کے سیاسی نفوذ کی ترقی سے ان کا یہ مقصد فوت ہو جائے گا کہ پیغمبر عرب کی امت سے ہندوستانی پیغمبر کی ایک نئی امت تیار کریں۔

۱۱۔ میرزا محمود احمد اپنے خطبہ مندرجہ الفضل "قادیان جلد ۲۲ نمبر ۲۸۶ مورخہ ۱۱ جون ۱۹۳۶ء میں فرماتے ہیں۔

۱۔ "اگر پنڈت جواہر لال نہرو اعلان کر دیتے کہ احمدیت کو مٹانے کے لئے وہ اپنی تمام طاقت خرچ کر دیں گے جیسا کہ احرار نے کیا ہوا ہے تو ان کا استقبال بے غیرتی ہوتا۔ (قادیانیوں نے ۲۹ مئی ۱۹۳۶ء کو لاہور ریلوے سٹیشن پر پنڈت جواہر لال نہرو کا استقبال کیا تھا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ان مضامین کا رد لکھا جو ڈاکٹر صاحب نے احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ قرار دینے کے لئے سپرد قلم کئے تھے اور جن میں نہایت عمدگی سے ثابت کیا گیا،

۱۱۔ احمدیت اسلام کے ضوابط کو برقرار رکھتی لیکن اس قوتِ ارادوی کو فنا کر دیتی ہے جس کو اسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے۔

۱۲۔ میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا ہے۔

۱۳۔ سیاسی نقطہ نظر سے وحدتِ اسلامی اس وقت متزلزل ہو جاتی ہے جب اسلامی ریاستیں ایک دوسرے سے جنگ کرتی ہیں اور مذہبی نقطہ نظر سے اس وقت جب مسلمان بنیادی عقائد یا ارکانِ شریعت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اس ابدی وحدت کی خاطر اسلام اپنے دائرے میں کسی باغی جماعت کو روکا نہیں رکھتا۔ صرف اسلام کے دائرے سے باہر ایسی جماعت کے ساتھ دوسرے مذاہب کے پیروؤں کی طرح رواداری برتی جاسکتی ہے اور بس۔

### رواداری کا مفہوم

بعض دوسرے دلفریب مغالطوں کی طرح رواداری بھی انسانیت کے نام پر ایک خوشگن مغالطہ ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اسپینوزا کی جماعت بدری پر ڈیورنٹ کی وضاحت کا حوالہ دے کر لکھا کہ:

”جب کسی قوم کی سیاسی وحدت منتشر ہو تو مذہبی وحدت ہی اس کے وجود کو باقی

(۴) تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے احمدیت پر اعتراض نامعقول ہیں۔

ب۔ ڈاکٹر شکر داس نے لالہ لاجپت رائے کے اخبار ”بندے ماترم“ میں لکھا تھا مسلمانوں میں اگر کوئی تحریک عربی تہذیب اور پان اسلام ازم کا خاتمہ کر سکتی ہے تو وہ یہی احمدی تحریک ہے۔ جب کوئی مسلمان احمدی ہوتا ہے تو حضرت محمدؐ سے اس کی عقیدت کم ہو جاتی ہے اور نگاہیں کتے کے بجائے قادیان پر اٹھتی ہیں۔

رکھتی ہے اگر مذہبی وحدت میں انتشار پیدا ہونے کا امکان ہو تو الحاد، خداری اور رواداری  
 خودکشی بن جاتے ہیں۔ اس قسم کے معاملات میں جو لوگ رواداری کا نام لیتے ہیں وہ لفظ  
 رواداری کے استعمال میں بے حد غیر محتاط ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ اس لفظ کو  
 بالکل ہی نہیں سمجھتے۔ رواداری کی روح ذہن انسانی کے مختلف نقطہ ہائے نظر سے  
 پیدا ہوتی ہے۔ گین کہتا ہے کہ ایک رواداری فلسفی کی ہوتی ہے جس کے نزدیک تمام مذاہب  
 یکساں طور پر صحیح ہیں۔ ایک رواداری مورخ کی ہے جس کے نزدیک تمام مذاہب یکساں  
 طور پر غلط ہیں۔ ایک رواداری مدبر کی ہے جس کے نزدیک تمام مذاہب یکساں طور  
 پر مفید ہیں۔ ایک رواداری ایسے شخص کی ہے جو ہر نوعی فکر و عمل کے طریقوں کو روا رکھتا  
 ہے کیونکہ وہ ہر قسم کے فکر و عمل سے بے تعلق ہوتا ہے۔ ایک رواداری کمزور آدمی  
 کی ہے جو محض کمزوری کی وجہ سے ہر قسم کی ذلت کو جو اس کی محبوب اشیا یا اشخاص  
 پر کی جاتی ہے برداشت کر لیتا ہے۔ غرض رواداری کی تلقین کرنے والے اس شخص پر  
 عدم رواداری کا الزام لگانے میں غلطی کرتے ہیں جو اپنے مذہب کی سرحدوں کی حفاظت  
 کرتا ہے جو لوگ اس طرز عمل کو غلطی سے اعتدالی کٹری خیال کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ اس  
 طرز عمل میں حیاتیاتی قدر و قیمت مضمر ہے۔ آج کل کے تعلیم یافتہ مسلمان جو مسلمانوں  
 کے دینی مناقشات کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں۔ لفظ کفر کے غیر محتاط استعمال کو بھی ملت  
 اسلامیہ کے اجتماعی و سیاسی انتشار کی علامت تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل غلط تصور ہے، اسلامی  
 دینیات کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فروعی مسائل کے اختلاف میں ایک دوسرے پر الحاد کا  
 الزام لگانا باعث انتشار ہونے کی بجائے دینیاتی تفکر کو متحرک کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس  
 کا اعتراف پروفیسر ہرگراونج نے بھی کیا ہے۔ اگر کسی قوم کی وحدت خطرے میں ہو تو اس  
 کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ معاندانہ قوتوں کے خلاف اپنی مدافعت کرے اور  
 جس شخص کو اصل جماعت میں تلعب بالذہن کرتے پائے اس کی مزاحمت کیلئے تیار ہو پھر کیا

یہ مناسب ہے کہ اصل جماعت کو رواداری کی تلقین کی جائے حالانکہ اس کی وحدت خطرے میں جو اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ اگرچہ وہ تبلیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔

### علیحدگی کا مطالبہ

۱۔ اگر کوئی گروہ جو اصل جماعت کے نقطہ نظر سے باغی ہے اور حکومت کے لئے مفید ہے تو حکومت اس کی خدمات کا صلہ دینے کے لئے پوری طرح مجاز ہے لیکن وہ جماعت اگر ایسی قوتوں کو نظر انداز کر دے جو اس کے اجتماعی وجود کے لئے خطرہ ہیں تو یہ ایک عیب تو قع ہے۔

۲۔ میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریق کا یہ ہوگا کہ وہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کر لے۔ یہ قادیانیوں کی پالیسی کے صین مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے ویسی ہی رواداری سے کام لیں گے جیسی وہ باقی مذاہب کے معاملے میں اختیار کرتے ہیں۔

۳۔ قادیانیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جو انہوں نے مذہبی اور معاشرتی معاملات میں ایک نئی نبوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا محاذ رکھتے ہوئے آئینی قدم اٹھائے اور اس کا انتظام کرے کہ مسلمان کب ان کی علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔

۴۔ اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کے حدود مقرر ہیں یعنی وحدت الوہیت پر ایمان، انبیا پر ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت پر ایمان دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلمان اور نامسلمان کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ ایران میں بہانیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔

۵۔ ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیا کے اسلام سے متعلق ان کے رویے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ باقی تحریک نے ملت اسلامیہ کو سڑے ہوئے دودھ اور

اپنے پیروؤں کو تازہ دودھ سے تشبیہ دی ہے۔ ان کا بنیادی اصولوں سے انکار اپنی جماعت کا نیا نام، جمہور المسلمین سے اجتناب، ان کی نمازوں سے قطع تعلق، نکاح وغیرہ کے معاملوں میں مقاطعہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیائے اسلام کافر ہے، مسلمانوں سے ان کی علیحدگی پر دال ہے۔

۶۔ اس امر کو سمجھنے کے لئے کسی خاص ذیانت یا غور و فکر کی ضرورت نہیں کہ جب قادیانی مذہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو پھر سیاسی طور پر مسلمانوں میں رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟

۷۔ ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پورا پورا حق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے اگر حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نئے مذہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے؟

۸۔ قادیانیت مسلمانان ہند کی حیات ملی کے لئے اسپینوزا کی اس مابعد الطبیعات سے زیادہ خطرناک ہے جس سے یہود کو خطرہ تھا۔

۹۔ جب کوئی شخص اپنے ان ملحدانہ نظریات کو رواج دیتا ہے جن سے نظام جماعتی خطرے میں پڑ جائے تو ایک آزاد اسلامی ریاست یقیناً اس کا انسداد کرے گی۔

### اسلامی ریاست کا طرز عمل

لیکن آزاد اسلامی ریاست (پاکستان) نے اس بارے میں جس طرز عمل کو اپنایا کیا وہ انگریزوں سے زیادہ افسوسناک ہے۔ اس اغماض کے نتائج کا اسے احساس ہی نہیں کہ اس قسم کی رواداری سے یہاں کوئی ساندھیں سٹے باز بھی اپنی اغراض کی خاطر ایک نئی جماعت کھڑی کر سکتا ہے اور مسلمانوں کے سیاسی تجربے کی تاریخ میں مذہب و سلطنت کی علیحدگی محض وظائف کی علیحدگی ہے نہ کہ عقائد کی۔ (دیکھو حروف اقبال)

لہ علامہ اقبالؒ کے تمام اقتباسات ان مضامین سے ماخوذ ہیں جو اسلام اور (ص)

اب اگر ان قاطع دلائل اور واضح براہین کے بعد بھی دجن کے مصنف پاکستان کے نقاش علامہ اقبال علیہ الرحمۃ ہیں، احرار پر یہ تہمت لگی رہے کہ انہوں نے سیاسی اغراض کے تحت تحریک ختم نبوت کو جنم دیا اور ان کے پیش نظر پاکستان کی بربادی کے مقاصد تھے تو اس کو کم سے کم پولیس کی ایک مصنوعی ضمنی ہی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اب ریایہ ارشاد جیسا کہ فاضل جج صاحبان نے رپورٹ کے اوخر میں لکھا ہے کہ احراریوں سے ایسا برتاؤ کیا گیا گیا وہ خاندان کے افراد ہیں اور احمدیوں کو اجنبی سمجھا گیا۔

(صفحہ ۲۲)

تو اس کی ایک بااواسط بنیاد تحریک پاکستان کے بالکل ابتدائی دور میں مل جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے مولانا حسین احمد مدنی سے منسوب ایک تقریر پر کہ تو میں اوطان سے بنتی ہیں، ایک جوابی مضمون (مطبوعہ روزنامہ احسان، ۹ مارچ ۱۹۳۸ء) میں لکھا تھا کہ: "مولانا حسین احمد مدنی یا ان کے دیگر ہم خیالوں کے انکار میں نظریہ وطنیت ایک معنی میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو قادیانی انکار میں انکار خاتمیت کا نظریہ۔ بظاہر نظریہ وطنیت

(۴) قادیانیت کے موضوع پر آپ نے وقتاً فوقتاً سپرد قلم کئے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "حریت اقبال" از صفحہ ۱۲۱ تا ۱۲۶۔

لے رپورٹ میں احرار کے سیاسی اغراض کا بار بار ڈھنڈورا پیٹا گیا حالانکہ یہ ایک مہمل اصطلاح تھی شاہ جی اغراض تو ایک طرف رہے سیاسیات ہی سے بے نیاز تھے، بڑے عظیم کی تقسیم کے بعد احرار میں جو دو چار سیاسی کارکن رہ گئے تھے بالفرض وہ کوئی سیاسی فرض رکھتے تھے تو ان میں صفت دوم کا سیاست دان بھی کوئی نہ تھا اور نہ ان کی ذہنی سطح اتنی بلند تھی کہ وہ کوئی توانگہ "رچاکر اغراض حاصل کرتے اور اگر اغراض ہی ان کا مقصد تھے تو سیاسیات کی راہ سے بھی موصول ہو سکتے تھے۔

سیاسی نظریہ ہے اور قادیانی انکار خاتمیت الہیات کا ایک مسئلہ ہے لیکن ان دونوں میں ایک گہرا تعلق ہے۔“

مولانا حسین احمد مدنی نے اعلان فرمایا کہ مجھ سے جو الفاظ منسوب کئے گئے ہیں وہ غلط ہیں۔ اس پر حضرت علامہ نے معذرت کر لی لیکن یار لوگوں نے علامہ کے طنزیہ اشعار“ تو ان کی رحلت کے بعد ارمغان حجاز“ میں شریک کر لئے مگر معذرت کو بالارادہ فائب کر دیا حدیہ کہ جس شدت سے مولانا حسین احمد مدنی اور ان کی جماعت کے خلاف سیاسی پیٹ فارم سے پروپیگنڈا کیا گیا، میرزا غلام احمد اور قادیانی جماعت کے خلاف اس کا سوواں حصہ بھی ان حلقوں میں مفقود تھا اور ہے۔ خود اقبال کے مدرسہ فکر نے اس کو چھوڑا تک نہیں۔ اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ چنانچہ اس کا صحیح اشارہ ہمیں ایک غیر سیاسی لیکن مشہور طنز نگار ادیب جناب رشید احمد صدیقی پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی کے ہاں ملتا ہے وہ اپنے ایک مقالہ نیا ادب میری نظر میں“ میں لکھتے ہیں۔

”ہندو اور مسلمان دونوں کے دلوں میں مذہب کی وہ اہمیت و عظمت نہیں جو اہمیت و عظمت سیاسی لیڈروں کی ہے مسلم لیگ اور کانگرس دونوں خالصتہ سیاسی ادارے ہیں اور سیاسی توازن یا تقویٰ ہی کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ ان کا مذہب و اخلاق سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک مذہب کے احیا کا تعلق ہے نہ ہندو سرفروشی کے لئے آکلہ ہیں نہ مسلمان اور نہ کوئی اور قوم، البتہ مذہب کے نام اور قوم کی حیثیت سے ہندو مسلمان ایک دوسرے سے سخت بیزار ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو مذہب سے وہ شفقت نہیں جو دار فکلی ہندوؤں کو مہاتما گاندھی اور مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح سے ہے۔“

”نیا ادب میری نظر میں“ صفحہ ۱۱۲، ۱۱۳، مرتبہ آغا سرفروش قزلباش،

عرض شاہ جی کے خلاف رپورٹ میں جو کچھ لکھا گیا وہ جسٹس میز کا خیفہ باطن تھا۔ اس نزاع کے پس منظر میں احراری احمدی مسئلہ کے بجائے بعض دوسرے رجحانات کا رفرما



تھے۔ جسٹس منیر جیسے بے سرو پا انسان سے کوئی دوسری توقع ہی نہ تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جسٹس منیر شاہ جی کے معاملہ میں کبھی مخلص نہ تھے اور اس کی وجہ جسٹس منیر کے مذاق لہر و لعب پر اکثر و بیشتر شاہ جی کا طنز تھا۔ بہر حال شاہ جی نے سا لہا سال کی ان تھک جدوجہد سے کام لے کر مسلمانوں کے دل و دماغ سے قادیانیوں کو نہ صرف خارج کیا بلکہ انہیں ایک مذہبی سارق کے درجے میں لاکھڑا کیا۔ اور اب سیاسی حیثیت سے وہ ایک غیر سرکاری اقلیت میں کیونکہ انہیں مسلمانوں کے کسی حلقہ انتخاب میں بھی انتخابی قوت حاصل نہیں۔ البتہ پاکستان کی ہر حکمران جماعت ان کی پشت پناہ رہی ہے۔ وجہ معلوم کی گئی تو کہا گیا کہ مغرب کی استعماری طاقتیں ان کی پشت پناہی کرتی ہیں اور ان کے بغیر پاکستان کو امریکہ وغیرہ سے امداد ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔

بہر حال احرار کی سیاسی شکستوں کے پہلو بہ پہلو ان کی ذہنی فتح مندلیوں کے نقش و نگار اُجاگر ہوتے ہیں تو علامہ اقبالؒ کی یہ بات زیادہ صاف ہو کر سمجھ میں آتی ہے کہ:

”جو لوگ اپنے صحیح رجحانات پر اعتماد کر کے میدانِ عمل میں کود پڑتے ہیں ان

---

لے احرار نے ہمارے خلاف جو شورش پیدا کی ہے اس سے ڈر کر سارے مسلمانوں نے ہم کو علیحدہ کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ چودھری ظفر اللہ خان سے گورنر پنجاب نے کہا تھا کہ آپ کے مخالف صرف احرار ہی نہیں بلکہ سب قوموں اور فرقوں کے لوگ میرے پاس آ کر شکایتیں کرتے ہیں“ (خطبہ خلیفہ قادیان مطبوعہ الفضل ۱۵ نومبر ۱۹۳۸ء)

ایک معتبر دوست کی ثقہ روایت ہے کہ احرار کی قادیان پر لیغار کور کو آنے کے لئے چودھری سرفظ اللہ خان کی والدہ محترمہ نے بنات خود لارڈ ونگلٹن سے شکایت کی اور گورنر پنجاب کو ڈانٹ پلڑا کر حدود قادیان میں احرار کا نفرنس کو بند کرایا تھا۔

سے غلطیاں بھی ہوا کرتی ہیں لیکن تاریخ اقوام بتلاتی ہے کہ ان کی غلطیاں بھی بعض اوقات مفید نتائج پیدا کرتی ہیں کیونکہ ان کے اندر منطق نہیں بلکہ زندگی ہیجان برپا کرتی ہے۔

---

## لٹانی خطیب

شاہ جی اور خطابت یا رخا رتھے۔ پچھلی چار دہائیوں میں اُردو زبان نے اتنا بڑا خطیب پیدا نہیں کیا کہ جہاں بڑے بڑے زبان آوروں کی متاع سخن ختم ہو جاتی وہاں سے ان کی خطابت شروع ہوتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اصغر گوٹوسی کے مجموعہ کلام سرود زندگی کی تقریب میں شاعری کو کافی فرض کر کے لکھا ہے کہ ان کا کلام نصف شاعری ہے۔ اس خیال مستعار کے حوالے سے یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ شاہ جی کی خطابت نصف خطابت تھی۔ جس طرح قلم کا تصور بغیر تحریر بیکار ہے اسی طرح شاہ جی کے بغیر خطابت اور خطابت کے بغیر شاہ جی کا تصور بے رنگ تھا۔ دونوں آپس میں لازم و ملزوم تھے۔ اس پر معکم کی ایک تہائی صدی ان کی آوازوں سے معمور رہی۔ جس فیاضی سے انہوں نے مرحوم ہندوستان میں اپنی خطابت کے موتی بکھیرے گئی دوسرا مقرر اس میدان میں ان کا ہم پایہ نہیں گلگتے سے لے کر خیر تک اور سری نگر سے لے کر اس کمار ہی تک انہوں نے اپنے بادہ صافی کے خم پر خم لندھاٹے۔ شاذ ہی کسی میخوار کو شکایت ہو کہ عالم نشہ و سرور کی ان رعنائیوں میں اسے کوئی حصہ نہیں ملا۔

سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں سے رمضان کے تیس یا اسی دن اور عید و بقرعہ وغیرہ کے ایام چھوڑ کر باقی تین سو دن منور ایسے تھے جو انہوں نے چالیس برس تک

خطابت کی دشت پیمائی میں بسر کئے۔ اس میں سے قید کے نو یا دس سال نکال دیں تو ان تیس بتیس برس میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے کئی دفعہ مرتب ہو سکتے ہیں عجز پر ازغ، خونِ جگر سے جلائے ہیں ہم نے

## خطابت کا آغاز

اُردو خطابت کا صحیح آغاز دیوبند اور علی گڑھ کی تحریکوں کے ابتدائی دور سے ہوا۔ مدتِ العمر خطابت کا تصور تحریری رہا۔ ڈپٹی نذیر احمد اس میدان کے یکہ تازہ تھے۔ خطابت کا سیاسی عوامی تصور تحریکِ خلافت اور تحریکِ لاتعاون کے تقاضوں کی بدولت پیدا ہوا اور مقرروں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جس کا اس سے پہلے کوئی وجود نہ تھا اور اگر کہیں کوئی وجود تھا تو وہ مقرر نہیں واعظ تھے۔ اسی طرح عوامی خطابت کا تصور اسلامی تحریکوں اور جمہوری اداروں کے نشوونما کا نتیجہ ہے۔ پہلی جنگِ عظیم نے عالمی معاشرے کی ایک بہت بڑی عمارت کو ہلا ڈالا جس سے نہ صرف مسلمانوں کی جذباتی وابستگیوں کے بہت سے قلعے ڈھے گئے بلکہ انہیں بعض سخت قسم کی حیرانیوں سے دوچار ہونا پڑا لیکن دنیا کے ساتھ ہندوستان نے بھی تبدیلیاں قبول کیں جن سے سارا ملک حالات کی ایک نئی گرفت میں آ گیا۔ ہندوستان نہ صرف سیاسی تحریکوں کی خصوصیتوں سے آگاہ ہوا بلکہ انہیں اس تیزی سے اپنا یا کہ امر جہ و طبائع کا سراپا ہی بدل گیا۔ کئی رنگارنگ خیال پیدا ہونے لگے جن سے جوش و ہیجان کے وہ ادارے سامنے آ گئے جنہیں عوامی زبان میں جلتے جلیوس، مظاہرے اور مجاہدے کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تحریکِ ایک تقاضے سے پیدا ہوتی ہے اور یہ تقاضا نتیجہ ہوتا ہے خاص قسم کے حالات و جذبات کا ان حالات و جذبات نے ہندوستان میں خطابت کے ایک ایسے سکول کی بنیاد رکھی جس نے نہ صرف مقرروں کی ایک بڑی جماعت پیدا کی بلکہ اپنے خصائص و محاسن سے عوامی غور و فکر کی راہیں ہی بدل ڈالیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا ان میں کئی راہنماؤں نے نام پیدا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کے علم و نظر

کی وسعتوں اور مولانا محمد علی جوہرؒ کو ان کی قائدانہ صلاحیتوں نے صفت اول کے چند نامور مقرروں میں لاکھڑا کیا لیکن شہسواری کا سہرا اصلاً شاہ جی ہی کے سر پہا۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ نے زیادہ تر تخلیق کی زندگی بسر کی اور بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ دماغی خلوتوں سے باہر قدم رکھا۔ انہوں نے اپنی خطابت کا ایک دبذبہ اور احترام تو قائم کر لیا۔ لیکن اپنے آپ کو عوام کی سطح پر کبھی نہ لاسکے۔ مولانا اس معاملے میں ایک ایسے شکاری رسپے جس کا نشانہ شاہینوں اور کبوتروں پر یکساں بیٹھا ہے۔

محمد علی جوہر انگریزی اور اردو میں یکساں دستگاہ رکھتے تھے۔ ان کی طلاقت لسانی میں جلال و جمال دونوں تھے مگر علم و نظر کا وہ بہادانہ تھا جو مولانا ابوالکلام آزادؒ کے ہاں وافر رہا۔ ان دونوں کے برعکس شاہ جی کے ہاں خطابت کے سوا دوسری تمام خصوصیتیں ثانوی تھیں۔ بلکہ بالواسطہ یا بلاواسطہ خطابت ہی کی پیداوار تھیں۔ جس طرح ہر بڑے آدمی کی خصوصیت اس کا نام لیتے ہی حافظے کی لوح پر آجاتی ہے۔ مثلاً غالب کا نام لیتے ہی ایک عظیم شاعر کا تصور بندھتا ہے اسی طرح شاہ جی کی ذات خطابت سے منحصر ہو گئی۔ وہ سراپا خطابت تھے۔ شاعروں کی طرح خطیب بھی قدرت سے انعام لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ کسی اختیاری سانچے میں نہیں ڈھلتے۔ ان کا ملکہ بھی وہی ہوتا ہے ان کی دماغی بناوٹ میں خطابت کے خصائص از خود منضبط ہوتے ہیں پھر اس جوہر ذاتی کو مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ پر وہان چڑھانا ہے۔ شاہ جی پیدائشی خطیب تھے انہوں نے خطابت کو اختیار نہیں کیا بلکہ خطابت نے انہیں اختیار کیا تھا۔ وہ تمام محاسن و محامد جن سے خطابت استوار ہوتی ہے۔ قدرت نے ان میں کمال و تمام ودیعت کئے تھے وہ اپنی اسی فنی عظمت کے باعث دنیا کے ان بڑے مقرروں میں سے تھے جن کا نام ہمیشہ کے لئے جریدہ روزگار پر ثبت ہے۔

صحیح تصویر

ارسطو نے ایک خطیب کے جو محاسن بیان کئے اور ان سے ملامہ ابن رشد نے جو تلخیص

مرتب کی اور اس تلخیص پر فارابی اور ابن سینا نے جو مضامین حوالہ قلم کئے اور اب ڈیاستیفز (۳۲۲ ق م) اور سرود (۰۶ ق م) وغیرہ کے سوانحی خطوط سے خطابت کے جو اصول معلوم ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایڈمنڈ برک صہبان ابن غزال اور سعد زخلول وغیرہ کے مطالعے سے خطابت کی جن راہوں پر قدم اٹھتے ہیں اس گئے گزرے دور میں شاہ جی ان کی صحیح تصویر تھے۔ انہوں نے اس میدان میں ہر جہت سے ملک و قوم کی خدمت کی۔ علامہ ابن دشد کے متعلق روایت ہے کہ ان کی زندگی میں صرف دو راتیں ایسی تھیں جو مطالعے سے خالی رہ گئیں۔ پہلی شادی کی رات دوسری جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔

شاہ جی نے سی سالہ خطابتی زندگی کی ننانوے فی صد راتیں عوام سے مخاطبت میں بسر کیں۔ انہوں نے مذہب، سیاست، زبان تینوں کی خدمت کی۔ اگر وہ روایتی تبلیغی زندگی بسر کرتے تو سارے ہندوستان ان کے قدموں پر ہوتا۔ خود مسلمان قوم ان کی سورتی تراش لیتی لیکن انہوں نے ساہا سال مذہب کے نام پر تراشے کئے بہت توڑے۔ اس مہم میں انہیں ایسی ایسی جگہ جانا پڑا جہاں مسلمان کہلانے والے تو موجود تھے لیکن ان کے نام تک مسلمان نہ تھے۔ اسی پنجاب میں بے شمار آبادیاں ایسی تھیں جہاں مسلمانوں کو کلمہ شہادت ایک طرف رہا السلام علیکم کہنا نہ آتا تھا۔ ان میں ہندو مت کے زمانہ زوال کی رسمیں عقیدہ کے طور پر مروج تھیں۔ لوگوں میں مذہب ایک آبائی ورثہ رہ گیا تھا کئی علاقوں میں صورت حال کا نقشہ یہ تھا کہ غیر اللہ کی پرستش ہی کو اصل اسلام سمجھا جاتا تھا۔ شاہ جی نے ان دور افتادہ علاقوں کا قصد کیا تو ان کی راہ میں بیسیوں سفری موانعات تھے۔ ایک حصہ ریل میں طے کیا دوسرا لاری میں تیسرا گھوڑے کی پیٹھ پر چوڑھا پیدل، پھر کئی دفعہ سیلوں پیدل ہی چلتے گئے جس علاقے میں جاتے وہاں عام لوگ ان کی زبان نہ سمجھتے کچھ دن وہاں رہ کر مقامی لفظوں کا ایک ذخیرہ فراہم کرتے۔ تب ایک دلچسپ خطابتی ٹک و دو کے بعد ان کے دل و دماغ کو راضی کرتے غرض اس باب میں ان کے کارنامے بڑے ہی قابل قدر تھے مثلاً

## قابل قدر خدمات

۱- انہوں نے پنجابی مسلمانوں کے بعض علاقوں کی خطرناک مذہبی بد اعتقادیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جس سے بے شمار مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔

۲- جن علاقوں میں فرضی پیروں اور مصنوعی گدیوں کے خرابات تعمیر تھے مثلاً ملتان، ڈیرہ غازی خاں، مظفر گڑھ وغیرہ وہاں علی التواتر نعرہ جہاد بلند کیا۔ نتیجتاً ایک بڑی آبادی کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ ورنہ ان علاقوں میں اس قسم کے عقیدے راسخ ہو رہے تھے کہ پیروں کو اللہ و رسول سے افضل سمجھا جاتا۔ ان کے نفس کی نسوانی غذا کو حلال اور ان کی قدم بوتی کو شرع، قرآن پر قرالی کو ترجیح دی جاتی۔ عام فرزندان طریقت کسانوں کی بیٹیوں کو لٹکارتے کہ نبی کی بہو بننا پسند کرو گی

۳- قرآن کی بجائے دیہات میں ”یوسف زلیخا“، ”ہیرا انجھا“، ”سوہنی مہینوال“ اور ”میرزا صاحبان“ کے عشقیہ قصے عقیدہٴ حفظ کئے جاتے۔ اس بد مذاقی کا ظلم توڑا اور اس کی جگہ قرآن حکیم کی تلاوت کو عام کیا۔

۴- غربا میں یہ مقابلہ امر ارا احساس کمتری چھوت چھات سے بھی کمتر درجے تک موجود تھا۔ اس کی مزاحمت کی اور غریبوں کو حفظ نفس پر آمادہ کیا۔

۵- جن علاقوں میں مسلمان تجارت کو چھوتے نہیں تھے وہاں لگاتار کوششوں سے تجارت کا ذوق پیدا کیا اور بے شمار بستیوں میں مسلمانوں کی دکانیں کھلوائیں۔

۶- پنجاب کے عام مسلمان معاشی اعتبار سے اس قدر پس ماندہ تھے کہ مظفر گڑھ اور میانوالی کے بعض مسلمان مزارعین نے ہندو ساہوکاروں کے پاس اپنی میٹیاں گروی رکھ کر مالیہ ادا کیا تھا۔ ان بچیوں نے مہاجنوں کے گھروں میں بچے جنسے شاہ جی نے ان غرناک سانحات کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں میں مجلسی یا معاشی فروتر سی کا جو احساس جوڑ پکڑ چکا تھا اس کی بنیادیں اکھاڑ دیں۔

۷۔ عام مسلمانوں کو قرآن اور اسلام سمجھایا کہ انسانی فضیلت کی بنیادیں خاندانی تقاضا پر قائم نہیں ہوتیں بلکہ ہر انسان اپنے علم و دیانت اور زہد و تقویٰ کے باعث قابلِ مکیم ہے۔

۸۔ انگریزوں نے ملا کو تعلقین جہاد کی پاداش میں بہار کے گھیاریوں کی سطح پر لاکھڑا کیا تھا یعنی خوانین علاقہ انہیں کین سمجھتے تھے اور امتداد زمانہ نے انہیں لکڑا بنا دیا تھا۔ شاہ جی علما کی اس اہانت کے خلاف نہ صرف سینہ سپر ہو گئے بلکہ ان کی بحالی عزت کو اپنے اوپر فرض کر لیا۔

۹۔ تمام صوبوں میں بے شمار دینی مدرسے کھلائے اور انہیں خود کتنی بنانے کیلئے عامۃ المسلمین سے ذرا عانت فراہم کیا۔

۱۰۔ قرآن مجید کی بعض آیات کے ان غلط ترجموں کو فاش کیا جن میں انگریزوں کی مصلحت کو مقدم رکھا گیا تھا۔

۱۱۔ کلام اللہ کی ان آیات کو تقریروں میں بیان کرنا شروع کیا جنہیں ایک مدت سے زخم رسیدہ علماء نے انگریزی دہلی کے خوف سے طاق نسیاں پر رکھ چھوڑا تھا۔

۱۲۔ انگریزوں کی فڈر میں فتوحات کے بعد عیسائی مشنریوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے انہوں نے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو اپنی بدگوئی کا مرکز بنا رکھا تھا۔ جس سے ہفتوات کا ایک لایعنی و فر تیار ہو گیا۔ اس فتنے کے بانی یوپی کے لیفٹیننٹ گورنر مرویم مور تھے ان کی دیکھا دیکھی ہندوؤں بالخصوص آریہ سماجیوں نے بھی منہ کھولا جس سے بالآخر شہی کی تحریک پیدا ہوئی۔ اس تحریک نے لیکھ رام اور ارجپال پیدا کئے۔ شاہ جی نے ناموس پیغمبر کی حفاظت کا ایک ایسا ذہن تیار کیا کہ ارجپال کی دریدہ دہنی پر حبس و لیپ سنگھ کا فیصلہ تعزیرات ہند میں نہ صرف ۱۹۲ الف کے ایزاد کا موجب بنا بلکہ مسلمانوں نے اس فرض کو اپنے ہاتھوں پورا کر کے ان بدسگالوں کا راستہ بند کر دیا جن کی بے قابو زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قینچی کی طرح چلتی تھیں۔



۱۳۔ مبلغین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے نہ صرف بدعات کے خلاف جہاد کیا بلکہ منکرات کی راہ روک لی۔ اس سے بنیادی اجتماعی فائدہ یہ پہنچا کہ مسلمانوں میں اسلامیات سے دماغی شغف کا رشتہ مقابلتہ مضبوط ہو گیا۔ — !

وقت کے نامور علما کو شاہ جی کی ان دینی خدمات کا ہمیشہ اعتراف رہا۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا، شاہ جی کی باتیں تو عطا رتبی ہوتی ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کا ارشاد تھا، شاہ جی آپ تو اسلام کی مشین ہوئے۔ مولانا آزادؒ نے کہا یہ پورہ دور ان کا شکر گزار ہے۔ مفتی کفایت اللہؒ فرماتے تھے، عطا۔ اللہ شاہ علما کی آبرو ہیں۔ علامہ انور شاہ نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

### سیاسی خدمات

- ۱۔ مسلمانوں میں خصوصیت سے اینٹی برٹش ذہن کی آبیاری کی جس سے ایک بڑے گروہ میں خلافت استعمار جذبہ استوار ہوتا گیا۔
- ۲۔ پنجاب بالخصوص دیہات میں انگریزی حکومت کے کارندوں کا جو رعب تھا اس کو زیادہ سے زیادہ خاک بسر کیا اور جاگیر داروں کی بہمیت کا حصار توڑا۔
- ۳۔ جماعت احرار کو ایسی تحریک بنایا جسے عرف عام میں اسلامی بنیادوں پر طبقاتی شعور کی تحریک کہا جاسکتا ہے۔
- ۴۔ پنجاب انگریزوں کے استعماری مقاصد کی چھاؤنی تھا۔ اس چھاؤنی کے عسکری ہن میں دراڑ پیدا کی۔
- ۵۔ شہری زندگی کے انگریز دوست عناصر پر لگاتار تار بٹ توڑ حملے کئے جس سے نہ صرف ان وفادار خاندانوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی بلکہ عامۃ الناس میں وہ ایک سیاسی گالی ہو گئے۔

۶۔ وہ مخصوص خاندان مسلمانوں کی سیاست علی پر پھائے ہوئے تھے انہیں اس التزام سے تارنا شروع کیا کہ قوم کے ایک حصہ کا اندازہ فکر ان خاندانوں کے حصر مقاصد سے باہر آگیا۔

۷۔ مسلمانوں کی قومی زندگی میں اجتماعی نظام کی راہ پیدا کی اور انہیں احساس دلایا کہ ان کے بہت سے ایسے بنیادی حقوق بھی ہیں جنہیں انگریزوں نے غصب کیا تھا اور جو انہی سے واپس طلب کئے جاسکتے ہیں۔

غرض سیاسیات میں خطابتی اعتبار سے ان کا وہی رول رہا جو ادبیات میں جوش ملیح آبادی کا تھا۔ لیکن دونوں کا فرق مراتب ظاہر ہے۔ جوش کو شاہ جی سے کوئی نسبت نہیں۔ گاندھی جی فرماتے تھے: ”شاہ جی آپ تو لوگوں پر جادو کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ارشاد تھا میرے بھائی اللہ کے ہاں آپ کا بڑا اجر ہے۔“

### بے مثال ساحر

مولانا محمد علی کے زیر صدارت ۱۹۲۶ء میں ایک جلسہ عام دہلی دروازہ لاہور کے باغ میں منعقد ہوا۔ اس جلسہ کے تاثرات قلمبند کرتے ہوئے مولانا نے ”ہمدرد“ میں لکھا کاسیانی کا سہرا اس بے مثال مقرر کے سر رہا جن کا نام سید عطا اللہ شاہ سنھاری ہے۔ ان کی قرآن خوانی ان کی اردو، ان کی پنجابی، ان کی مسانت، ان کی ظرافت غرض ہر چیز نے سامعین کو مسحور کئے رکھا۔ لوگوں کا تقاضا تھا کہ شاہ صاحب اپنی تقریر جاری رکھیں۔ شاہ صاحب بھی تیار تھے مگر میرے کہنے سے انکار کر دیا۔ جلسہ غالباً دو بجے شب ختم ہوا۔ ورنہ وہیں صبح ہو جاتی۔“

”زمیندار“ میں بھی مولانا کے ان تاثرات کا خلاصہ چھپا تھا۔ مولانا محمد علی نے فرمایا: ”شاہ جی! تم نے لوگوں پر جادو کر دیا تھا۔ وہ تمہاری تقریر سے اتنے بے خود تھے کہ تم ان سے کوئی غلط کام کرنا چاہتے تو وہ فوراً گر بیٹھتے۔ جو قدرت تم کو اپنی زبان پر ہے

وہ خدا داد ہے بلکہ خدا کی ایک بڑی نعمت، لیکن یہ نعمت خطرناک نہیں ہو سکتی ہے۔ عوام کے سامنے ہر مسئلہ کے دونوں رخ پیش کر دیا کرو تاکہ ان کی قوت فیصلہ میں ترقی ہو ورنہ تم پر ایک ایسی مسولیت عائد ہوتی ہے جس کا نتیجہ غربی کے ساتھ غربانی بھی ہو سکتا ہے۔“

شاہ جی کا بیان تھا کہ ان سے مولانا نے کہا تھا:

”جہائی اگر تم لوگوں کے لئے مرغن غذاؤں کا یہ دسترخوان بچھاتے رہے تو ہمارے

ساگ ستو کو کون پوچھے گا؟“

### لسانی خدمات،

تقریباً سبھی خطبہ میں زبان و بیان کی سجاوٹ ہوتی ہے مگر وہ لسانیات میں تخلیقی حصہ نہیں لیتے لیکن مولانا ابوالکلام آزادؒ، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خاں اس سے مستثنیٰ

ہیں اور اس کی وجہ ان کا ادیب ہونا ہے۔ ان ہر سہ حضرات نے اردو زبان کو سیکڑوں سیاسی الفاظ اور سیاسی مصطلحات دیں بلکہ اردو کا سیاسی لغت تیار کرنے میں ان حضرات کا نمایاں حصہ تھا لیکن شاہ جی نے محض ایک خطیب ہو کر اردو کو بہت کچھ دیا۔

۱۔ انہوں نے اردو خطابت میں بے ساختہ پن پیدا کیا اور اپنے طرز بیان سے ثابت

کیا کہ نفاست زبان ہی خطابت کا حقیقی جوہر ہے۔

۲۔ بعض سیاسی حالات کی مطابقت سے بیسیوں محاورے اور کتنی ہی اچھوتی

ترکیبیں ایجاد کیں جن کا اس سے پہلے اردو میں تصور تک نہ تھا۔

۳۔ جن علاقوں (باخصوص پنجاب کے شمال مغربی اضلاع) میں اردو کا وجود اجنبی تھا

وہاں نہ صرف اردو کا مذاق عام کیا بلکہ لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ اردو کو دفتری ضروریات کے

بجائے قومی ثقافت کا حصہ سمجھیں۔

۴۔ اردو کو پنجابی خاندانوں کے ڈرائیگ روموں سے نکالا اور کوچہ و بازار تک پہنچانے

میں گراں قدر حصہ لیا۔

۵۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی انشا اور شاہ جہی کی خطابت میں واضح تفاوت کے باوجود ایک گونہ مماثلت ہے۔ مولانا کی تحریروں میں عبارت کے ہر موڑ پر اساتذہ کے اشعار لکھنے کی طرح جڑے ملتے ہیں۔ شاہ جہی کی تقریروں میں برجستہ شعر اس طرح وارد ہوتے تھے کہ ان کی چمک دمک میں اضافہ ہو جاتا۔ مولانا اپنی تحریروں کو قرآن مجید کی آیات سے مرصع فرماتے۔ شاہ جہی اپنی تقریروں میں آیات کو ہیرے کی طرح ٹانکتے۔

### اقسام خطابت

آج خطابت کئی شکلوں میں بٹ گئی ہے۔ انگریزی میں اس کی چار قسمیں ہیں۔

① عوامی خطابت

② پارلیمانی خطابت

③ مباحثاتی خطابت

④ ضیافتی خطابت

لیکن بعض مشرقی نقاد اس میں مزید تنوع اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔

اولاً علمی مقررہ جو علم و نظر اور فلسفہ و فکر کے مسائل پر بولتے ہیں۔

ثانیاً ادبی مقررہ، جن کا میدان شعر و ادب تک محدود ہوتا ہے۔

ثالثاً سیاسی مقررہ جو وقت کے سیاسی مسائل پر سوچ، سچا اور تحریک و جہاد کا ذہن

تیار کرتے ہیں۔

رابعاً پارلیمانی مقررہ جو دستوری مقرروں ہی کی توام شاخ ہیں ان کی زبان اوری کا

میدان مجالس مقننہ میں ہے۔

خامساً ضیافتی مقررہ جو کلام بعد از طعام کے مظہر ہوتے ہیں۔

سادساً عوامی مقررہ، جو سیاسی تحریک پیدا کرتے اور عوام کو الانعام میں وحدت

خیال پیدا کر کے انہیں حرکت و عمل کی راہ پر لاتے ہیں۔

سابعاً مذہبی مقرر، جنہیں واعظ بھی کہا جاتا ہے ان لوگوں کا دائرہ بیان دنیا کے ایسا نیاتی پہلو تک محدود ہوتا ہے۔

شاہجی دستوری مقرر تو قطعاً نہ تھے لیکن دوسری تمام خصوصیتوں میں سربر آوردہ تھے۔ اس سارے دور میں ان سے بڑا کوئی عوامی خطیب نہ تھا۔ جو چیز خطابت میں اولیت رکھتی وہ آواز ہے اور آواز بھی سانچے میں ڈھلی ہوئی پاٹ دار، دوسرا درجہ زبان میں مہارت کا ہے۔ شاہجی قدرت کے ان دونوں سماعت سے بہرہ ور تھے۔ ان کی آواز میں گھن گرج کے علاوہ ایک سچ دھج تھی ان کے گلے کی گراں ساؤنڈ مشین کی طرح کام کرتی۔ انہیں الفاظ کے آثار چبھناؤ کے ساتھ آواز کے نشیب و فراز کا محل استعمال معلوم تھا۔

### خطیب کے خصائص

جن لوگوں نے خطابت کے اصول مدون کئے ہیں ان کے نزدیک ایک خطیب کی بنیادی خصوصیتیں یہ ہیں۔

- ① بے ریا کردار، جس سے خطیب کی شخصیت ترکیب پاتی ہے۔
- ② نصب العین، جس سے جماعت میں وحدت فکر پیدا ہوتی ہے۔
- ③ صداقت شعاری، جس پر سامعین ہمہ تن گوش ہوتے ہیں۔
- ④ اخلاص، جس سے زور بیان نکھرتا ہے۔
- ⑤ وجاہت ذاتی، جس سے عوام مرعوب ہوتے ہیں۔
- ⑥ باخبر ذہن، جس سے مقرر کا اعتماد بڑھتا ہے۔
- ⑦ اشارات، جو الفاظ کے سفیر ہو کر ان کی طاقت میں تائیدی اضافہ کرتے ہیں۔
- ⑧ مرتب آواز، جس کا خطابت سے وہی رشتہ ہے جو سورج سے کرنوں کا ہے۔
- ⑨ صحیح تلفظ۔ جس سے خطابت کی خوبصورتی مہکتی ہے۔

۱۰) محل شناسی، جس سے خطابت کی عظمت بڑھتی ہے۔

۱۱) فہم عامہ، جس سے خطابت کی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔

۱۲) مطالعہ، جس کے بغیر خطابت محض ایک آواز ہے۔

۱۳) مشاہدہ، ہم اسے خطابت کی بینائی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

اور یہ تمام خصوصیتیں شاہ جی میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ جن لوگوں نے خطبا کے ان اوصاف کو مرتب کیا ان کی نظریں اصل میں بڑے بڑے مقرروں کے احوال و واقعات پر تھیں۔

### خطابت کے اجزائے ترکیبی

۱) سلاست، جس سے آواز میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔

۲) مستعدی، جس کا دوسرا نام برجستہ گوئی اور حاضر جوابی ہے۔

۳) مزاج، جس سے طبیعتوں کی تھکاوٹ رفع ہوتی ہے۔

۴) تجربہ، جس سے قوت بیان واضح ہوتی ہے۔

۵) تمثیلات، جس سے دلائل کو تقویت پہنچتی ہے۔

۶) تکنیک، جس پر خطابت کے موثرات کا انحصار ہے۔

۷) دعویٰ، جس کے بغیر خطابت میں یقین پیدا نہیں ہوتا۔

۸) اشارات، جنہیں الفاظ و مطالب کی امدادی سپاہ بھی کہا جاتا ہے۔

۹) استدلال، جس کے بغیر خطابت الفاظ کا نقارخانہ ہے۔

۱۰) اسلوب، خطابت کا پیراہن،

۱۱) اُتیح، بناؤ شگھار۔

۱۲) انفرادیت، جو مقرر کو صاحب طرز بناتی ہے۔

ان اجزا کی مثال طبی نسخہ کی سی ہے کہ ہر ججز کا ایک وزن ہے۔ شاہ جی کی خطابت

میں ہر ججز جھلکتا نہیں بولتا تھا۔

## شاہ جی کا جادو

لیکن بعض خصوصیتیں صرف شاہ جی کے لئے مخصوص تھیں۔ مثلاً وہ مخاطبین کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے اس تیزی سے سامعین کو اپنے ساتھ بہا لے جا۔ تھے کہ ان میں حرکت یا جذبے کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ سب سے بڑی بات عوام سے ان کی محبت تھی وہ عوام میں گھلتے ملتے اور انہیں جھنجھوڑتے جگاتے تھے ان کے ہجے میں ستمی تھی درشتی نہیں بھند تھا ان مقام نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کی طاقت ہی اصل طاقت ہے انہیں احساس تھا کہ ہر بات جو زبان سے ادا ہو وہ امام شافعی کے الفاظ میں پتھر سے زیادہ سخت، سوزی سے زیادہ چھینے والی، ایلوسے سے زیادہ کڑوی، ہچکی کے پاٹ سے زیادہ پھرنے والی اور لوک سنان سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ان کے ہاں ہر سخن کی ترازو تھی۔ ان کے الفاظ تل کر نکلتے تھے ان کے ہاں طنز تھا سخت قسم کا طنز لیکن سب و شتم نہیں۔ جن چیزوں سے نفور تھے ان سے تمسخر بھی روا رکھتے۔ ان کے ہاں اس تمسخر یا پھکڑ کی زد سب سے زیادہ میرزا غلام احمد دہلوی اور ان کی ذریعات پر پڑتی۔ یا پھر وہ رجعت پسند قوتیں جن سے ملک و قوم کو نقصان پہنچ چکا یا پہنچ رہا تھا۔ چپڑٹن کے نزدیک طنز یا سائز کے معنی ہیں ایک سو کو اس سے بھی زیادہ مکروہ شکل میں پیش کرنا جیسا کہ خود خدا نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن ایک دوسری تعریف یہ ہے کہ بعض طنزیں صحیح ہوتی ہیں۔ بعض محض دلچسپ، لیکن سب سے زیادہ موثر وہ ہوتی ہیں جو برجستہ ہوں۔ شاہ جی کے ہاں پہلو دار طنزیں مطلق نہیں تھیں۔ صرف برجستہ طنزیں تھیں جو عوام کے منفی جذبات کو شکل کرنے میں خاصی موثر ہوتی ہیں۔

آغشتہ ایم ہر مرخار سے بہ خون دل

قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم

چراغ حسن حسرت نے ان کی تقریر کو غزل سے تشبیہ دی ہے کہ اس کا ہر شعر علمیدہ امد کمل ہوتا ہے۔ یہ دوسرے عوامی خطابت کی جان ہے جو بات اسٹیج سے کہی جائے اس میں

اعادہ و تکرار ضروری ہیں۔ اس کی مثال اس تصویر کی سی ہے جو مختلف رنگوں اور مختلف خطوں سے تیار ہوتی اور مختلف طبیعتوں پر مختلف اثر ڈالتی ہے۔

شاہ جی نے زندگی بھر اتنی تقریریں کیں کہ ان کے لئے تیاری کی ضرورت اصنافی ہو گئی تھی۔ حالانکہ تقریر تیاری کے بغیر محض پوست ہے وہ جلسہ میں جانے سے گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے تخلیق میں آرام فرماتے، پھر تازہ دم ہو کر بولتے۔ ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے موضوع یا مضامین چننے، پھر ان کی طرفگی کو اس طرح سمجھاتے کہ ہر بول دل میں اتر جاتا تھا۔ انہوں نے زندگی بھر خطابت کے سیکڑوں معرکے سر کئے اور ہمیشہ ایک مغنی آتش نفس کی طرح روح خیال میں اترتے گئے۔ بسا اوقات ان کے زور بیان سے دھوکا ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ گویا قرن اول کے مجاہدات کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ان کے موضوع اور مضمون ہمیشہ ہی وسیع رہے۔ نہ خود تھکے نہ دوسروں کو تھکنے دیتے۔ انہوں نے لوگوں کی نیندوں کو اپنی سحر بیانی سے خرید لیا۔

ان کی کوئی سی تقریر بھی دو گھنٹے سے کم میں ختم نہ ہوتی۔ آتش جوان تھا، تو وہ نگار چار چار اور چھ چھ گھنٹے تک لوگوں کو مبہوت کئے رکھتے۔ بیشتر تقریریں رات نو بجے شروع ہو کر اذان فجر تک جاری رہتیں۔ امر وہہ میں مسلسل تین دن تک تقریر کی۔ آخری عمر میں کسی پر بیٹھ کر تقریر کرتے۔ ایک دفعہ کسی جلسہ میں شمول کا وعدہ کر چکے تھے سو اتفاق سے اسی روز بیمار ہو گئے مگر وعدہ پورا کیا۔ چار پائی پریٹ کر دو گھنٹے تک بولتے رہے اور لوگ تھے کہ نقش کا لہجہ ہو گئے۔

### خطابتی معرکے

جن لوگوں نے ان کی خطابتی معجزے دیکھے ہیں انہیں ایسے بے شمار واقعات کا علم ہو گا کہ ہزاروں انسانوں کا جم غفیر ان فواید میں اکائی کی صورت اختیار کر گیا۔ لوگ سنتے اور مردھنتے۔ بارہا ایسا ہوا کہ ہوا مسموم ہے اور نقصا مذموم۔ جتنے بیٹھے ہیں، مخالفت برکے



بیٹھے ہیں۔ شاہ جی آئے، نقد و نظر کی نگاہیں اٹھ گئیں اور چہروں پر خندہ استہزاد چھیل گیا۔ بعض لوگ مجرم طعن و تشنیع ہو گئے۔ کتوں نے مٹھا کیا۔ ہجوم کے ہونٹوں پر قہقہے اُبھرنے لگے لیکن ادھر شاہ جی نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور گونج دار آواز میں فرمایا۔

صدر محترم اور تماشائی بھائیو! ادھر کچھ تنقیدی چہروں سے ہلکی سے مسکراہٹ جھانکنے لگی۔

فرمایا: مجھے لاہور آئے ہوئے ہیں سال ہو گئے، بڑھا ہو گیا لیکن ہنوز یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ میں کیا، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں غرض کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آخر آپ کو کون الفاظ سے مخاطب کروں۔۔۔۔۔ (قہقہہ)

قرآن کی آیتیں، اردو فارسی کے اشعار، انمول فقرے، پنجابی طنز، لہجہ نشیلات، خوشگوار لطافت، کھلتے اور کھرتے چلے جا رہے ہیں۔ آواز میں لہجہ، گلے میں رس، چہرے پر لطیفہ، مضمون پر اعتماد، گویا پھول شاخوں سے جھرتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں، لوگ روتے ہیں، ابھی قہقہہ ابھی آنسو۔

چاروں طرف تاریک شام ہے، نصف رات گزر چکی، نصف باقی ہے، بسببی کے ایک کھلے میدان میں جلسہ عام ہے۔ سمندر کی لہریں مٹھری مٹھری نظر آتی ہیں۔ شاہ جی نے قرآن پڑھا شروع کیا۔ پڑھتے گئے پندرہ منٹ قرآن، پانچ منٹ ترجمہ، دس منٹ تفسیر۔۔۔۔۔ پھر شعر۔۔۔۔۔ پھر قرآن۔۔۔۔۔ رات کمر کھولتی ہے شاہ جی مضمون باندھتے ہیں، ادھر صبح ہوتی ہے ادھر ہندو کینائیں داد دے اٹھتی ہیں کہ شاہ جی تو ریشیوں کی زبان بولتے ہیں۔

ہمارے کئی ہندو دست شاہ جی کی تقریر صرف اس لئے سنتے تھے کہ انہیں شاہ جی کا قرآن پڑھنا اچھا لگتا تھا۔

۱۹۴۷ء میں یوپی امدار کانفرنس کا اجلاس بجنور میں ہو رہا تھا۔ شاہ جی نے اجلاس

شبیزہ میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو گھنٹہ بھر قرآن ہی پڑھتے چلے گئے مجال ہے کہ ایک آدمی بھی مجمع سے ہلا ہو۔ تمام لوگ ہاتھ کی لکیروں کی طرح جمے بیٹھے تھے۔ شاہ جی قرآن مانا رہے تھے اور محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے اور معنادار و مہ کی پہاڑیوں میں گونجتی ہوئی سورتیں بجز کے اُفق سے اُتر رہی ہیں۔

”انجمن خدام الدین“ کا سالانہ اجلاس مارچ ۱۹۳۰ء میں منعقد ہوا۔ وہاں اس زمانے کی تقریر کی کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر امیر شریعت منتخب کئے گئے۔ پانچ سو علماء نے بیعت کی جن میں مولانا ظفر علی خاں مرحوم و مغفور بھی شامل تھے۔

سائنس کمیشن کی آمد پر تمام ملک میں تاریخی مظاہرے کئے گئے۔ الہ آباد میں سائنس کمیشن کی ارتھی نکال کر اسے گنگا و جمنہ کے سنگم پر بلایا گیا۔ پنڈت موتی لال نہرو کی صدارت میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ جن میں بڑے بڑے مقرروں نے واد سخن حاصل کی۔ شاہ جی سب سے آخر میں بولنے اُٹھے تو بولنے کے لئے یہ ظاہر ہوئی نکتہ باقی نہ رہا تھا لیکن غالب کے اس شعر کو اس کیفیت سے پڑھا کہ خود پنڈت موتی لال نہرو و جہوم جہوم گئے سے

ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہو سکیوں شوق دریا

نہ کہیں جنازہ اٹھنا، نہ کہیں مزار ہوتا

گو یا مصرح طرح تھا جس پر یک غزل، دو غزل اور سہ غزل ہو گیا۔ پنڈت جی پکار اُٹھے۔

”شاہ صاحب آپ تو ہندوستان کے دل کی آواز ہیں“

لاہور میں سائنس کمیشن کا جس طرح استقبال ہوا اسی کا نتیجہ تھا کہ لالہ لاجپت رائے پولیس کی لاشیاں کھا کر سورگباش ہو گئے۔ لالہ جی نے مظاہرے کی رات ممبئی دروازہ

کے باہر جو تاریخی تقریر کی اس کے الفاظ آج تک گونجتے ہیں یکن شاہ جی نے جو رنگ باندھا وہ سب سے نرالا تھا۔ ایک بہت بڑے پولیس آفیسر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا تھا کہ اس رات گویا انگریزی حکومت کے لئے لاہور میں کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی مگر ان کی ساری تقریر میں ایک حرف بھی قابل مواخذہ نہ تھا۔

۱۹۲۷ء میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ولیم سنگھ نے مہاشہ راج پال ناشر "کلیئر" کو قانون کے اصطلاحی سقم پر رہا کر دیا تو مسلمانوں میں ایک ہیجان برپا ہو گیا انہوں نے جلسہ عام کرنا چاہا مگر لاہور کے ڈپٹی کمشنر مسٹر اوگلوہی نے دفعہ ۱۴۴ لگا دی۔ شاہ جی نے شاہ محمد غوث کے بالمقابل اوطار عبدالرحیم میں جلسہ کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی بھی اس فقید اقبال جلسہ میں موجود تھے۔ احاطہ کے دروازے پر پولیس کے مسلح دستوں کا پہرہ تھا۔ شاہ جی نے تقریر شروع کی۔

"آج آپ لوگ جناب فخر سل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عز و ناموس کو برقرار رکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ آج بنس انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرے میں ہے۔ آج اس جلیل المرتبت ہستی کا ناموس معرض خطر میں ہے۔ جس کی وی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔

آج مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی کے دروازے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آئین اور فرمایا۔ ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں۔ ارے دیکھو! ام المومنین عائشہ صدیقہ دروازے پر تو کھڑی نہیں؟ یہ جملہ اس جلال و غضب میں ادا کیا کہ حاضرین کی نگاہیں بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھ گئیں، ایسا ایکی کہرام مچ گیا، مسلمان دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔

تمہاری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو لیکن تمہیں معلوم

نہیں کہ آج گنبدِ خضریٰ میں رسول اللہ ﷺ پر سب سے ہیں، آج خدیجہ و عائشہ پر لیشاں ہیں۔  
بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المؤمنین کی کوئی جگہ ہے؟ سنو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کیا  
کہہ رہی ہیں، یاں ہاں سند، وہی عائشہ جنہیں رسول اللہ ﷺ حیرا کہہ کر پکارا کرتے تھے، جنہوں  
نے سید عالم کو وصال کے وقت مسواک چبا کر دی تھی اگر تم خدیجہ و عائشہ کے ناموس کی خاطر  
جانیں دے دو تو یہ کچھ کم فخر کی بات نہ ہوگی؟

آخر راج پال قتل ہو گیا۔ جس ناموس کی حفاظت سے قانون قاصر تھا۔ اس کی حفاظت  
ایک مسلمان نے جان لے کر اور جان دے کر کی اور برطانوی ہندوستان میں یہ امر تسلیم شدہ  
حقیقت ہو گیا کہ مسلمان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت قانون  
ہی سے نہیں غول سے بھی کرتے ہیں۔

قادیان کی تبلیغ کانفرنس (۱۹۳۴ء) میں جو تقریر کی اس کی مقناطیسی کشش کا اعتراف  
سٹریٹیجی ڈی کھوسلہ نے اپنے فیصلہ میں کیا ہے۔ اس ٹکڑے ہی سے جذبات کی معراج معلوم  
ہوتی ہے۔

”وہ (میرزا محمود) نبی کا بیٹا، میں نبی کا نواسہ ہوں۔ وہ آئے اور مجھ سے اردو،  
پنجابی، فارسی میں ہر معاملے سے متعلق بحث کر لے۔ یہ جھگڑا آج ہی طے پا جاتا ہے۔ وہ  
پردے سے باہر نکلے، نقاب اٹھائے، کشتی رٹے، مولا علی کے جوہر دیکھے۔ ہر رنگ میں  
آئے، وہ موڑ میں بیٹھ کر آئے میں ننگے پاؤں آؤں، وہ حیرت پر نیاں پہن کر آئے میں  
موٹا جھوٹا پہن کر آؤں۔ وہ مرز عفر کباب یا قوتیاں اور اپنے ابا کی سنت کے مطابق پلوں  
کی ٹانگ واہن پی کر آئے میں نانا کی سنت کے مطابق جو کی روٹی کھا کے آؤں۔ ہمیں میدان ہمیں گڑ  
غرض اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ہیں جن سے شاہجی علیہ الرحمۃ کی خطیبانہ عظمت کا سراغ  
ملتا ہے اس کی سب سے بڑی شہادت شعر یک ختم نبوت کا وہ بانگین تھا جس کے نشہ میں لوگوں  
نے جانیں نچھاور کی تھیں۔“

کالی داس نے عورت کے روپ کی تصویر کھینچتے ہوئے کائنات کی جن تصویریں اور نظریوں اور بصورتیوں کو یکجا کیا ہے ان تمام خوبصورتیوں کا مرقع شاہ جی کی خطابت تھی۔ رعد کی گونج۔ بادل کی گرج۔ ہوا کا فراٹما۔ فضا کا ساٹما۔ صبح کا اٹھالا۔ چاندنی کا جھالا۔ ریشم کی جھلاٹا۔ ہوا کی سرسراہٹ۔ گلاب کی مہک۔ سبزے کی لہک۔ آبشار کا بہاؤ۔ شاخوں کا جھکاؤ۔ طوفان کی کڑک۔ سمندروں کا خروش۔ پہاڑوں کی سنجیدگی۔ صبا کی چال۔ اوس کا نم۔ چینی کا پیراہین۔ تلوار کا لہجہ۔ بانسری کی دھن۔ عیش کا باکپن۔ حسن کا انماض اور کبکشاں کی مسموع و مقطوع عبارتیں انسانی آواز میں ڈھلتے ہی خطابت کی جو صورت اختیار کرتی ہیں اس کا جیتا جاگتا مرقع شاہ جی تھے۔

شاہ جی نے چالیس برس تک بیسیوں قومی تحریکوں کو جگمگایا۔ انہیں عامۃ الناس کے مزاج و طبیعت سے کما حقہ آگاہی تھی۔ ان کے ہاں خشونت بھی تھی اور عظوفت بھی۔ خوش ہوتے تو لوگوں کو متاع عزیز گردانتے۔ ناخوش ہوتے تو قبریں کہہ کر پکارتے۔ انہیں ہمیشہ شکایت رہی کہ انہوں نے بجز زمینوں میں بل جرتے اور تاریک صحراؤں میں سفر کیا ہے۔ بہ قول نطشے "میں انسان کے پاس گیا تو ہوں لیکن انسان تک پہنچا نہیں" وہ مسلمانوں کو اخلاص کا دشمن اور ایشیا سے منفرد گدانتے تھے۔

انہیں حالات کی سنگینی اور مسلمانوں کی کوتاہ بینی کا شدید احساس تھا۔

فرماتے ہیں "اس زمین کو بہت سانس دیا ہے، میرا نم ہی کیا؟ اسے تو زہرا نے آنسو اور حسین نے خون دیا تھا۔ دجلہ و فرات کے گیسو اسی طرح تابدار ہیں۔ اور حسین کا قافلہ تیرہ سو برس سے اسی طرح لٹ رہا ہے"

"کائنات کو چلنے دو، سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے ہم مرنے کے لئے پیدا کئے گئے

ہیں۔ ہمارے سپرد جو فرض تھا الحمد للہ اس سے عہدہ براہوں نے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ ہم ہر منزل میں ٹھہرے مگر رکے نہیں۔ ہم نے ہر مقام کو دیکھا جھالا مگر ہمارا دل

اٹکا کہیں بھی نہیں۔ طرح طرح کے اتار چڑھاؤ پیش آئے مگر ہر حال میں ہماری نگاہ سامنے  
 کی طرف رہی۔ دنیا کو ہمارے ارادوں کے بارے میں شک رہے ہوئے مگر ہمیں اپنے  
 فیصلوں کے بارے میں کبھی شک نہیں گزرا۔

(ابوالکلام آزاد)

غرض ان کی زندگی کا پنچوڑ میر درد کے اس ایک شعر میں سمٹ کر آ گیا تھا

فقیرانہ آئے صدا کر چلے

میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے

## تحریک ختم نبوت

پاکستان بنا تو اپنی عمر اور ملی حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شاہ جی نے سیاسیات سے سیکرٹشی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی جماعت کو بھی یہی مشورہ دیا کہ ہمارا مشن انگریزوں کی غلامی کے خاتمہ تک تھا۔ انگریز جا چکا، برعظیم آزاد ہو گیا، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور اب پہلے ایک مسلمان حکومت قائم ہو چکی ہے۔ ہمارے لئے یہی بہتر ہے کہ سیاست سے الگ ہو جائیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو اس نوزائیدہ مملکت کے لئے کسی عنوان سے پریشانی کا باعث ہو۔ یوں بھی مسلمانوں نے ہماری سیاسی رائے کو مسترد کر دیا ہے۔ ملک کا مفاد اسی میں ہے کہ پاکستانی کو جو مسائل درپیش ہیں ممکن ہو تو انفرادی طور پر مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا ہاتھ بٹائیں ورنہ خاموش رہیں۔

یہ ایک خط تھا جو ماسٹر تاج الدین انصاری کے نام موصول ہوا، میں ان دنوں جماعت کے ترجمان روزنامہ آزاد کا ایڈیٹر تھا۔ ماسٹر جی نے یہ خط میرے حوالہ کیا تو میں نے اس خط کا تین ٹکٹے آزاد میں شائع کر دیا۔ قائد اعظم کی وفات سے کچھ دن پہلے میں احرار سے آگے ہو گیا لیکن ان کی وفات پر اتارک کے بعد کا ادارہ میرے قلم سے تھا۔ جو ماسٹر تاج الدین اور شیخ حسام الدین کی مشترکہ خواہش پر لکھا تھا۔

دراپریل ۱۹۴۹ء میں پہلی احرار کانفرنس لاہور میں ہوئی تو اس میں احرار کی سیاست





میرزا بیوں کے عرواٹم کا جنوبی اندازہ و علم ہے لیکن میرا کچھ کہنا یا کرنا اب شاید کوئی نتیجہ پیدا نہ کرے آپ یہ سب باتیں ملک کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نوٹس میں لائیں اور انہیں بتائیں کہ پاکستان میں میرزائی اُمت کے ہاتھوں کیا ہو رہا ہے۔ اور آئندہ اس اُمت کے منصوبے کیا ہیں۔ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ بہر دار سے سے رپورٹ منگوا کر براہ راست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔“

کرنل صاحب نے کہا۔

”شاہ جی! ہماری اصل مصیبت یہ ہے کہ حکمران جماعت دین سے معاشرتی دلچسپی رکھتی ہے مذہبی نہیں۔ وہ اولاً اپنی ذات پھر اپنی جماعت اور اس کے حدود میں اپنے مقاصد و مصالح دیکھتی ہے۔ اسے اسلام اور اس کی دعوت کے مضمرات و مقصدیات سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو بتائیں میرزائی کیا ہیں؟ آپ نے اس داستان کا نوٹس لیا اور اس طرح کوئی تحریک بن گئی تو لازماً حکمران جماعت آگاہ ہوگی نتیجہً مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر کی بیداری سے قادیانی اُمت کو بھی احتساب کا اندیشہ ہوگا اور اس طرح وہ خطرہ جو ہم محسوس کرتے ہیں ٹل جائے گا۔ اس وقت سوال مسلمان عوام اور مسلمان حکام کو اس فتنہ کے عمومی برگ و بار اور اس کی مخفی تنگ و دو کے نقش و نگار سے مطلع کرنے کا ہے۔ میرے سامت یہ سی ایس پی افسر ہیں اور وزارت خارجہ میں اہم عہدہ پر فائز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان پاکستان کا وزیر خارجہ ہے لیکن اس کے منصب کا فائدہ میرزائیت کو پہنچ رہا ہے۔ وہ بیرونی دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کے بجائے اپنی جماعت کی نمائندگی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس نے بیرونی ملکوں میں قادیانی اُمت کے لئے سیاسی و معاشی رابطے مہیا کئے ہیں۔ اگر میرزائی یہاں کامیاب ہو گئے تو زمین الاقوامی ناٹوں کی معرفت قادیانیت کو آئندہ دن تک محفوظ رکھنے کا۔“

شاہ جی نے یہ باتیں سن کر سرد آہ بھری اور فرمایا۔

مجھے یہی محسوس ہوتا ہے لیکن بوڑھا ہو گیا ہوں اب ہمت نہیں رہی۔ کس سے کہوں اور کن سے لڑوں؟ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے میرا اندر ہل گیا ہے میں دوتوں سے کہوں گا کہ وہ اس خطہ سے آگاہ ہو جائیں اور عوام و حکام دونوں کو حتی المقدور آگاہ کریں۔ کرنل صاحب بولے۔

”شاہ جی پاکستان کو اس خطرے سے صرف آپ نکال سکتے ہیں۔ کراچی سے لاہور اور لاہور سے پشاور تک آپ کی چند تقریریں موجودہ حکمرانوں کے کان کھول دیں گی کسی سے رو برو لڑائی کا سوال نہیں۔ بلکہ جو دیکھیں مسلمانوں کو پاٹ کر پاکستان کو حسب منشا ہنم کرنا چاہتی ہے اس کا عوام کی معرفت احتساب ہو گا کہ پوری قوم خبردار ہو جائے گی اور حکمرانوں کو بھی ہوش آئے گی کہ ملک فی الواقعہ کسی مہلکہ میں ہے۔ شاہ جی ہم آپ تک یہ بات پہنچا سکتے تھے اور ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے وزیر اعظم سے ہم مل نہیں سکتے ورنہ ان سے ملتے اور کہتے۔ بہر حال ان تک پہنچانا آپ کا فرض ہے، آپ نے کو تا ہی برقی تو ذمہ دار آپ ہوں گے عند اللہ بھی اور عند الناس بھی پاکستان میر زائی ہو گیا تو قیامت کے دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو آپ کے دامن گیر ہوں گے۔“

وہ دونوں صاحب یہ کہہ کر چلے گئے لیکن شاہ جی کا یہ حال تھا کہ پہلے کچھ دیر چپ رہے پھر دوچار ہچکیاں آئیں اب جو ہچکیاں بند ہیں تو پون گھنٹہ روتے رہے۔ زبان سے کچھ نہ کہا دیر تک آپس ہی بھرتے رہے پھر اتنا فرمایا کہ

مرا اٹھے کاش کہ مادر نہ زاد سے

ایسے موقعوں پر ہم لوگ خود ان کے ساتھ گم سم ہو جاتے اور اس طرح اپنی بے چارگی کا تماشا کرتے۔

غرض میر زائیوں سے مسلمانوں کو جو خطرات لاحق ہو رہے تھے، ان کے عوامی احتساب اور ان حساب میر احمدار کی شرکت کا نتیجہ راست اقدام کی تحریک تھی۔

## کھلا تصادم

۲۷ ذوری ۱۹۵۳ء کو شاہ جی تحریک کے رفقار سمیت کراچی میں پکڑ لئے گئے تو پنجاب میں اس کا رد عمل شدید ہوا۔ ایک ایک حکومت کے خلاف تحریک بھرک اٹھی۔ حکومت نے تحریک کو پکھنے کے لئے کئی شہروں میں فائرنگ کی جس سے بے شمار لوگ شہید ہو گئے۔ بالآخر لاہور میں چھ مارچ کو مارشل لا نافذ کرنا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دوران میں حکومت پنجاب معطل ہو کر رہ گئی۔ صوبہ کے بعض بڑے شہروں میں بغاوت کے آثار موجود تھے۔ صوبائی حکومت کے سیکرٹریٹ میں اہلکاروں نے کام چھوڑ دیا۔ ان کا مطالبہ تھا فائرنگ بند کر دیے سارا اشتعال صرف اس لئے پیدا ہوا کہ حکومت نے پراسن مظاہرین کو اولاً اشتعال دلایا پھر ان پر تشدد کیا جب وہ بھرک اٹھے تو انہیں گولیوں سے مارنا شروع کیا حتیٰ کہ پاکستانی فوج کو پہلی دفعہ اس کے فرائض سے مختلف استعمال کیا گیا۔ لڑگوں کو اندازہ ہو گیا کہ فوج مارشل لا کے نام پر کیا کرتی ہے؟ ادھر یہ پہلا موقع تھا کہ سیاست دانوں نے فوج کو عوام کی سزا دہی کے لئے منتخب کیا اور انہیں سخت سے سخت سزا دلوائی آخر یہی فوج اکتوبر ۱۹۵۸ء میں سیاست دانوں کو نکال کے ملک پر قابض ہو گئی اور دسمبر ۱۹۷۱ء تک ملک کی تقدیر پر مسلط رہی۔ ۱۹۵۳ء کے مارشل لا میں اسکندر میرزا حکومت پاکستان کے ڈیفنس سیکرٹری تھے اور جنرل محمد اعظم لاہور کے جی اوسی۔ سکندر میرزا نے صدر مملکت کی حیثیت سے ۱۹۵۸ء میں مارشل لا کا نفاذ کیا۔ لیکن چند دنوں ہی میں جنرل اعظم نے ایوان صدر میں جا کر ان سے استعفیٰ لکھوا لیا اور راتوں رات پاکستان سے ہمیشہ کے لئے رخصت کر دیا۔ پھر جنرل اعظم بھی اقتدار سے محروم ہو گئے۔ ختم نبوت کے مارشل لا میں راقم نے خود دیکھا اور سنا کہ اسکندر میرزا گورنمنٹ ہاؤس لاہور میں ایک فوجی افسر پر جھنجھلا رہے تھے کہ مجھے یہ نہ سنائیے اسن ہو گیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تک کتنی لاشیں ڈھیر ہوئی ہیں؟ جتنی داڑھیاں نظر آئیں انہیں گولیوں سے بھون دو۔

جسٹس میز نے سسی آئی ڈی کی رپورٹوں کا سہارا لے کر اس سارے واقعہ پر جو نتائج مرتب کئے نتیجتاً وہ ایک جج کی شان کے شایان نہ تھے ان کے بین السطور سے معلوم ہوتا ہے کہ جسٹس میز بغض و عناد کے تحت نیک طرفہ کارروائی کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں احرار نے تحریک ختم نبوت کا اجرا پاکستان کو ختم کرنے کے لئے انڈین نیشنل کانگریس سے اپنے پرانے تعلقات کی بدولت کیا تھا۔ موصوف کے نزدیک احرار پاکستان کے دشمن تھے جن کا طرز عمل بطور خاص مکروہ اور قابل نفرت تھا۔ انہوں نے پاکستان بننے تک کانگریس کے آگے دم ہلانے کا رویہ جاری رکھا اور اس سے ہر شے ہونچکے تھے۔

### نزاع کے اسباب

میرزا محمود ۱۱ اگست ۱۹۴۶ء کے بعد بھی اعلان کرتے رہے تھے کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے اور قادیان ہی میں رہیں گے لیکن ایک انگریز کرنل کی تحریک پر ۳۱ اگست کو لاہور آگئے اور یہاں روزنامہ پاکستان ٹائمز کے دفتر کی مرگ پر رتن باغ کے بنگلہ میں قیام کیا اس کے سامنے کی عمارتوں میں ان کے پروکار مقیم ہو گئے جب تک ریلوہ کی نیواٹھا کر اقامت کا سرو سامان نہ کر لیا لاہور ہی میں رہے۔ میرزا صاحب اس غلط فہمی میں تھے کہ ان کی مخالفت جماعتیں ختم ہو چکی ہیں اور احرار مسلم لیگ کی مخالفت کے باعث بٹ گئے ہیں اور جو پاکستان میں ہیں ان میں اپنے سیاسی کردار کے باعث کوئی سکت نہیں رہی۔ میرزا صاحب نے مقامی اخباروں کے ایڈیٹروں سے ملاقاتیں شروع کیں۔ انہیں اپنے ہاں بلواتے اور ملکی مسائل بالخصوص کشمیر کے بارے میں معلومات مہیا کرتے۔ کچھ دنوں بعد کشمیر کے مسئلہ پر لارکالچ لاہور کے مینار ڈھال میں سلسلہ تقاریر شروع کیا۔ ان تقاریر میں وہ

۱۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت صفحہ ۲۶، ۲۷ بہ عنوان احرار۔

۲۔ کہاچی سے خطاب ۱۸ مارچ ۱۹۴۸ء

دیوار پر نقشہ لٹکا کر فوج کے حملوں کی نشاندہی کرتے اور اس ضمن میں مختلف احوال پر روشنی ڈالتے۔ میرزا صاحب کی یہ تمام معلومات قادیانی المنہب فوجی افسروں اور وزارت خارجہ کے ان کارکنوں کی مہیا کی ہوتیں جو چودھری ظفر اللہ خان کی ہدایت پر انہیں ملے اور سرکاری اطلاعات بہم پہنچاتے تھے۔ میرزا صاحب نے عام مسلمانوں سے بلا کھٹکے مخاطب ہونے کی یہ پہلی جہارت کی تھی ورنہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے کسی بھی جلسے کو خطاب کرنے سے محروم تھے۔ ایک دفعہ غالباً ۱۹۳۰ء میں انہوں نے بریڈ لہال میں سیرت کے موضوع پر خطاب کرنا چاہا تو مسلمانوں نے جلسہ اٹا دیا اور میرزا صاحب کو دم جھاگ گئے۔ راقم نے تب ان کی جگہ ڈخرو دیکھی تھی کہ ایک موٹر میں بیٹھ کر اڑنچھو ہو گئے تھے

### رہوہ

میرزا محمود نے سب سے پہلے اپنے لئے ایک قلعہ کی ضرورت محسوس کی چنانچہ چنیوٹ ضلع جنگھ کے پاس دریائے چناب کے پار لائل پور اور سرگودھا کے وسط میں سرفرانس موٹی گورنر پنجاب سے کوڑیوں کے مجاؤ ۱۱۰۳۴ ایکڑ زمین لے کر رہوہ آباد کیا۔ یکم اپریل ۱۹۴۹ء کو رہوہ ریلوے اسٹیشن بھی قائم ہو گیا۔ اسٹیشن ماسٹر ایک قادیانی مقرر ہوا۔ غرض رہوہ کا پورا انتظام ایک ریاست کے نظام کے مشابہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رہوہ میں اتنا اسلحہ ہے کہ پاکستان کے بڑے سے بڑے شہر میں بھی اتنا اسلحہ نہ ہوگا۔ میرزائی کے لئے مسلح ہونا احکامِ خلافت کی رو سے لازم ہے۔

قیام پاکستان سے دو سال تک حکومت کے مختلف شعبوں میں میرزائی داخل ہوتے رہے حتیٰ کہ بعض بنیادی محکموں میں انہیں رسوخ حاصل ہو گیا۔ بالخصوص فوج، مالیات اور خارجہ کے محکموں میں ان کی جڑیں خاصی گہری ہو گئیں۔

پاکستان بن جانے سے پہلے افضلؒ نے کبھی فوجی بھرتی کے پروگرام شائع نہیں کئے تھے لیکن پاکستان بن جانے کے بعد افضلؒ میں فوجی بھرتی کے پروگرام بہ التزام

شائع ہونے لگے۔ بالخصوص ان علاقوں کے پروگرام جہاں میرزائی رہ رہے تھے اور جس دستہ کے ریکرڈنگ آفیسر میرزائی ہوتے اسی طرح سول کے قادیانی افسروں بالخصوص ڈپٹی کمشنرز وغیرہ نے احمدیت کی تبلیغ کا بیڑہ اٹھایا۔ فروری ۱۹۵۳ء سے پہلے سٹر ایم ایم احمد منگرمی دسا ہیوال، میں ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے کھلم کھلا احمدی مبلغوں کے لئے راستہ پیدا کیا جس سے مسلمانوں میں مزاحمت کا جوش پیدا ہو گیا۔ چنانچہ منگرمی کے ڈپٹی کمشنر کا ذکر حبس خیرتے بھی اپنی رپورٹ میں کیا ہے کہ ان قادیانی افسروں کی جانبداری کے باعث مسلمانوں میں مزاحمانہ ردعمل کا پیدا ہونا ناگزیر تھا۔

یہ سب کچھ محض تبلیغ نہیں تھا بلکہ قادیانی ریاست قائم کرنے کا ایک منصوبہ تھا جس کے خطوط انگریزوں کے عہد میں تیار ہوئے لیکن جس کی جھلکیاں پہلی دفعہ بانڈرہ کی کمیشن کے وقت سامنے آئیں اور پاکستان بن جانے کے بعد میرزا محمود بزعم خویش میدان خالی پا کر قادیانی ریاست بنانے کی دھن میں لگ گئے۔

علامہ اقبالؒ نے کہا ہے کہ احمدیت اپنے افکار و اعمال میں یہودیت کا مٹنی ہے جس طرح دنیا بھر کے یہودی امریکہ و برطانیہ میں وہاں کی معاشیات کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کی فوج میں رسوخ رکھتے ہیں اسی طرح میرزا محمود کا پلان تھا اور ان کے جانشین بھی اسی بیج پر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں فوج کو ہاتھ میں لیا جائے، کچھ عرصہ سے پاکستان کی اقتصادیات کو بھی تصرف میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے، چنانچہ بنکوں میں قادیانی گھس رہے ہیں اور اب لالفت انشورنس کمپنیوں پر سرکاری قبضہ کے بعد اکثر قادیانی حکومت کی بدولت ان کے نگران ہوتے جا رہے ہیں۔

میرزا محمود کا خیال تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس کی حکمرانی بالآخر فوج کے ہاتھ میں ہوگی لہذا احمدیوں کا فرض ہے کہ وہ فوج میں اس کثرت سے شامل ہو جائیں کہ بالآخر فوج انہی کی ہو جائے۔

میرزا صاحب نے ایک خطبہ میں فرمایا :-

”جب تک سارے محکموں میں ہمارے آدمی نہ ہوں ان سے جماعت پوری طرح کام نہیں لے سکتی۔ مثلاً موٹے موٹے محکموں میں سے فوج ہے، پولیس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، رپورٹ ہے، فنانس ہے، اکاؤنٹس ہے، کسٹمز ہے، انجنیئرنگ ہے۔ یہ آٹھویں موٹے موٹے صیغے ہیں جن کے ذریعے جماعت اپنے حقوق محفوظ کر سکتی ہے اور یہ بھی اس طرح کمائے جاسکتے ہیں کہ ہر صیغے میں ہمارے آدمی موجود ہوں اور ہر طرح ہماری آواز پہنچ سکے“

والفضل ۱۱ جنوری ۱۹۵۲ء

اسی سال ۱۶ جنوری کو ارشاد ہوتا ہے کہ:

”۱۹۵۲ء کو گزرنے نہ دیجئے۔ جب تک احمدیت کا رعب دشمن اس رنگ میں محسوس نہ کرے کہ اب احمدیت مٹانی نہیں جاسکتی اور وہ مجبور ہو کر احمدیت کی آغوش میں آگرے

والفضل ۱۶ جنوری ۱۹۵۲ء

میرزا صاحب نے اس سے پہلے دسمبر ۱۹۵۱ء کو جماعت کے سالانہ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ:

”وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ (مخالفین و منکرین) مجرموں کی حیثیت میں ہمارے سامنے پیش ہوں گے“

والفضل ۲۹ جولائی ۱۹۵۲ء صفحہ ۶ میرزا صاحب کے خطبہ کا آخری فقرہ ہے

”اپنا بیگانہ کوئی اعتراض کرے پروا نہیں، ہونا وہی ہے جو میں نے کہا ہے اور ویسی ایک دن ہم کر کے رہیں گے“

وہ کیا تھا؟ میرزا صاحب نے ۲۳ جولائی ۱۹۴۸ء کو یعنی پاکستان بننے کے تقریباً پانچ

گیارہ ماہ بعد کوئٹہ میں ایک خطبہ دیا جس میں اعلان فرمایا کہ وہ بلوچستان کو احمدی صوبہ

بنانا چاہتے ہیں۔ پھر یہی اعلان میرزا صاحب نے دوبارہ ۵ جولائی ۱۹۵۰ء کو ایک خطبہ میں کیا اور اس کا اعتراف منیر انکوائری کمیٹی کے روبرو کیا۔ چنانچہ رپورٹ میں اس پر نقد و بحث موجود ہے کلمہ

میرزا محمود نے کونڑ میں جو تقریر کی وہ نہ صرف نامناسب بلکہ غیر مآل اندیشانہ اور اشتعال انگیز تھی۔ انہوں نے اپنے پیروں کو ہدایت کی کہ تبلیغ احمدیت کے پروپیگنڈا کو تیز کر دیں تاکہ ۱۹۵۲ء کے آخر تک پوری مسلم آبادی احمدیت کی آغوش میں آجائے ظاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں کا مشتعل ہونا لازمی تھا۔“

(ملاحظہ ہو اردو متن صفحہ ۲۸۰)

میرزا صاحب نے مزید اعلان کیا :

”میں یہ جانتا ہوں کہ اب یہ صوبہ بلوچستان ہمارے ہاتھوں نکل نہیں سکتا۔ یہ ہماری شکار گاہ ہوگا، دنیا کی ساری قومیں مل کر بھی ہم سے یہ علاقہ چھین نہیں سکتیں۔“

سرور عبدالرب نشتر (سابق گورنر پنجاب) نے تحقیقاتی عدالت میں بیان دیتے ہوئے تشریح فرمائی کہ قادیانی بہر طور بلوچستان کو اپنا صوبہ بنانے کی فکر میں تھے۔ سرور صاحب نے چودھری ظفر اللہ خان سے بھی کہا تھا کہ وہ میرزا صاحب کے اس اعلان کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں، شیخ بشیر احمد ایڈووکیٹ جو کچھ دنوں کے لئے جسٹس منیر کی مہربانی سے لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے اور میرزا صاحب کے مقرب و ہمزلف تھے، اُن سے بھی سوار صاحب نے یہی بات کہی کہ وہ میرزا صاحب کو آگاہ کر دیں۔ لیکن میرزا محمود کب مانتے تھے انہوں نے اس وقت تک بلوچستان کا پنڈ نہ چھوڑا جب تک ایک قادیانی ڈاکٹر میجر محمود کو لوگوں نے قتل نہ کر دیا اور میرزا صاحب وہاں سے چھپ کے جھاگ نہیں آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرزا محمود اور اس کی جماعت کا محاسبہ ملانے اس وقت شروع کیا جب میرزا محمود احمد کھلم کھلا احمدیت کا سیاسی اقتدار قائم کرتے پرتل گئے اور



خلاف معمول ان کی زبان بہت تیز ہو گئی۔ میرزا صاحب کا خیال تھا کہ علماء کی اکثریت تحریک پاکستان میں عدم شمول کے باعث معتوب ہو چکی ہے وہ ان کا مقابلہ نہ کرے گی اور جو علماء تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کے ہمراہ وہم نہاتے وہ ان کے احتساب کا مذاق نہیں رکھتے۔ لیکن میرزا صاحب کو جلد معلوم ہو گیا کہ وہ پاکستان میں عوام کی معرفت کبھی اقتدار میں نہیں آسکتے ان کا میدان عالمی طاقتوں کی معرفت سازش کا میدان ہے اور وہ کچھ جڑ ہی سے اٹھ سکتے ہیں۔ یہ بات کبھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ میرزا کی امت جعفریہ کی آزادی سے پہلے تک نہ صرف برطانیہ کی آلہ کار رہی ہے بلکہ اب اس کی حیثیت مستقلاً استعماری طاقتوں کے ایجنٹ کی ہو چکی ہے آج کل وہ امریکی استعمار کی کل پرزہ ہے۔

## بلوچستان

میرزا محمود احمد نے جس زمانہ میں بلوچستان کو احمدی صوبہ بنانے کا اعلان کیا اس زمانہ میں عوام تو کیا خواص کو معلوم نہ تھا بلکہ دانشوران حکومت بھی اس سے بے خبر تھے کہ بلوچستان کی سرحدی و سیاسی پوزیشن کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض عالمی طاقتوں کے ارادے کیا ہیں۔ اب ۱۹۶۸ء سے ۱۹۷۲ء کے چار سال میں معلوم ہوا کہ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں؟ اور بعض غیر ملکی طاقتیں اس سے کیوں دلچسپی لے رہی ہیں۔ یہاں ان عوامل و محرکات کو زیر بحث لانا مناسب نہ ہوگا جو خان قلات کی بغاوت ۱۹۵۸ء سے لے کر ہندوستان کے ہاتھوں پاکستان کی شکست دسمبر ۱۹۷۱ء تک ظہور میں آتے رہے۔ ایوان کے عہد میں بلوچستان پر بمباری اور قبائلی سرداروں کی سیادت کا ظہور اس سلسلہ کی اہم کڑیاں ہیں۔ سردار محمد اکبر بیگ نے لندن میں اخبار نویسوں سے عند الملاقات جو بیان دیا اور جس طرح مغربی پاکستان میں مختلف آزاد ریاستوں کے تصور پر اشارے کئے بالخصوص پنجاب کے خلاف ان کی مسلسل ناراضگی تو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان کی آب و ہوا کیا ہے؟ اور اس کے سیاسی مزاج کی مختلف لہریں کس طرح کام کرتی ہیں۔

شاہ ایران، صدر مجٹوا اور گورنر بنجور کے درمیان مذاکرات جون ۱۹۷۲ء کو کوئی دوستانہ ملاقاتیں نہ تھیں بلکہ ایران کی ان سیاسی ضرورتوں کا اقدنا تھا جو ایک مدت سے شاہ کی پریشانی کا باعث ہو رہی تھیں۔ اس ضمن میں ایک بات واضح ہے کہ عرب ریاستوں کا وفاق ان کے علاقہ میں امریکی مفادات کو اسی صورت میں قائم رکھ سکتا ہے کہ بلوچستان کا نقشہ اس کے خلاف نہ ہو۔ عراق اور روس کے دفاعی معاہدے نے ایران کو فائیت درجہ پریشان کر رکھا ہے جب چاروں طرف سے جمہوریت ہو تو بادشاہت کا محذویش ہو جانا یقینی ہے۔ اس کے علاوہ روس گرم پانی کی تلاش میں پاکستان کی سمندری حد جو بلوچستان میں واقع ہے کو اپنے استعمال میں لانے کا متمنی ہے اور ایران کے علاوہ عراق اور خلیج فارس کے علاقوں میں بلوچ پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں زمانہ کے ساتھ قومیت کا احساس بڑھ رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دنوں میں عظیم بلوچستان کا منصوبہ قلات میں تیار کیا گیا۔ اس عنوان سے ایک کتاب بھی مرتب کی گئی جو ۱۹۴۲ء میں انگریزی حکومت نے ضبط کر لی مگر کسی کتاب کے ضبط کئے جانے سے اس کے خیالات نہیں مرتے۔ عظیم بلوچستان کا تصور بلوچستان کی لیڈر شپ کے دماغ میں گھٹا نہیں بڑھا ہی ہے۔

پاکستان بننے سے پہلے بلوچستان دو حصوں میں منقسم تھا۔

(۱) برٹش بلوچستان

(۲) ریاستی بلوچستان

برٹش بلوچستان شمال مغربی حصہ پر مشتمل تھا جس میں زیادہ تر پٹان آباد تھے۔ ریاستی بلوچستان میں خاران، کرمان، قلات اور لس بیلہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی عملداری شروع ہوئی تو بلوچستان سب سے آخر میں سلطنت برطانیہ کا حصہ بنا۔ خان قلات اندرونی مظالم میں آزاد تھے اگر کوئی مسئلہ ریاستوں اور برطانوی بلوچستان کے درمیان اختلافی ہوتا تو اس کا فیصلہ شاہی جج کرتا تھا۔

جس طرح انگریزوں کو کشمیر میں روس کی توسیع پسندی سے خطرہ تھا اسی طرح بلوچستان میں بھی ایسا ہی خطرہ محسوس کیا گیا اور ہمیشہ اس کے دفاع کو ملحوظ رکھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کو خدشہ تھا کہ جرمنی عراق کے راستے خلیج فارس کے ذریعہ بلوچستان میں داخل ہوگا لیکن ۱۹۴۵ء میں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تو روس کا خطرہ نمایاں ہو گیا اور اس طرح برطانوی مفاد کے لئے بلوچستان ایک اہم مرکز بن گیا۔ انگریز ہندوستان چھوڑ دینے کے باوجود بلوچستان کو بالواسطہ اپنے تصرف میں رکھنا چاہتا تھا۔ انگریزوں نے خان قلات کو یقین دلایا کہ وہ بلوچستان کو نیپال کی طرح آزاد حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ ۱۹۴۶ء میں کوئٹہ کے پولیٹیکل ایجنٹ ڈی وائی قل نے خان قلات کو باور کرایا کہ برطانیہ بلوچستان کو برما اور لنکا کی طرح علیحدہ ریاست دیکھنا چاہتا ہے۔

۱۹۴۷ء میں بلوچستان کے ایجنٹ مسٹر جفرے نے خان قلات سے ملاقات کی اور انہیں لارڈ مونٹ بیٹن کا پیغام دیا کہ وہ بلوچستان کو علیحدہ ریاست قرار دینے والے ہیں بشرطیکہ آپ لوگ آل بلوچستان کانفرنس منعقد کر کے اس امر کا مطالبہ کریں۔ خان قلات نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کی معرفت قائد اعظم کو مطلع کیا جس سے معاملہ اٹ گیا۔ ۱۲ اگست ۱۹۴۷ء کو نیویارک ٹائمز نے لکھا کہ پاکستان نے قلات کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ ۱۵ اگست کو خان قلات نے اپنی آزادی کا اعلان کیا لیکن خاران اور لس بیلہ کے اہل حق نے قلات کا بحری راستہ مسدود کر دیا پھر کچھ ایسے حالات نشوونما پانے لگے کہ خان قلات نے پاکستان میں شامل ہونا منظور کر لیا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب مسٹر قل اور ہینڈرسن بلوچستان میں برطانوی اہلکار کے باوجود سخت و پزیر کر رہے تھے۔ جب صورت حال اس طرح پلٹا کھا گئی تو مسٹر قل اور مسٹر ہینڈرسن میرزا محمود سے ایک پراسرار ملاقات کے بعد انگلستان چلے گئے۔ ان کے فوراً بعد میرزا

لے پاکستان انڈیا بلوچ سے ونگو کس کو لیبیا یونیورسٹی پریس نیویارک ۱۹۶۳ء

محمود نے بلوچستان کا دورہ کیا اور بلوچستان کو احمدی علاقہ بنانے کا اعلان کر دیا۔

## قادیانی خصوصیت

میرزائی اُمت کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی عزائم کو بروئے کار لانے کے لئے دو چیزیں خصوصیت سے ملحوظ رکھتی ہے۔

اولاً: اس نے اپنی جماعت فراہم کرنے کے لئے محمد عربی کی اُمت میں نقب لگائی ہے۔

ثانیاً: وہ ضعیف الاعتقاد لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنے سیاسی منصوبوں کو الہامی سند مہیا کرتی ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ میرزائی مسلمانوں کے کسی ابتلا میں کبھی کام نہیں آئے بلکہ مسلمان سلطنتوں کے تاخت و تاراج ہونے پر چراغاں کیا، خلافت عثمانیہ کی تباہی پر جشن چھپائے۔ انگریزوں کی کاسہ لیبی کو اپنے عقائد کا جزو سمجھا اور اس پر فخر کیا۔ حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر اور ہندوستان سے باہر کے اسلامی ملکوں میں برطانیہ کے لئے جاسوسی کی خدمات سرانجام دیتے رہے اور آزادی کے بعد بھی اپنی یہی خصوصیت برقرار رکھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ ۱۹۳۱ء میں کشمیری مسلمانوں کے ہمدرد ہو گئے اور پاکستان آتے ہی حصول کشمیر کی جدوجہد میں شریک ہو گئے۔ اس کا جواب تاریخ احمدیت (مولفہ دوست محمد شاہد) جلد ششم کے صفحہ ۳۲۵ تا ۳۶۹ میں مرقوم ہے کہ میرزائیوں کی بلوچستان اور کشمیر سے دلچسپی کا باعث مسیح موعودؑ اور ”مصلح موعود“ کے الہامی ارشادات ہیں یہ ذکر اوپر آچکا ہے کہ وہ اپنی سیاسی ضرورتوں کو الہامات کی شکل دے کر شروع کرتے ہیں۔ تاریخ احمدیت کا مولف حکیم نور الدین خلیفہ اول کے ایک انکشاف کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہے کہ:

”آپ نے کوہ ہمالیہ سے (مطلب ہے کشمیر) شروع ہو کر بلوچستان اور ڈیرہ غازیخان کے سب پہاڑی سلسلے گئے اور فرمایا ان پہاڑی قوموں کے اندر کوئی جائے ادب ان میں

زندگی پیدا کرے تو شاید ان میں حرکت پیدا ہو۔ (صفحہ ۳۹۵)

میرزا البشیر الدین محمود کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ:

- ① کشمیر اس لئے پیارا ہے کہ وہاں تقریباً اسی ہزار احمدی رہتے ہیں۔
- ② وہاں سچ اول دفن ہیں اور سچ ثانی دمیرزا غلام احمد کی بڑی بھاری جماعت اس میں موجود ہے۔

③ جس ملک میں دو مسیحوں کا دخل ہے وہ ملک بہر حال مسلمانوں کا ہے اور مسلمان صرف احمدی ہیں۔

④ نواب امام الدین جنہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے گورنر بنا کر کشمیر بھجوا یا تھا وہ اپنے ساتھ بطور مددگار میرزا محمود کے دادا میرزا غلام مرتضیٰ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اجازت سے لے گئے تھے۔

⑤ حکیم نذیر الدین دہلیف اول جو میرزا محمود کے خُضر بھی تھے ریاست میں شاہی طبیب رہے تھے۔

تاریخ احمدیت کے صفحہ ۴۸ پر اندرون کشمیر کے احمدیوں کا نقشہ دیا گیا ہے۔ یہ نقشہ ۱۹۳۱ء کی احمدی جماعتوں کے مقامات کو ظاہر کرتا ہے، اسی صفحہ کے ساتھ جنوں و کشمیر کا الگ نقشہ ہے جس میں جماعت احمدیہ کے حلقہ جات، مقامات اور مواضع کے نام دیئے گئے ہیں۔ بارہ مولا کے حلقے میں ۷، اسلام آباد کے حلقے میں ۶، کوکام کے حلقے میں ۲۲، بلو امر کے حلقے میں ۳، جموں میں ۲، اودھم پور میں ۳، ریاسی میں ۱۰، میر پور میں ۸، اور پونچھ میں ۴ جماعتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ سب جماعتیں ڈلہوزی سے گڑھی حبیب اللہ تک سرحدات سے متصل علاقوں میں قائم ہیں۔

### فرقان بٹالین

میرزا محمود نے ستمبر ۱۹۴۷ء کو رتن باغ لاہور میں مجلس شوریٰ بلائی اور اپنے

عمرزاد ایم ایم احمد ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے ایما پر جموں کی سرحد پر واقع گاؤں معراجکے میں چالیس پچاس قادیانیوں کی ایک کپنی تعینات کی۔ ان کی کمان اپنے بھائی میرزا مبارک احمد کے حوالے کی۔ جون ۱۹۴۸ء میں فرقان بٹالین قائم کی۔ یہ بٹالین تاریخ احمدیت کی روایت کے مطابق دو سال تک کشمیر کے محاذ پر لڑتی رہی۔ اس کا کیمپ سرانے عالمگیر کے قریب بنایا گیا۔ میرزا محمود امین الملک کا نام رکھ کر اس بٹالین کے کارناموں کا مشاہرہ کرنے محاذ پر گئے۔ اس فوج میں تاریخ احمدیت (صفحہ ۶۷۱) کے مطابق کوئی تین ہزار افراد تھے جن میں ہر حلقہ کے احمدی شامل تھے۔ خاندان مسیح موعود کے افراد، مبلغین احمدیت، مدرسہ احمد، جامعہ احمد اور تعلیم السلام کالج و اسکول کے اساتذہ و طلبہ، ڈاکٹر، زمیندار، دوکاندار، کلرک۔

فرقان بٹالین کا مقصد ایک تو وہی تھا کہ قادیانی اپنے سیاسی منصوبے کا راستہ صاف کرنا چاہتے تھے اور یہ ان کی عسکری تربیت کا پاکستان میں پہلا اجتماعی مظاہرہ تھا۔ اس کے علاوہ اسلحہ فراہم کرنا ان کا مقصد تھا۔ پونچھ کے مفتی اعظم کے الفاظ میں میرزائی اپنے اعراض مشورہ کو پروان چڑھانے کے لئے فرقان بٹالین کو معرض وجود میں لائے تھے۔ اس بٹالین پر یہ بھی شبہ کیا گیا کہ اس کی معرفت ہندوستانی فوج کو اطلاعات مل رہی ہیں لیکن یہ امر چونکہ حکومت کے انٹیلی جنس بیورو تک محدود تھا اس لئے اس باب میں صحیح معلومات معلوم نہ ہو سکیں۔ بہر حال حکومت کی خفیہ اطلاعات اور چیدہ چیدہ عطا کے بیانات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۵ جون ۱۹۵۵ء کو فرقان بٹالین توڑ دی گئی۔ یہ چیز اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ ریاست کشمیر میں ابتداً پاکستانی فوج کے نہ لڑنے اور ہندوستان میں جنرل آکن لیک کو اس سلسلہ کی معلومات مہیا کرنے کا واحد ذریعہ پاکستانی فوج کا کمانڈر انچیف جنرل ڈگلس گریسی تھا۔ جب فرقان بٹالین ختم کی گئی تو اس نے، اگرچہ کو اپنا دستخطی تہنیت نامہ لکھا جس میں اس کی خدمات کو سراہا گیا اور وہ خدمات سیالکوٹ کی سرحد پر جاسوسی کی خدمات

تھیں کہ بھارتی فوج نے اطلاع پاتے ہی اپنے مافقتی مورچوں کی نوعیت بدل لی تھی۔ کسی نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا کہ سیالکوٹ کے محاذ سے کٹھن دور تھا یا شکر گڑھ اور قادیان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اور ان میں کس قدر سرحدی قرابت ہے۔ ہندوستان نے مشرقی پنجاب کے ہر قصبہ و قریہ سے مسلمانوں کو محروم کر دیا لیکن میرزائی حضرات کو قادیان ہی میں رہنے دیا حالانکہ قادیان پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع قریبی قصبہ ہے۔ بالفرض قادیانی مسلمان ہیں تو ان مسلمانوں سے بھارتی حکومت نے یہ رعایت کیوں برتی؟ حقیقت یہ ہے کہ میرزائی قادیان کے لئے پاکستان بھی ادا کرنے کو تیار تھے۔ میرزا محمود کے تقسیم ملک کے خلاف وہ تمام خطبات مطبوعہ ہیں جن میں انہوں نے قبل از تقسیم پاکستان کو اپنے سیاسی اور دینی مفادات کے منافی قرار دیا ہے اسی طرح ۱۱ جون ۱۹۴۷ء کو میرزا صاحب نے پاکستان کے مطالبہ کو غلامی مضبوط کرنے والی زنجیر قرار دیا ان سے تحقیقاتی کمیٹی میں سوال کیا گیا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میرے ہی الفاظ ہیں۔

تاریخ احمدیت جلد دہم صفحہ ۶، ۷ پر الفاظ ذیل ملتے ہیں:

”ہم دل سے پہلے ہی اکھنڈ ہندوستان کے قائل تھے جس میں مسلمان کا پاکستان اور ہندو کا ہندوستان برضا و رغبت شامل ہوں اور اب بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے۔“

۳ جون ۱۹۴۷ء کو ملک کی تقسیم کا اعلان ہو گیا تو میرزا محمود نے یہ عنوان لکھ قوم کے نام و دمندانہ اپیل، ایک پمفلٹ لکھا جس کے آخری الفاظ تھے۔

”میں دعا کرتا ہوں کہ اسے میرے رب میرے اہل ملک کو سمجھ دے۔ اول تو یہ ملک بے نہیں اور اگر بٹے تو اس طرح بٹے کہ پھر مل جانے کے راستے کھلے رہیں۔ اللہم آمین۔“

مسٹر ایم ایم احمد کے والد میرزا بشیر احمد ایم اے نے بھی تقسیم پنجاب کے موضوع پر کئی ایک مقالات لکھے جس میں انہی خیالات کا اظہار کیا جو تقسیم کے خلاف میرزا محمود کے افکار کو محیط تھے۔

۳۱ اپریل ۱۹۴۷ء کو چودھری ظفر اللہ خان کے بیٹے کا نکاح تھا، میرزا صاحب نے فرمایا۔

”ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندو مسلم سوال اٹھ جائے، ساری قومیں شیر و شکر ہو کر رہیں۔ ملک کے حصے بخرے نہ ہوں۔ ممکن ہے عارضی طور پر کچھ افتراق ہو اور کچھ وقت کے لئے دونوں قومیں جدا جدا ہوں مگر یہ حالت عارضی ہوگی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حالت جلد دور ہو جائے۔ بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھا ہندوستان بنے اور ساری قومیں باہم شیر و شکر ہو کر رہیں۔“

(الفضل ۵ اپریل ۱۹۴۷ء)

۱۴ مئی ۱۹۴۷ء کو بعد از مغرب مجلس علم و عرفان میں فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے، ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم راضی ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے پھر یہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد متحد ہو جائیں۔“

میرا نکو اتری رپورٹ کے مولفین نے بھی قادیانی اُمت کی اس روش کو تسلیم کیا ہے کہ وہ برعظیم کی تقسیم کے مخالف تھے اور قادیان کا حصول ان کے عقیدہ کا جزو لاینفک ہے، میرزا محمود نے اس غرض سے ۲۹ دسمبر ۱۹۵۶ء کو اپنے ایک خط میں کہا،

”ہا یوس نہ ہونا، خدا تعالیٰ پر توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ کے اندر ایسے سامان پیدا کرے گا آخر یہودیوں نے ۱۲ سو سال انتظار کیا۔ پھر فلسطین میں آگئے۔ آپ لوگوں کو تیرہ سو سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا ممکن ہے ۱۲ بھی نہ کرنا پڑے ممکن ہے دس بھی نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے نونے تمہیں دکھائے گا۔“ (الفضل ۱۵ مارچ ۱۹۵۷ء)

۱۹۶۵ء کی جنگ

۱۹۶۵ء کی جنگ سے متعلق نواب کالا باغ گورنر مغربی پاکستان نے اپنے کئی دوستوں



سے بیان کیا اور راقم کو بھی عند الملاقات یہ کتھاسائی کہ ۱۹۶۵ء کی جنگ سے پہلے جہڑل ملک اختر حسین مجھ سے ملنے آئے۔ میں نے پس و پیش کیا۔ آخر ان کے زور دینے پر ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کشمیر کے محاذ پر جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایوب خان نہیں مانتے میں ایوب سے کہوں کہ حصول کشمیر کے لئے یہ بہترین وقت ہے۔ میں جانتا تھا کہ اختر ملک قادیانی ہیں اور میرے پاس وہ مہینڈ بل بھی آچکا تھا جو میرزا میوں نے کشمیر میں تقسیم کرایا تھا کہ مسیح موعود کا زمان ہے کشمیر میری اُمت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ نواب صاحب نے ۱۹۶۵ء کی جنگ کو بین الاقوامی سازش کا حصہ قرار دیتے ہوئے ساری کہانی بیان کی کہ پاکستان کو تاراج کرنے کے لئے کن لوگوں نے کیا عمل کیا؟

نواب کالا باغ حقیقتہً فیلڈ مارشل ایوب خان کے غایت درجہ وفادار تھے ان پر کبھی تنقید کرتے تو عموماً دو چیزوں پر اظہار ناراضگی فرماتے۔ اولاً یہ کہ ان کے گرد و پیش لادین عناصر جمع ہو گئے ہیں، ثانیاً ان کے مزاج میں قادیانی و خیل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ روایت خود مجھ سے ایس آئی حق سابق چیف سیکرٹری مغربی پاکستان نے بیان کی کہ مرکزی کابینہ کی ایک میٹنگ میں علامہ کاسلہ زیر بحث تھا۔ ایم ایم احمد بھی شریک تھا۔ اکثر وزراء نے زور دیا کہ علامہ اس ملک کے لئے رجعت و مصیبت کا باعث ہو گئے ہیں انہیں گریڈیشن روز اول کے مصداق کھونٹے پر باندھا جائے۔ ساری کابینہ متفق نظر آرہی تھی کہ سٹرلے ٹی ایم مصطفیٰ نے شدت سے مخالفت کی اور یہاں تک فرمایا کہ علامہ کی آڑ میں اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے کوئی غلط فیصلہ ہوا تو وہ کابینہ سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اسی اجلاس میں نواب کالا باغ نے ایم ایم احمد کو گھورتے ہوئے کہا کہ جن مولویوں سے آپ لوگ نالاں ہیں ان کی خطا کیا ہے یہی کہ وہ اس ملک میں اللہ و رسول کا نام لیتے ہیں۔ آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آتے جو یہاں نبوت کا کھڑا گرجا کہ خلافت بنائے بیٹھے ہیں اور میری معلومات کے مطابق ان کے خطرناک سیاسی منصوبے اس ملک کو تہس نہس کرنے کی خفیہ کوششوں کا حصہ

ہیں۔ نواب کالا باغ کی اس گھر کی پرستش ختم ہو گیا لیکن اُدھر یہ واقعہ ہے کہ نواب زادہ لیاقت علیا  
چودھری ظفر اللہ کو الگ کرنے کا سوچ رہے تھے اور مرزا محمود کے بعض سیاسی عوام سے متعلق  
اُن سے جواب لینا چاہتے تھے کہ راولپنڈی میں ایک شخص سید اکبر کی گولی کا نشانہ  
ہو کر شہید ہو گئے۔

نواب کالا باغ اس کے بعد میرزا میوں کی نگاہ میں رٹکنے لگے۔ آخر میرزا فی امت  
کی سازش کا شکار ہو کر گورنری سے الگ ہو گئے تھے کہ انہیں بھی گولی کھا گئی۔ اس قسم کے  
شواہد و نظائر موجود ہیں کہ جس نے بھی میرزا فی امت کا محاسبہ کیا وہ اس کی احتسابی سازش  
کا شکار ہو گیا۔ ان لوگوں نے ایسے کسی شخص کو معاف نہیں کیا جو ان کے نزدیک قادیانی جماعت  
کا نکتہ میں رہا ہو یا کبھی ان کا دوست نہ تھا۔

### آستین کے سانپ

ہندوستان مخلوط تھا اور حکمران انگریز تھے تو میرزا فی امت مسلمانوں میں تبلیغ کا حوصلہ نہ  
رکھتے تھے۔ وہ مسلمان عوام میں سیاست رچانے سے محروم ہو چکے تھے لیکن پاکستان بنتے  
ہی وہ سرکش گھوڑے کی طرح ہو گئے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس ملک کی عنان گویا ان کے  
ہاتھ میں ہوگی۔

شاہ جی نے احرار دوستوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کے بعد ۱۹۴۹ء کی آخری سہ ماہی  
میں فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کے سیاسی عوام سے حکومت کو مطلع کرتے رہنا چاہیے۔ وٹا منی  
احسان احمد شجاع آبادی اس غرض سے نامزد کئے گئے انہوں نے اکابر حکومت کو میرزا میوں  
نے خط و خال سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ جہاں تک میرزا میوں کے خلاف دینی مواد کا تعلق تھا  
وہ سارا کام مولانا محمد علی جالندھری اور دوسرے رفقاء کے سپرد کر دیا کہ ان کا تعاقب ہوتا  
ہے خود بھی گا ہے ما ہے مختلف شہروں کے جلسہ ہائے عام میں جانے لگے۔ فوری اثر یہ  
ہوا کہ میرزا فی امت جن رفقاء سے بڑھ رہے تھے اس میں کمی آگئی۔ ادھر اوکاڑہ میں ایک

احمدی مدرس محمد اشرف اپنی سرکشی کے باعث ایک نوجوان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ راولپنڈی  
 باغ گوالمنڈی میں ایک شخص ولایت خان نے بدر دین احمد کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔  
 قتل انسانی کسی لحاظ سے بھی پسندیدہ فعل نہیں، مزادینے کا حق حکومت کی عدلیہ کو ہے لیکن  
 ان حالات کے واحد ذمہ دار میرزا محمود تھے جو کسی روک ٹوک کے بغیر احمدیوں کو قتل و خون کی  
 دعوت دے رہے تھے ان کا فرمان تھا کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائیگا  
 کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں؛

(انوار السلام صفحہ ۳)

میرزا محمود قادیان، بہار، افراد کو قتل کرانے کے ماہر سمجھے جاتے تھے اس غرض سے وہ  
 اپنے والد کی پیش گوئیاں اور اپنے ذاتی "الہام" استعمال کرتے۔ مسلمانوں کو کافر، سورا اور  
 ان کی عورتوں کو کتیا کہتے رہے۔ ان کے لئے کوئی روک یا پُرسش نہ تھی قادیان میں ایک شہزادی  
 حکومت قائم تھی۔ مولوی عبدالکریم مبادلہ کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس کا مکان جلا ڈالا، محمد حسین  
 کو قتل کر دیا جب قاتل پھانسی پا گیا تو اس کا جلوس نکالا اور بہشتی مقبرے میں دفن کر لیا۔  
 یہ چیز پھیلے اوراق میں آپکی ہے کہ میرزا محمود نے ایک شخص راجندر سنگھ آتش کو  
 شاہ جی کے قتل پر مامور کیا لیکن وہ ضمیر کی سرزنش پر منحرف ہو گیا۔ ۱۵ جنوری ۱۹۵۲ء کے  
 الفصل میں میرزا محمود نے اعلان کیا کہ:

”آخری وقت آپہنچا ہے ان علمائے حق کے خون کا بدلہ لینے کے لئے جن کو یہ علماء  
 قتل کراتے آئے ہیں اب ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا“

اور وہ زیر عتاب علماء کون تھے۔ میرزا محمود نے ان کے نام بھی درج کئے تھے۔

① سید عطاء اللہ شاہ بخاری

② ملا احتشام الحق تھانوی

③ ملا عبدالحامد بدایونی

④ ملا دمقٹی، محمد شفیع

⑤ ملا مودودی

جلسہ منیر اور ان کے مآخذ یعنی سی آئی ڈی کے ارباب بست و کشاد کے اس الزام کی تردید تو اسی اعلان سے ہو جاتی ہے کہ تحریک ختم نبوت احرار احمدی نزع تھا یا کیا تھا۔ شاہ جی کے سوا باقی چار میں سے کوئی بھی احرار سی نہ تھا اور نہ کبھی احرار سے وابستہ رہا۔ مولانا عبدالحامد بدایونی، مولانا احتشام الحق تھانوی اور مفتی محمد شفیع شروع ہی سے لیگ میں تھے۔ شاہ جی یا دوسرے زعمان تہدیدوں کا نوٹس نہ لیتے تو غلط ہوتا۔ میرزا کی ارٹان لکھائیوں ہی کا نتیجہ تھا کہ تحریک ختم نبوت کے مطالبات واضح و مدون ہوتے گئے۔

۱۷ مئی ۱۹۵۶ء کو چودھری ظفر اللہ خان نے جہانگیر پارک کراچی میں احمدیوں کے ایک جلسہ عام کو خطاب کیا، خواجہ ناظم الدین نے انہیں منع کیا کہ وہ اس جلسہ میں شریک نہ ہوں لیکن چودھری صاحب زمانے اور خواجہ صاحب سے کہا کہ وزیر اعظم اس بات پر مصر ہوں تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کو تیار ہیں۔

”چودھری صاحب نے جلسہ میں فرمایا کہ:

احمدیت ایک ایسا پودا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود لگایا ہے، وہ اب جڑ پکڑ گیا ہے اگر یہ پودا اکھاڑ دیا گیا تو اسلام ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے باقی نہ رہے گا بلکہ ایک سوکھے ہوئے درخت کی مانند ہو جائے گا اور دوسرے مذاہب پر اپنی برتری کا ثبوت مہیا نہ کر سکے گا“ (تحقیقاتی رپورٹ اردو متن صفحہ ۷۷)

اس جلسہ کے رد عمل میں فساد ہو گیا نتیجتاً میرزا اسیوں کی بعض عمارتوں کو نقصان پہنچا۔

آل پاکستان مسلم پارٹیز کنونشن

جب پانی سر سے گزر گیا اور میرزا فی منہ زوری کے علاوہ سینہ زوری پر ٹل گئے تو مولانا لال حسین اختر نے تھیو سونیکل ہال کراچی میں آل پاکستان مسلم پارٹیز کے مقامی زعماء کی ایک کانفرنس بلوائی۔ جس میں ظفر اللہ خان کے جلسہ سے پیدا شدہ صورت حال پر غور کیا گیا اور قادیانی مسئلہ سے متعلق مطالبات مرتب کرنے کے لئے ۳ جون ۱۹۵۶ء کو ایک مجلس مشاورت

طلب کی گئی۔ اس دعوت نامہ پر مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا عبدالحماد بدایونی، مفتی جعفر حسین مجتہد، مولانا محمد یوسف کلکتوی اور مولانا لال حسین اختر کے دستخط تھے۔  
ذیل کے مطالبات مرتب کئے گئے۔

- ① قادیانیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔
- ② چودھری ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ کے عہدے سے سبکدوش کیا جائے۔
- ③ تمام کلیسیائی عہدوں سے احمدیوں کو ہٹا دیا جائے۔
- ④ ان مقاصد کو قطعی شکل دینے کے لئے آل پاکستان مسلم پارٹی رکنز کنونشن منعقد کی جائے۔
- ⑤ علامہ سید سلیمان ندوی نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ کنونشن منعقد کرنے کے لئے ایک بورڈ بنایا گیا۔ جلسہ عام میں محمولہ مطالبات کی تصدیق کرائی گئی۔ بورڈ کے ارکان حسب ذیل تھے۔

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ① علامہ سلیمان ندوی                              | ② مفتی محمد شفیع         |
| ③ مولانا عبدالحماد بدایونی                       | ④ علامہ محمد یوسف کلکتوی |
| ⑤ علامہ مفتی صاحب واد صاحب                       | ⑥ علامہ سلطان احمد       |
| ⑦ علامہ شاہ احمد نورانی                          | ⑧ مولانا لال حسین اختر   |
| ⑨ الحاج ہاشم گزدر                                | ⑩ مفتی جعفر حسین مجتہد   |
| ⑪ مولانا احتشام الحق تھانوی کنوینر مقرر کئے گئے۔ |                          |

۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء کو الحاج محمد ہاشم گزدر کے مکان پر بورڈ کا اجلاس ہوا، مندرجہ تحت جماعتوں کو کنونشن میں شمول کے لئے دعوت نامے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| ① جمعیتہ العلماء پاکستان | ② جمعیتہ العلماء اسلام       |
| ③ جماعت اسلامی           | ④ تنظیم اہل سنت والجماعت     |
| ⑤ جمعیتہ اہل سنت         | ⑥ جمعیتہ اہل حدیث            |
| ⑦ موتمر اہل حدیث پنجاب   | ⑧ ادارہ تحفظ حقوق شیعہ پنجاب |

- ⑨ سفینۃ المسلمین  
 ⑩ حزب اللہ مشرقی پاکستان  
 ⑪ مجلس تحفظ ختم نبوت  
 ⑫ مجلس احرار  
 ⑬ جمعیت العربیہ  
 ⑭ جمعیتہ الفلاح  
 لاہور کنونشن

شاہ جی صورت حال کے بگاڑ کو پوری طرح جان چکے تھے اور ان کی نگاہ پاکستان میں قادیانی مسئلے کے احوال و وقائع پر تھی۔ انہوں نے رفتار کو مشورہ دیا کہ وہ خود جا کر ہر مکتب خیال کے علماء کو قادیانی اُمت کے عوام سے آگاہ کریں پھر اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے جو راستے ان سب کی ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

چنانچہ شاہ جی کی حسب ہدایت ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء کو لاہور میں آل مسلم پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی اس کانفرنس کا دعوت نامہ حسب ذیل حضرات کے دستخطوں سے جاری ہوا۔

• مولانا غلام محمد ترنم • مفتی محمد حسن • مولانا احمد علی • مولانا محمد علی جالندھری  
 • مولانا داؤد غزنوی • مولانا نور الحسن بخاری • سید مظفر علی شمسی • مولانا غلام غوث ہزارہی  
 شاہ جی تشریف لائے تو پہلی قطار میں ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے دائیں طرف حضرت پیر سید مہر علی شاہ گورہہ شریف کے فرزند ارجمند سید غلام محی الدین شاہ تشریف فرما ہیں۔ شاہ جی دفعۃً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ صاحبزادہ صاحب کے پاؤں کی طرف احتراماً بڑھا دیئے لیکن صاحبزادہ صاحب نے روک کر معانقہ کیا۔ اس کانفرنس میں ذیل کے مطالبات طے کئے گئے۔

① میرداسیوں کو مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دیا جائے۔

۱۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ پر ختم نبوت کے مسئلہ میں سرکاری افسروں کے رویے اور ان کے اہتمام میں غمن خرابہ کی جامع دستاویز ہے۔

۷) چودھری نظر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے سبکدوش کر دیا جائے۔

۸) میرزائی افسروں کو کلیدی آسامیوں سے الگ کیا جائے۔

۹) ریلوے کی بقیہ اراضی پر مہاجرین کو آباد کیا جائے۔

بزرگ عظیم کی تاریخ میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ تمام مکاتیب خیال کے علماء و دانش خ اس طرح اکٹھے ہوئے تھے۔

کراچی میں ۳ جولائی کو اسی مسئلہ پر غور کرنے کے لئے علماء و دانش خ کا اجتماع ہوا تو لاہور سے مولانا ابوالحسنات قادری، شیخ حسام الدین، ماسٹر تاج الدین انصاری اور مولانا مرتضیٰ احمد میکیش شامل ہوئے۔ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ۱۶، ۱۷، ۱۸ جنوری کو کراچی میں کنونشن منعقد کیا جائے۔ اس دوران میں حکام مجاز نے طرح طرح کے فیصلے کئے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ ان کے دماغ کی غلطیاں تھیں یا دل کی شرارتیں۔ بہر حال تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں سرکاری افسروں کے حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوسرے تمام علماء و اکابر کو نظر انداز کر کے اس مسئلہ میں صرف احرار کو مطلق کرنے پر تکیے ہوئے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ اس کا لازم اضرار پر عائد کریں۔ انہوں نے اس سلسلہ میں ایک نہیں کئی غلطیاں کیں۔ دوسرے تمام عناصر جو اس مسئلہ میں پیش پیش تھے اور آخر تک نمایاں و ممتاز رہے ان کی تعداد بہ مقابلہ احرار کسی طرح بھی نوے فیصد سے کم نہ تھی اور یہ وہی لوگ تھے جو کبھی کانگریس یا اس کی ہم خیال جماعت میں نہ رہے تھے اور ہمیشہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا ان کے متعلق ہمیشہ یہی فیصلہ کیا گیا کہ انہیں نہ پکڑا جائے لیکن شیخ حسام الدین، ماسٹر تاج الدین انصاری، سید عنایت شاہ بخاری اور صاحبزادہ فیض الحسن شاہ وغیرہ کو پکڑا گیا کہ وہ احرار کے راہنما تھے۔ سرکاری افسر غالباً ریلوے کے مشورہ سے مسئلہ کو احرار احمدی نزع کا نام دے کر احرار کو ختم کرنے کے منصوبہ کی تیاری میں منہمک تھے۔ اس افسر شاہی کا خمیازہ ۱۸ جولائی ۱۹۵۲ء کو اہل بلقان نے جگمگا کہ تھاؤ کپ سے باہر پولیس نے احتجاجی جلوس پر فائرنگ کی۔ تین آدمی شہید اور تیرہ زخمی

ہوئے۔ ان زخمیوں میں سے بھی تین ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ حکومت نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو انکو آڑی پر مقرر کیا اس نے پولیس فائرنگ کو جائز قرار دیا۔ اس افسر شاہی کے کا ایک مظہر آغا احمد رضا، ڈپٹی کمشنر ملتان تھا جو ایک بد مزاج قسم کا افسر تھا اسے ہمیشہ یہ زعم رہا کہ وہ کوئی اعلیٰ مخلوق ہے حالانکہ وہ محض ایک ڈپٹی کمشنر ہی تھا۔

اس المیہ کا مسلمانوں کو بڑا صدمہ تھا کہ ایک تھانیدار نے مسلمانوں کے احتجاج کو اپنے تشدد و کائنات نہ بنایا جس سے نوبت گولی تک جا پہنچی۔

اسی دوران میں مسلم لیگ کی مختلف شاخوں نے مندرجہ بالا مطالبات کی تائید کی حتیٰ کہ صوبہ مسلم لیگ کی مجلس عالی نے بھی اس ضمن میں ایک تائیدی قرار داد پاس کی جس میں میرزا نیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ منیر انکو آڑی رپورٹ کے مطابق ۶ مارچ ۱۹۵۳ء سے پہلے صوبہ بھر میں ۳۹۰ جلسے ہوئے جن میں ۱۶۷ کا اہتمام مجلس احرار کی شاخوں نے لیا اور ان میں محولاً بالا مطالبات کی تائید کی گئی۔

جو علماء کراچی کانفرنس میں شریک ہوئے وہ یہ تھے۔

- |  |  |
|--|--|
| ① مولانا ابوالاعلیٰ مودودی               | ② سید عطاء اللہ شاہ بخاری                |
| ③ مولانا ابوالحسنات قادری                | ④ مولانا محمد یوسف بجنوری                |
| ⑤ مولانا احمد علی لاہوری                 | ⑥ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹ             |
| ⑦ مولانا شمس الحق وزیر معارف قلات        | ⑧ خلیفہ حاجی ترنگ زئی پشاور              |
| ⑨ پیر سر سید شریف ڈھاکہ                  | ⑩ مولانا راجب احسن ایم اے ڈھاکہ          |
| ⑪ مولانا انظر علی ڈھاکہ                  | ⑫ مولانا سخاوت الانبیار ڈھاکہ            |
| ⑬ مولانا حاجی محمد امین امیر جماعت ناجیہ | ⑭ مولانا عزیز الرحمن ناظم حزب اللہ ڈھاکہ |
| ⑮ مفتی محمد حسن جامعہ اشرفیہ لاہور       | ⑯ مولانا محمد ادریس کاندھلوی             |
| ⑰ مولانا ناز احمد عثمانی                 | ⑱ علامہ سید سلیمان ندوی                  |



- (۱۹) مفتی محمد شفیع دیوبندی  
 (۲۰) مولانا سلطان احمد امیر جماعت اسلامی کراچی  
 (۲۱) مولانا مفتی صاحب خان صاحب نندھری کراچی  
 (۲۲) مولانا عبدالحامد الیونی  
 (۲۳) مولانا محمد یوسف کلکتوی  
 (۲۴) مولانا محمد اسماعیل گوجرانوالہ  
 (۲۵) مولانا سید محمد داؤد دہلوی  
 (۲۶) مولانا محمد علی جالندھری  
 مولانا احتشام الحق تھانوی۔  
 حسب ذیل قراردادیں منظور کی گئیں۔

(۱) چونکہ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم پاکستان کے رویے کے پیش نظر اس امر کی کوئی امید نہیں کہ میرزا میوں کے متعلق مطالبات تسلیم کر لئے جائیں گے اس لئے آل پاکستان مسلم پارٹی نے کونشن اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان حالات میں مطالبات کو تسلیم کرنے کے لئے "راست اقدام" ناکزیر ہو گیا ہے۔

(۲) چونکہ حکومت میرزا میوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر آمادہ نہیں اس لئے ایسی تدابیر اختیار کرنا لازم ہو گیا ہے کہ فرقہ میرزائیت کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیا جائے ان تدابیر میں سے ایک یہ ہے کہ اس فرقے کا کامل مقاطعہ کیا جائے۔

(۳) چونکہ میرزائی وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان کی برطرفی کا مطالبہ اب تک منظور نہیں کیا گیا اس لئے کونشن خواجہ ناظم الدین سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ مسلمانان پاکستان اپنے دینی عقائد پر عمل کرنے اور اسلامی روایات کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں۔

(۴) مذکورہ بالا مطالبات کو عملی صورت دینے کی غرض سے کونشن تجویز کرتی ہے کہ وہ معزز و مقتدر مسلمانوں اور مختلف مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کو جنرل کونسل کا ممبر بنائے۔

(۵) جنرل کونسل اپنے پندرہ ممبروں کو منتخب کرے جو مجلس عمل کے ممبر قرار پائیں۔

جنرل کونسل مندرجہ ذیل آٹھ اصحاب کو مجلس عمل کا ممبر منتخب کرتی ہے۔

- (۱) مولانا سید ابوالحسنات قادری  
 (۲) امیر شریعت۔ تھ عطار اللہ شاہ بخاری

- ④ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی  
 ⑤ حافظ کفایت حسین  
 ⑥ مولانا احتشام الحق تھانوی  
 ⑦ مولانا عبدالحامد بدایونی  
 ⑧ مولانا محمد جعفر پیر صاحب سرسینہ شریف مشرقی پاکستان  
 ⑨ مولانا محمد یوسف کلکتوی۔

ادراں ممبروں کو اختیار دیتی ہے کہ بقیہ سات ممبروں کو اپنی مرضی سے نامزد کر لیں۔  
 (۶) مجلس عمل کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مطابقت کو منظور کرانے کے لئے لائحہ عمل مرتب کرے۔

(۷) مجلس عمل کو ہدایت دی جاتی ہے کہ کوئی عملی پروگرام اختیار کرنے سے پیشتر ایک نمائندہ وفد مرتب کرے جو مرکزی حکومت سے ملاقات کر کے اس کو لوگوں کے آخری فیصلے سے مطلع کر دے۔ اس وفد کو اختیار ہوگا کہ کامینہ کو آخری جواب کے لئے مزید وقت دے۔ اسی دن نماز مغرب کے بعد مجلس عمل کے آٹھ ممبروں کا اجلاس ہوا اور مندرجہ ذیل سات ممبروں کو شامل کیا گیا۔

- ① پیر غلام مجدد سرہندی  
 ② مولانا نور الحسن  
 ③ ماسٹر تاج الدین انصاری  
 ④ مولانا اختر علی خاں  
 ⑤ مولانا محمد اسماعیل گوجرانوالوی  
 ⑥ صاحبزادہ فیض الحسن شاہ  
 ⑦ حاجی محمد امین سرحدی۔

اس اجلاس میں مجلس عمل نے ایک وفد مرتب کیا جو خواجہ ناظم الدین سے ملاقات کرنے چنانچہ ایک وفد جس کے رئیس مولانا عبدالحامد بدایونی اور جس کے شرکا۔ (۱) پیر صاحب سرسینہ شریف (۲) سید مظفر علی شمسی سیکرٹری ادارہ تحفظ حقوق شیعہ لاہور (۳) ماسٹر تاج الدین انصاری صدر مجلس احرار تھے۔

وفد ۲۲ جنوری ۱۹۵۳ء کو خواجہ ناظم الدین سے ملاقی ہوا۔ خواجہ صاحب نے مطابقت

پر ہمدردی کا اظہار کیا لیکن فرمایا کہ وہ ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں۔

خواجہ ناظم الدین ۱۶ فروری ۱۹۵۳ء کو لاہور آئے تو مولانا اختر علی خاں، مولانا ابوالحسنات سید مظفر علی شمس، ماسٹر تاج الدین انصاری اور حافظ خادم حسین پر مشتمل ایک وفد ان سے دوبارہ ملا۔ خواجہ صاحب نے بعض شکلات کے پیش نظر وہی عذر کیا کہ وہ ان مطالبات کو تسلیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ۲۱ فروری ۱۹۵۳ء کو علماء کا ایک وفد جس میں مولانا علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا احتشام الحق تھانوی، مفتی محمد شفیع، مولانا عبدالحماد بدایونی اور مولانا اختر علی خان شامی تھے۔ خواجہ صاحب سے کراچی میں ملا اور انہیں بتایا کہ الٹی میٹم کا ایک مہینہ گزر چکا ہے۔ اگلے روز ماسٹر تاج الدین انصاری، مولانا ابوالحسنات اور سید مظفر علی شمس سردار عبدالرب نشتر کی موجودگی میں خواجہ صاحب سے ملے اتمام حجت کیا۔ خواجہ صاحب نے اس وفد کو وہی منفی جواب دیا کہ نہ تو ان کے مطالبات تسلیم کئے جاسکتے ہیں اور نہ وہ انہیں دستور ساز اسمبلی میں پیش کرنے پر آمادہ ہیں۔ فرمایا کہ میرزا میوں کو چھپڑنے سے امریکہ نہ بھیں گندم دے گا اور نہ مسئلہ کشمیر کے حل میں ہماری مدد کرے گا۔ واضح ہے کہ ان دنوں ملک کا دستور آخری مراحل میں تھا اور علماء کی مجلس عمل کو اصرار تھا کہ میرزا میوں کو مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دیا جائے۔ خواجہ صاحب کے دو ٹوک فیصلے سے مجلس عمل کے زعماء مایوس ہو گئے تو ۶ فروری ۱۹۵۳ء کو صورت حال پر غور کرنے کے لئے کراچی ہی میں اجلاس کیا۔ حضرات ذیل شریک اجلاس تھے۔

ماسٹر تاج الدین انصاری - سید عطاء اللہ شاہ بخاری - صاحبزادہ فیض الحسن - سید نور الحسن بخاری - مولانا سلطان احمد امیر جماعت اسلامی سندھ - مولانا عبدالحماد بدایونی - مولانا احتشام الحق تھانوی - مولانا محمد یوسف کلکتوی اور سید مظفر علی شمس - مولانا ابوالحسنات

نے اجلاس کی صدارت کی اور فیصلہ کیا کہ راستہ اقدام کی شکل کیا ہو۔ پانچ رضا کار مطالبات کے جھنڈے اٹھا کر وزیراعظم کی کونٹھی پر جائیں اور پُرا سن رہ کنہ لگاتار مظاہرہ کریں اسی قسم کا مظاہرہ گورنر جنرل کی کونٹھی پر جاری ہے۔ مولانا ابوالحسنات کو پہلا ڈکٹیٹ مقرر کیا گیا اور عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ رضا کاروں کے ساتھ مطلقاً نہ جائیں۔

حکومت نے ۲۶ اور ۲۷ فروری کی درمیانی رات — سید عطاء اللہ شاہ بخاری، اور ان کے رفقاء کو گرفتار کر لیا اور پنجاب میں احرار کے متعلقین کو پکڑنے کے جیلوں میں ڈال دیا۔ اس جانبدارانہ تشدد سے لوگ برا فروختہ ہو گئے اور صوبہ بھر میں برہمی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، راولپنڈی، لائل پور اور مظفر گڑھ میں لوگوں نے اس شدت سے احتجاج کیا کہ لار اینڈ آرڈر کی آبرو اٹھ گئی اور قریب قریب نظام حکومت معطل ہو گیا۔ لاہور کے احتجاجی مظاہرے قابو سے اس قدر باہر ہو گئے کہ چھ مارچ کو شہر فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ جو کچھ لاہور میں ہوا راقم اس کا چشم دید گواہ ہے۔

(۱) اس میں کوئی شک نہیں کہ احتجاجی جلوس ہزارہا لوگوں پر مشتمل ہوتے اور میرزا یوں کے خلاف پُرجوش نعرے بلند کئے جاتے تھے لیکن عام جلوس دہلی دروازے سے شروع ہو کر چیرنگ کر اس پر ختم ہو جاتے کسی مرحلے میں بھی اہل جلوس کی طرف سے کوئی سی بد نظمی کا ارتکاب نہ ہوا۔

(۲) ان پُرا سن مظاہروں کا خاتمہ شکل تھا۔ انتظامیہ کے پاس ایسا کوئی قانون نہ تھا جس سے وہ مظاہرے ختم کر سکتی۔ راقم سے خود ایک پرنٹڈ نٹ پولیس نے بیان کیا کہ ہر روز کے اس جلوس کو ختم کرنے کے لئے وہ تشدد کی طرح ڈال کر قضیہ نمٹا دیں گے۔

(۳) چنانچہ حکام نے اپنے سفید پوش اہل کاروں کی معرفت پولیس پر پتھر اوکیا اور اس طرح فائرنگ کی بنیاد رکھی۔

(۴) شہر کے مختلف حصوں میں پولیس اور عوام میں تصادم شروع ہو گیا۔ نتیجہ سید فردوس شاہ

ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس کو لوگوں نے مار ڈالا۔ مرحوم کے خلاف یہ الزام تھا کہ اس نے چوک  
داگران میں مظاہرین کو برسی طرح مارا اور قرآن مجید کی توہین کی تھی۔ مسجد وزیرخان کے پاس  
ایک بجوم نے اسے گھیر لیا پھر جھجروں اور لاشیوں سے حملہ کر کے وہیں ہلاک کر دیا۔ سید فرخ شاہ  
کے جسم پر زخموں کے ۵۲ نشان تھے۔

(۵) کئی جگہ قادیانی، جیپ میں سوار ہو کر فائرنگ کرتے رہے لیکن انہیں روکنے اور  
ٹوکنے والا کوئی نہ تھا بعض قادیانی العقیدہ پولیس افسروں نے اپنے علاقہ میں مسلمان نوجوانوں  
کو بے دریغ شہید کیا۔

(۶) اس وحشیانہ تشدد کے ہاتھوں تنگ آ کر مسلمانوں نے مسجد وزیرخان میں کیمپ لگا  
لیا اور پولیس کی رپورٹوں کے مطابق ایک متوازی حکومت قائم کی اس کیمپ کے انچارج  
مولانا عبد الستار خان نیازی تھے۔

(۷) لاہور میں مال روڈ پر چینیز لہجہ بولنے والے ہوم کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ۱۵ سے ۲۲  
سال کی عمر کے نوجوانوں کی ایک جماعت پر ملک حبیب اللہ سپرنٹنڈنٹ سی آئی ڈی نے  
گوئیوں کی بوجھاڑ کر انی اور دس بارہ بے گناہ نوجوانوں کو شہید کر وا ڈالا۔ یہ نظارہ انتہائی  
دردناک تھا۔

(۸) ناہور چھاؤنی کے طرہی ہسپتال میں بہت سے مظاہرین جو فوج کی گولی سے مجروح ہوئے  
تھے انتہائی استقامت سے پڑے تھے ان میں سے ایک نوجوان نے ہوش میں آتے ہی اپنے  
کنٹرل ڈاکٹر سے سوال کیا اس کے چہرے پر کسی خوف کے آثار تو نہیں ہیں؟ جب اسے کہا گیا کہ  
ایسا نہیں ہے تو اس کا چہرہ فخر و مسرت سے تمتا اٹھا۔

(۹) مارچ کو مارشل لا نافذ کر کے سارا شہر فوج کی نذر کر دیا۔ فوج نے اپنی ہی قوم  
کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا کہ اس سے پہلے کم سے کم دونسلیں مارشل لا کی سنگینی سے  
نا آشنا تھیں۔

(۱۰) مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو ملٹری کورٹ نے موت کی سزائیں دیں اور ان دونوں حضرات نے پھانسی کی کوٹھری میں جس بے نظیر استقامت و ایمان کا مظاہرہ کیا وہ حیرت انگیز تھا۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنے لڑکے سے کہا کہ اس حکومت سے کوئی اپیل نہ کرنا پھانسی پا جاؤں تو انہی کپڑوں میں دفن دینا۔ مولانا سے چند قدم آگے مولانا عبدالستار خان نیازی پھانسی کی کوٹھری میں بند تھے وہ ان کے ملاقاتیوں کو لٹکارتے اور کہتے کہ اس بزدل حکومت میں یہ جرات نہیں کہ مجھے پھانسی پر لٹکا سکے۔ بھلا مولانا کو پھانسی پر کیونکر لٹکا سکتی ہے۔ وہ کسی حالت میں بھی مولانا کو پھانسی پر لٹکانے کا خطرہ مول نہیں لے گی وہ اپنی موت سے ڈرتی ہے۔

(۱۱) اولڈ پولیس، ٹانیا مارشل لا۔ ان دونوں کے ہاتھوں لاہور کے مسلمانوں کی جو بے عزتی کی گئی وہ تشدد و بہیمیت کا ایک ایسا سانحہ تھا کہ اس سے پہلے کسی نے ۳۴ برس میں ایسا اندوہناک ڈرامہ نہیں دیکھا تھا۔

(۱۲) انگریزوں کے زمانہ میں لاہور کا شاہی قلعہ سیاسی اسیروں کے خلاف استعمال ہوتا تھا اس تحریک میں بھی کئی علماء کو گرفتار کر کے قلعہ میں لے جایا گیا وہاں ایک ایسے ڈپٹی پرنسپل پولیس کو ان سے استفسار پر لگایا گیا جو انگریزوں کے زمانہ سے چھوٹے سیاسی مقدمے بنانے میں ماہر تھا اور جس کو اپنے طرز استبداد پر ہمیشہ ناز رہا۔

اس نے ان علماء کے خلاف اس قسم کی واہیات زبان استعمال کی کہ ایک شریف آدمی تنہا میں بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ مثلاً اس نے بعض خوبصورت لڑکے کو ٹھیلوں میں ان کے ساتھ ڈال دیئے اور استہزاء ان سے کہا کہ امیر شریعت کی سنت تازہ کرو۔

شاہ جی اور ان کے ساتھیوں مولانا سید ابوالحسنات، ماسٹر تاج الدین انصاری مولانا مال حسین اختر، صاحبزادہ فیض الحسن اور سید مظفر علی شمسی وغیرہ کو گرفتار کر کے پہلے کراچی جیل میں رکھا پھر سکھر جیل بھیجا دیا جہاں ان کے لئے خاصی پریشانی پیدا کی گئی۔

اور حکومت پاکستان کا ایک اعلیٰ افسر سکھر جیل گیا اور ان سے کہا کہ مسلمانوں کی حکومت ہے ایک اسلامی سلطنت میں اس قسم کی تحریکیں چلانا مناسب نہیں۔ چار سطریں لکھنے اور گھر جانیے۔ شاہ جی نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور پاکستان ایک اسلامی سلطنت ہے مگر —

سلو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا

مسلمانوں کی ساری تاریخ یہی ہے کہ چند لوگ حکمرانی کرتے اور کچھ لوگ ان کے ہاتھوں قید و بند میں رہتے ہیں بھلا اس کے بغیر کوئی سی اسلامی حکومت کیونکر مکمل ہوتی ہے؟ اس ساری صورت حال سے اگر کوئی شخص خوش تھا تو وہ صرف ربوہ کا خلیفہ میرزا محمود تھا یا اس کی جماعت جس نے بعض پولیس افسروں کو ہر قسمی آب و دانہ مہیا کر رکھا تھا۔ شاہ جی کے مرض الموت کا آغاز سکھر جیل ہی سے ہوا اچانک معلوم ہوا کہ ان کا جسم کئی بیماریوں کا محور ہو گیا ہے۔

لاہور میں یکم جولائی ۱۹۵۳ء کو تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کیا تو کمیٹی کے سامنے جو ابدہ فریقوں میں احرار زعماء کو بھی شامل کیا گیا۔ اس غرض سے ۲۵ جولائی ۱۹۵۳ء کو شاہ جی اور ان کے تمام ساتھی لاہور سنٹرل جیل میں منتقل کر دیئے گئے۔

شاہ جی اس کمیٹی سے تعاون کے حق میں نہ تھے۔ راقم کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ وہ اکثر نازک مرحلوں میں استدلال کے بجائے وجدان سے باتیں کرتے اور عموماً ایسی باتیں کہہ جاتے جو بظاہر عجیب سی معلوم ہوتی ہیں لیکن جب نتائج سامنے آتے تو انہی کے مطابق ہوتے۔ شاہ جی کو اصرار تھا کہ ”تحقیقاتی کمیٹی جسٹس منیر کی وجہ سے کبھی صحیح نتائج مرتب نہ کر سکے گی۔ میں ذاتی طور پر منیر کو جانتا ہوں وہ احرار کا دشمن اور احمادیوں کا دوست ہے اس کی ضرورتیں احمدی کمال و تمام پوری کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ ہم اس فتنہ کا سانحہ زدیں اور جو شخص ناقصت خراب کرنے پر تلا ہو اس کو ناقصت خراب کرنے

دیں۔ منیر دنیا دار انسان ہے وہ آخرت کو نہیں مانتا اور نہ اس کو توحید و رسالت سے آگاہی و ارادت ہے۔ شاہ جی کے رفقائے ان کی بات نہ مانی اور تحقیقاتی کمیٹی سے تعاون کا فیصلہ کر لیا۔

اس کمیٹی کے اجلاسوں میں جو کچھ ہوا وہ غایت درجہ افسوسناک ہے۔ جسٹس منیر عمار کی امانت پر تلے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے عمار اور اسلام کو اپنی ٹراژڈی کا ہیرو بنا لیا۔ یکم جولائی ۱۹۵۳ء سے لے کر ۲۳ جنوری ۱۹۵۴ء تک اس کمیٹی کے ۱۱ اجلاس ہوئے جن میں ۹۲ اجلاس شہادتوں کی سماعت اور ان کے اندراج میں صرف ہوئے۔ یکم فروری سے ۲۸ فروری ۱۹۵۴ء تک طرفین میں بحث ہوتی رہی اس کے بعد ۱۱ اپریل ۱۹۵۴ء کو کمیٹی نے اپنی رپورٹ حکومت پنجاب کو پیش کر دی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ احرار کے عدم تعاون سے کمیٹی کیا کرتی اور نتیجہ کیا ہوتا لیکن تعاون کا نتیجہ یہ تھا کہ جسٹس منیر نے کھلے اجلاسوں میں عمار کا مدورجہ استخفاف کیا۔ افسوس کہ عمار نے برداشت کیا اگر کوئی دیوانہ جسٹس منیر کو ٹوک دیتا تو لازماً کمیٹی کو عمار کی امانت کرنے کے شوق سے دست بردار ہونا پڑتا۔

ان دنوں راقم نے اپنے جریدے میں ایک شذرہ لکھا۔ مٹا کو گالی نہ دو! اصلاً یہ خلیفہ عبدالحکیم کے اس مقالہ کا جواب تھا جو انہوں نے مٹا اور اقبال کے عنوان سے لکھا اور اس میں عمار کو بزعم خویش رسوا کرنا چاہا تھا۔ اس شذرہ کو دیکھتے جسٹس منیر نے راقم کو عدالت میں طلب کر لیا "فورا" گرفتار کر کے پیش کر دئے تھے تحت راقم سہ پہر کے اجلاس میں غور دہی پیش ہو گیا۔ جسٹس منیر ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔

وہ - یہ شذرہ آپ نے لکھا ہے؟

میں - جی ہاں۔

وہ - کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں۔



میں - ضرور سمجھتے ہوں گے۔

وہ - یہ عدالت کی توہین ہے۔

میں - عدالت کی توہین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

وہ - اس کے بین السطور میں عدالت پر تنقید کی گئی ہے۔

میں - معاف کیجئے اسلام سب جرم ڈس (Subjudice) نہیں ہو گیا۔ میں

نے اسلام کا دفاع کیا ہے اور اگر اسلام کا دفاع کرنا جرم ہے تو مجھے اپنے جرم کا اقرار ہے۔

جسٹس کیانی - علماء کا مذاق کہاں اڑایا جاتا ہے؟

میں - کافی ہاؤس جیسے شراب خانوں میں

جسٹس کیانی - لوگ کیا کہتے ہیں؟

میں - میں ان کی خرافات کو یہاں بیان کرنا نہیں چاہتا نقل کیا تو اس عدالت عالیہ کے

حسن سماعت میں خراش پیدا ہوگی۔

جسٹس کیانی - آپ کافی ہاؤس میں روز و شب کے بیٹھنے والوں میں سے ہیں۔

میں - جی نہیں، صبح و شام کے بیٹھنے والوں میں سے ہوں، رات کو کافی ہاؤس بند

ہو جاتا ہے۔

جسٹس منیر جس تیزی سے بول رہے تھے مدہم ہو گئے اور اگلی تاریخ ڈال دی پھر

چھوڑ دیا۔

پنجاب میں اتنا غوغا ہو چکا تھا کہ جب تک لوگوں کے دل راضی نہ ہوں کسی حکومت

کے لئے بھی کام کرنا مشکل تھا۔ ایک اندازے کے مطابق تحریک میں کوئی ایک ہزار افراد

شہید ہوئے، مجروحین کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی۔ ہر گھر حکومت سے بد دل تھا۔

اولاً میاں ممتاز دولتانہ کی وزارت عظمیٰ برخواست کی گئی اور ملک فیروز خان نون کو صوبہ کا

وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ انہوں نے تقریباً سبھی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ادھر مرکزی حکومت میں میرزا ایوب

کی ملی بھگت سے سازش کا ایک پیکر شروع ہو گیا۔ ملک غلام محمد نے قومی اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین وزارت عظمیٰ سے نکال دیئے گئے۔ ان کی جگہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسٹر محمد علی بوگرہ کو در آمد کیا گیا اور وزیر اعظم بنائے گئے۔ مولوی تیز الدین سپیکر نیشنل اسمبلی نے برخاستگی کے خلاف رٹ کی لیکن جسٹس منیر نے یہاں بھی گل کھلایا اور ملک غلام محمد کے اقدام کو جائز قرار دے کر ایک غیر قانونی اقدام کی تصدیق کر دی۔ اس فیصلہ سے ملک میں عدالتی وقار مجروح ہو گیا اس کے ذمہ دار صرف جسٹس منیر تھے۔

### رٹ اور رہائی

مسٹر محمود علی قصوری نے حضرت شاہ صاحب، مولانا ابوالحسنات، صاحبزادہ فیض الحسن اور مسٹر تاج الدین انصاری کی نظر بندی کے خلاف رٹ دائر کر دی۔ جسٹس ایس اے رحمن نے قانونی غلطی کا فائدہ دے کر ۸ فروری ۱۹۵۴ء کو انہیں رہا کر دیا۔ نتیجہً حضرت شاہ صاحب اور ان کے محولابا لاساتھی ۸ فروری ۱۹۵۴ء کو لاہور سنٹرل جیل سے رہا ہو گئے۔

رہائی کے فوراً بعد شاہ جی نے ملتان میں ایک استقبالیہ کو خطاب کیا۔ عمر بھر کی روایت کے خلاف آغاز تقریر میں خطبہ مسنونہ کی تلاوت نہ کی۔ لوگ ششدر رہ گئے۔ فرمایا لیڈر اینڈ جینٹلمین! مجمع کھلکھلا اٹھا، کسی نے کہا، شاہ جی یہ کیا ہے

فرمایا کچھ نہیں، قرآن اس لئے نہیں پڑھوں گا سبامہ جسٹس منیر تو ہمیں عدالت میں بلوائیں۔ رہا لیڈر اینڈ جینٹلمین، تو جسٹس منیر نے انکو آری رپورٹ میں لکھ دیا ہے کہ مسلمان کی کوئی تعریف نہیں اسبھی ملک مسلمانوں اور مسلمات کا نہیں لیڈر اینڈ جینٹلمین کا ہے۔

اسی سال (۱۳ ستمبر) حضرت شاہ صاحب کو ملتان کے ایک اجلاس میں مجلس ختم نبوت

کا صدر منتخب کیا گیا۔ ۱۶ نومبر کو گھر میں وضو کر رہے تھے کہ دائیں جانب فالج کا ہلکا سا حملہ ہوا لیکن جلد ہی اس کا اثر زائل ہو گیا۔ یہ گویا مہلک مرض کے آغاز کا آئناہ تھا۔ لاہور میں شاہ جی نے تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ :

جو لوگ تحریک ختم نبوت میں جہاں تہاں شہید ہوئے ہیں ان کے خون کا جو ابدہ میں ہوں۔ وہ عشق رسالت میں مارے گئے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں جذبہ شہادت میں نے پھونکا تھا جو لوگ ان کے خون سے دامن بچانا چاہتے اور جہا سے ساتھ رہ کر اب کچی کتر رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ حشر کے دن بھی اس خون کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اگر ان دانشوران بے دین یا وینداران بے عشق کے نزدیک ان کا جان دینا غلطی تھا تو اس غلطی کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ وہ عشق نبوت میں اسلامی سلطنت کے ہلاکو خانوں کی بھینٹ بن چکے۔ حضرت ابو بکرؓ نے بھی تو سات ہزار حافظ قرآن صحابہ کو ختم نبوت کی خاطر شہید کر لیا تھا۔

شاہ جی کی طبیعت ماندہ ہو چکی تھی لیکن بعض لیڈروں کی دعا اور کراچی کے بعض علماء کی مجزی سے انہیں اتنا صدمہ پہنچا تھا کہ شب و روز دورہ کرتے اور مسلمانوں کو بتاتے کہ ختم نبوت کا مسئلہ جوں کا توں ہے اور وہ آخری سانس تک اس کا اعلان کرتے رہیں گے۔ حکومت نے ۱۹۵۵ء میں چھ ماہ کے لئے انہیں اپنے گھر ملتان میں نظر بند کر دیا آزاد ہوئے تو کچھ عرصہ بعد ۴ اپریل ۱۹۵۶ء کو خانیوال کی ایک تقریر میں پکڑ لیا۔ کوئی پانچ چھ ماہ مقدمہ چلتا رہا۔ ڈاکٹر خان صاحب صوبہ کے وزیر اعلیٰ تھے، راقم کی استدعا پر انہوں نے مقدمہ واپس لے لیا۔ میرزا بیوں نے اس کے خلاف اندر خانہ احتجاج کیا اور اسکندر میرزا کے ہاں پہنچے۔ اسکندر میرزا نے شاہ جی سے ملاقات کی خواہش کی۔ شاہ جی ٹال گئے کہ فیروز شاہ ہاٹ سے نہیں ملا کرتے۔ سید مظفر علی شمسی نے کوشش کی کہ اسکندر میرزا اسپیشل ٹرین میں ملتان سے گزر رہے ہیں وہاں شاہ جی سے میرزا صاحب کی ملاقات ہو جائے لیکن شمسی صاحب

کو بھی ٹال دیا کہ میں ان ملاقاتوں کا آدمی نہیں ہوں۔ اسی دن خبر آگئی کہ ڈاکٹر خان صاحب کو لاہور میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اواخر ۱۹۵۶ء میں جہانی عوارض یکایک عود کر آئے ایسے پخت ہوئے کہ پھر صحت ایک گرتی ہوئی دیوار ہو گئی، کبھی برائے نام صحت کبھی سنگین عدالت چار سال یہی عالم رہا۔ ۶ مارچ ۱۹۶۱ء کو فالج کا شدید حملہ ہوا جو ۲۱ اگست کی شام کو چھ بج کر ۵۵ منٹ پر ملک کے اس عظیم انسان کی وفات پر ختم ہو گیا اور اس طرح تحریک ختم نبوت کا سپہ سالار ۴۲ برس کی لازوال جدوجہد کے بعد اس عارضی کائنات سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گیا۔

---

## احرار کی تحریکیں

احرار اپنا آل انڈیا سیادت کے نہیں آل انڈیا شہرت کے مالک تھے۔ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز تحریک خلافت سے ہوا۔ کوئی دس سال بعد مولانا ابوالکلام آزاد کے مشورے سے مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی گئی اور یہ نام مولانا آزاد ہی کا تجویز کردہ تھا۔ پہلا اجلاس لاہور کانگریس کے موقع پر ۲۹ دسمبر ۱۹۲۹ء کو اسی کے پنڈال میں ہوا، سید عطاء اللہ شاہ بخاری صدر منتخب ہوئے۔ لیکن ۱۹۳۰ء شروع ہوتے ہی مہاتما گاندھی نے نمکین ستیہ گرہ کا آغاز کیا تو احرار رہنما اس میں شامل ہو گئے۔ اور تنظیم کی تاسیس کا سفر ملتوی ہو گیا۔ پھر جولائی ۱۹۳۱ء میں گاندھی اردن یشاق کے تحت تمام سیاسی قیدی چھوڑ گئے تو احرار رہنماؤں نے رہا ہو کر اپنے الگ سفر کی نیو اٹھائی پہلی احرار کانفرنس اسلامیہ کالج لاہور کے حبیبیہ ہال میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے زیر صدارت منعقد ہوئی ان دنوں عبد اگانہ اور مخلوط انتخاب کا مسئلہ حقیقتہً دو قومی مسئلہ کا سرآغاز تھا۔ مسلمان عبد اگانہ انتخاب چاہتے تھے کانگریس مخلوط انتخاب کی حامی تھی۔ یہ سارا قضیہ نہرو رپورٹ سے پیدا ہوا تھا۔ احرار نے اس کانفرنس میں نشستوں کے تعین اور عبد اگانہ انتخاب کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس لحاظ سے کانگریس سے الگ ان کا پہلا سفر تھا۔

احرار کے سامنے کچھ اور واقعات بھی تھے مثلاً:

(۱) مسلمانوں کے اکثریتی صوبوں میں بھی کانگریس کا ہندو و ذہیندار مسلمانوں کو ناپسند کرتا تھا انہیں ایسے مسلمان پسند تھے جو ان کے دماغ سے پوچھیں اور مذہب سے بیزار نہیں تو بیگانہ ضرور ہوں۔

(۲) پنجاب میں کانگریس کے عہدیداروں کا چناؤ اسی ذہن سے کیا گیا۔

(۳) کراچی کانگریس (۱۹۳۱ء) کے موقع پر مہاتما گاندھی نے مجلس عاملہ کے ارکان نامزد کرتے وقت چودھری افضل حق کو نظر انداز کیا اور ڈاکٹر عالم کو نامزد فرمایا۔ اگرچہ گاندھی جی کو یہ مشورہ مولانا عبدالقادر قصوری نے دیا تھا جو احرار سے بدظن تھے لیکن اس کا جو نقصان کانگریس کو پہنچا اس کا اظہار پنڈت جو اہر لال نہرو نے اپنی سوانح عمری "میری کہانی" میں کیا ہے۔

(۴) امرتسر اور لدھیانہ میں ضلعی کانگریس کے انتخابات ہوئے تو اس میں احراری زعماء کے نامزد اشخاص کو شکست دی گئی تھی کہ امرتسر میں غازی عبدالرحمن ہار گئے جنہیں مہاتما گاندھی تحریک خلافت میں لائل پور سے اٹھا کر ساتھ لے گئے تھے کہ غازی صاحب وہاں ایک سکول میں صدر مدرس تھے۔

(۵) پنجاب میں سیاسی و عمرانی فرقہ پرستی کو اٹھانے اور اجالنے میں کانگریس کے ہندو رہنما پیش پیش تھے۔

(۶) مہاتما گاندھی گول میز کانفرنس میں شمول کے لئے لندن جا رہے تھے کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے بمبئی پہنچ کر ۱ اگست ۱۹۳۱ء کو ان سے ملاقات کی اور مشورہ دیا کہ وہ ڈاکٹر انصاری کے بغیر نہ جائیں اس طرح کانگریس ہندو جماعت ہو کر رہ جائے گی۔ مہاتما جی نے اتفاق کیا لیکن گول میز کانفرنس میں چلے گئے۔

ادھر پنجاب کا ہندو پریس جداگانہ انتخاب کی بنیاد پر احرار کے خلاف شوٹے چھوٹے

لگا۔ اُس کے نزدیک احرار راہنما فرقہ پرست ہو گئے تھے حالانکہ مسئلہ صرف انتخاب کا تھا۔ اور یہ ایک اصولی مسئلہ تھا۔ جہاں تک برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد اور غیر ملکی غلامی کے انخلا کا سوال تھا احرار راہنما اب بھی کانگرس کے ہم خیال تھے۔ اگر ہم مذہبیوں کا نام لینا یا ان کے مصالح کی نگہداشت کرنا فرقہ پرستی تھی تو اس میں کانگرس کے بلند پایہ راہنما حتیٰ کہ گاندھی جی بھی ملوث تھے۔ آخر ہر یجن تحریک کیا تھی؟ احرار راہنماؤں نے کانگرس میں رہ کر بھی تحریک خلافت کے بعد شدھی کا مقابلہ کیا۔ چھوٹ چھات کے مرض پر ہندوؤں کو ملامت کی۔ راجپال کے فتنہ کو سر کیا۔ علم دین کی لاش میانوالی سے لاہور بھیجوائی۔ ابن سعود کی حمایت کی۔ غازی امان اللہ کا ساتھ دیا۔ شاردہ ایکٹ کی دھجیاں بکیریں۔ مغل پورہ بخیرنگ کالج کے پرنسپل و ہٹکے کی بدگونی کا محاسب کیا۔

ان کا علیحدہ سیاسی سفر اور احرار کے ساتھ اسلام کا لفظ ایسے نہ تھے کہ ہندو پریس آسمان سر پہ اٹھا لیتا۔ اور کانگرس کے صوبائی راہنما ان کے خلاف ایسا کر کے نقد و بحث کا دروازہ کھولتے لیکن ہندو نیشنلسٹوں نے مسلمان نیشنلسٹوں کو ساتھ لے کر احرار کے خلاف محاذ بنالیا۔ اس محاذ کا صحیح اندازہ اس وقت ہوا جب احرار نے تحریک کشمیر شروع کی۔ احرار نے اپنے علیمدہ سفر (۱۹۳۱ء) سے اختتام پاکستان تک (۱۹۴۷ء) فکر و عمل کی جو تحریکیں چلائی یا ان میں حصہ لیا وہ یہ تھیں:

- ① مغل پورہ بخیرنگ کالج ایجوکیشن
- ② قادیانی امت کا احتساب
- ③ تحریک کشمیر
- ④ کپور تھلہ ایجوکیشن
- ⑤ بہاول پور ایجوکیشن
- ⑥ سکھ کی مسجد منزل گاہ کا مسئلہ
- ⑦ تحریک مدح صحابہ
- ⑧ زلزلہ زدگان کو شہ کی امداد
- ⑨ دوسری جنگ عظیم میں فرجی بھرتی کا تقاطع ⑩ مسلم لیگ سے اختلاف
- ⑪ فسادات بہار میں مسلمانوں کی اعانت

(۱۳) برعظیم کی تقسیم کے مرحلے میں خدمتِ عوام۔

”قادیانی جماعت“ کی مزاحمت احرار کا مستقل مشن ہو گیا اس کی مزاحمت میں اس کے رہنما وقتاً فوقتاً پڑے گئے۔ اس ذہن ہی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان بنا تو تحریک ختم نبوت کو وہ جوش و جذبہ حاصل ہوا جس کا اجمالی ذکر پچھلے باب میں آپکے بے مجلس احرار ہندوستان میں واحد جماعت تھی جس نے میرزائی اُمت کے سیاسی عزم کو بے نقاب کیا اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا اگر اس وقت احرار میرزائیوں کا محابہ نہ کرتے اور ان کی سامی شکوے سے علامہ اقبال آل انڈیا کثیر کمیٹی کی صدارت سے الگ نہ ہوتے اور اپنا تاریخی بیان جاری نہ کرتے تو میرزائی پنجاب کی تقدیر پر قابض ہو کر ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا رخ بدل ڈالتے۔ احرار نے مسلمانوں کو نہایت شرح و بسط سے آگاہ کیا کہ میرزائی اس ملک میں برطانوی استعمار کا فتنہ کالم ہیں۔ اور ان کا وجود مسلمانوں کی دینی وحدت توڑ کر عالمی سامراج کے لئے ایک الگ اُمت پیدا کرنا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے روپ میں دنیا سے اسلام کو اٹھ سکیں۔

### مغل پورہ انجنیئرنگ کالج

مغل پورہ انجنیئرنگ کالج کا مسئلہ دو ایک دن ہی میں حل ہو گیا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ اس کالج کے انگریز پرنسپل مسٹر وہشکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک آدھ توہین آمیز جملہ کہہ دیا تھا۔ مسلمان طلبہ نے ہڑتال کر دی۔ معاملہ سپیک میں آ گیا۔ شاہ جی نے موچی دروازہ کے باہر جلسہ عام کو خطاب کیا۔ ان کی تقریر نماز فجر تک جاری رہی۔ سحر کا حال یہ تھا کہ شاہ جی نے اسی وقت جلسہ کو اٹھا کر مغل پورہ روانہ کر دیا اور وہاں ہزار ہا لوگوں نے کالج کا معاشرہ کر لیا پولیس نے لائنٹی چارج کیا جس سے بیسیوں نوجوان زخمی ہو گئے۔ لیکن اسی شام مولانا ظفر علی خاں کی مداخلت سے پرنسپل وہشکر نے معافی مانگی اور اس طرح یہ قضیہ ختم ہو گیا۔

### تحریک کپور تھلہ

کپور تھلہ ایچی ٹیشن (۱۹۳۳ء) کسانوں کی زبوں حالی اور مسلمانوں کی درماندگی کے خلاف



ایک آہستہ تحریک تھی جس میں قانون شکنی کا شائبہ تک نہ تھا۔ دیوان مرعبد الحمید ریاست کے وزیر اعظم تھے وہ جالندھر کے تھے اور وہاں بہہ و جڑہ اپنا رسوخ رکھتے تھے۔ انہوں نے اس تحریک کو اپنی ملازمت کے مفاد میں سبوتاژ کرنا چاہا اور جالندھر میں مسلمانوں کو دو حصوں میں بٹوا دیا لیکن کپور تھلہ ایچیٹیشن جو بیگودال سے شروع ہوا تھا اس انداز میں ڈھلتا رہا کہ چرنی عبد العزیز بیگودالہ جو مجلس احرار اسلام کے نائب صدر تھے اس تحریک کے قائد ہو گئے۔ انہوں نے دیوان صاحب کے ہاتھوں قید و بند کے مصائب سہہ کر بھی سپر انداز ہونے سے انکار کیا۔ مہاراجہ کپور تھلہ کو چودھری صاحب نے جو عرضداشت پیش کی اس میں ذیل کے مطالبات تھے۔

- (۱) مالیات کے محصول کا معیار برطانوی ہند کے مطابق کیا جائے۔
  - (۲) بیگار یا بلدیہ وغیرہ قسم کے اقدانات بیک قلم منسوخ کئے جائیں۔
  - (۳) قانون انتقال اراضیات پنجاب کے اصول پر ریاست میں بھی نافذ کیا جائے۔
  - (۴) ریاست میں نمائندہ اسمبلی قائم کی جائے۔
  - (۵) بلا ضرورت آسامیوں کو تخفیف، میں لاکر ان کی رقم اصلاح دیہات پر صرف کی جائے۔
- دیوان عبد الحمید اپنی ملازمت کے لئے مہاراجہ کے غلام تھے انہوں نے تحریک کو برباد کرنے کے لئے مختلف حربے استعمال کئے۔ انہیں معلوم تھا،

- (۱) ریاست میں ۵۵ فیصد مسلمان بستے ہیں
- (۲) وہ ریاست کا ساٹھ فیصد لینا دین کرتے ہیں۔
- (۳) لیکن اس کے باوجود انہیں رعایت و اوقاف میں ۴۰ لاکھ روپے سالانہ ملتے اور اس کے برعکس غیر مسلموں کو ۱۸۳۲ روپے عینے جاتے تھے۔
- (۴) مندروں اور دھرم شالوں کے لئے معافیال ہیں مگر مساجد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ ریاست کا حکم آن مگر مہاراجہ تھا۔

دیوان صاحب نے نجر کا رخ موڑنے کے لئے سلطان پور میں تعزیر اور بڑے  
 دہشت کا روایتی تندیہ پیدا کر دیا۔ ان سے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں تصادم ہو گیا۔ پولیس  
 یہ رد و نگوئی پائی، کئی مسلمان شہید ہوئے، مہنت سے زخمی ہوئے اور تقریباً ساڑھے چار سو  
 گرفتار کر لئے گئے۔ ان دیوان صاحب کی بدولت چودھری عبدالعزیز بیکر والیہ پانچ سال قید  
 کیے گئے لیکن مہاراجہ کپور تھا نے عوام کی برہمی کا اندازہ کر لیا۔ اور چودھری عبدالعزیز  
 اپیل پر رہا ہو گئے۔ دیوان عبدالحمید کو وزارت غلطی سے چھٹی دس دی گئی اس سے پہلے کہ  
 ریاست میں مطالبات تسلیم کئے جاتے عوام میں عزت نفس کا احساس اجاگر ہو گیا اور  
 وہ محسوس کرنے لگے کہ اب ان کی حیثیت ڈھور ڈنگ کی نہیں رہی ہے۔

### ریاست بہاول پور

ریاست بہاول پور ایک "اسلامی ریاست" تھی لیکن یہاں کے مسلمان عوام کی حالت،  
 نمائند درجہ ناگفتہ بہ تھی۔ حزب اللہ اور جمعیت المسلمین مقامی طور پر جدوجہد کرتے رہے  
 لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ کبھی گوارا کرتے وہ لافسردہ و فانی اللہ فیہ کی اڑھلے کر مذکورہ جماعتوں  
 کے راہنماؤں کی پکڑ دساکہ کا جواز پیدا کرتے تھے۔ حالانکہ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ تمام ریاستوں کی  
 طرح ریاست بہاول پور کے عوام بھی بیدار ہو گئے اور انہیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ  
 اس زمانے میں جانوروں کی سی زندگی بسر کرنا، انسان ہونے کی توہین ہے۔ حقیقت یہ  
 ہے کہ ریاستی عوام بیدارگی اور دردماندگی کی شرمناک زندگی گزار رہے تھے۔ جمعیت المسلمین  
 نے آواز حق کے نام سے امیر بہاول پور کی خدمت میں استدعا کرنا شروع کیا جس میں ذیل  
 کے مطالبات تھے۔

۱) بالغ رائے دہی کے اصول پر ذمہ دار حکومت کا قیام، عوام کے ناندوں میں سے

وزراء کا چناؤ جو نمائندوں ہی کے سامنے جوابدہ ہوں۔

۲) تمام بجٹ اسمبلی میں پیش ہو اور اسمبلی کو اختیار ہو کہ وہ ان میں ترمیم کرے۔

کر سکے۔

(۳) اسی پہلے قرآن میں بدلنے اور نئے قوانین بنانے کی مجاز ہو۔

(۴) تمام سرکاری محکمے ذمہ دار و وزراء کے ماتحت ہوں۔

غالباً یہی وہ زمانہ تھا جب نواب بہاول پور نے شاہ جی کو اتراں رازداری سے اپنے محل میں یاد کیا اور ان سے سیرۃ النبیؐ کے موضوع پر تقریر کرائی۔

اعزاز نے مرکزی طور پر اس ایجنڈیشن میں حصہ نہ لیا لیکن جو لوگ ریاست کے اندر حزب اللہ اور جمعیت المسلمین سے متعلق تھے وہ احرار ہی سے متاثر تھے اور احرار ان کا ہاتھ بٹانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آخر بہاول پور کا انسان جاگ اٹھا اور عوام کو اس تحریک کی بدولت بال و پر مل گئے۔

### مسجد منزل گاہ سکھر

سندھ کثرت آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا صوبہ تھا لیکن اس کے بعض بڑے شہروں میں دولت اور آبادی کے لحاظ سے ہندو غالب تھے۔ انہی شہروں میں ایک سکھر بھی تھا۔ ایک لاکھ کی آبادی میں ساٹھ ہزار ہندو تھے۔ دریائے سندھ کے بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس میں ہندوؤں کا ایک مندر سادہ بنا واقع تھا۔ دریا کے کنارے ہندو آباد تھے۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں یہاں فوج کا ایک ڈیرہ تھا۔ اس کے پاس ہی ایک مسجد منزل گاہ تھی۔ امتداد زمانہ سے مسجد معطل ہو گئی۔ انگریزوں نے تالا لگوا دیا۔ اس سناٹے پر ایک طویل زمانہ گزر گیا۔ سو بانی خود مختاری کے بعد اللہ بخش کی وزارت بنی تو اس کو زچ کرنے کے لئے مسلم لیگیوں نے جو بیسیوں سال سے امر کر چکی متوہرہ ہوئے تھے ایک ایک اس کی واگذاری کا شکاہ برپا کیا۔ خان بہادر اللہ بخش نے کہا کہ مجھے چھ ہفتے کی مہلت دی جائے تاکہ میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکوں اور اگر آپ عدالت میں جائیں تو حکومت زائد المعیار کے عذر کو مسترد کرتے ہوئے مسلمانوں کے مطالبہ کا ساتھ دے گی

دیکھنا پڑے۔ کے راہنماؤں نے بعض غلطیوں پر ان سے کہا کہ ہم نے اللہ بخش و زار سے لڑنے کے لئے یہ رنڈا اٹھایا ہے ورنہ ہمارا مطلب نظر حصول مسجد نہیں ہے۔

سکھر میں مجس امرار کیا۔ مسنونہ باعزت تھی۔ جب لیگ کے بزرگوں نے تحریک شروع کی تو امرار نے شہید گنج کے سے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ہمنوائی کی۔ مقامی طور پر چار سو امرار رضا کاروں کو گرفتار کیا گیا۔ امرار کا مسکا۔ یہ تھا کہ سید منزل گاہ کو نہڑوں سے مفاہمت کے ساتھ حاصل کیا جاسکتا ہے لیکن لیگ کا مشن دوسرا تھا۔ جب اللہ بخش شہید کروا دیئے گئے اور سندھ میں لیگ۔ کا راج قائم ہوا تو منزل گاہ کا مسئلہ اسی طرح لائیںل رہا۔ آخر امرار کی مساعی سے منزل گاہ واکذار ہو گئی اور دونو قوموں میں باہمی سمجھوتہ ہو گیا۔

### خدمتِ خلق

امرار کے نصب العین میں خدمتِ عامہ کا پروگرام بھی تھا۔ کوسٹ میں زلزلہ آیا تو امرار نے لاہور میں کمیٹی لگا کر اجڑے پتھر سے لوگوں کی بے نظیر اعانت کی۔ جس کا سرکاری حلقوں میں بھی اعتراف کیا گیا۔ بہار (۱۹۴۶ء) میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور وہاں کے غریب مسلمانوں کو پاکستان کی ہوناک سزا سمجھتی پڑی تو لیگ کے راہنما پٹنہ جا کر بھی ان کی مدد کر سکے۔ قتل عام کئی اضلاع میں پھیلا ہوا تھا اور غارت زدگی کے آثار و مظاہر ابھرتے۔ انی رزہ خیز تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہدایت پر امرار نے تین قافلے بھیجے۔ پہلا قافلہ ناہی محمد حسین سالار پنجاب کی قیادت میں، دوسرا امداد کی رقم اور پارچات سے کہ راقم تحریر کے ساتھ، تیسرا تینہ مخدوم شاہ بنوری کے ہمراہ۔ راقم الحروف نے وہاں ڈیڑھ ماہ رہ کر ایک طویل رپورٹ مرتب کی اور دہلی لوٹ کر مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمت میں پیش کی۔ اس کی ایک نقل مولانا غلام رسول مہر ایڈیٹر انقلاب کو دی۔ ان دنوں حضرت شاہ عبدالقادر رائے پورشی لاہور میں تھے انہیں ساری روداد عرض کی۔ مہاتما گاندھی اور خان عبدالغفار

خان کو بہار بھجوانے والے ہمیں لوگ تھے راقم الحروف کو یقین ہے کہ جس خلوص و انہماک اور جوش و استقامت سے بہاری مسلمانوں کی خدمت ہم نے کی وہ ہم ایسے عاجزوں کی بخشش کے لئے کافی ہے۔

۱۹۶۷ء کا سال پاکستان اور ہندوستان کی اقلیتوں کے لئے بے رحمی کا سال تھا۔ ۱۲ اگست ۱۹۶۷ء میں پاکستان بنا اور ۵ اگست ۱۹۶۷ء کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ اس سے قبل کے چند ماہ قتل و خون کے مہینے تھے۔ دو نو طرف فسادات جو بن پر تھے۔ احرار رضا کاروں نے لاہور، امرتسر اور لدھیانہ میں عوام کی جو خدمت کی وہ بے مثال تھی، لدھیانہ میں ماسٹر تاج الدین انصاری، امرتسر میں شیخ حسام الدین اور لاہور میں راقم الحروف امدادی مہم کے انچارج تھے۔ ہندوؤں کے علاقوں سے مسلمانوں کے بے شمار گھرانوں کو نکال کے ان کی زندگی بچانی گئی۔ ہم نہ جانتے تو سیکڑوں گھراگ کی نذر ہو جاتے۔ اسی طرح ہندوؤں کو مردو پھینچائی جہاں تہاں ان کی بیٹیاں، مسلمانوں کے نہرہ میں گھری ہوئی تھیں ہم نے انہیں نکالا اور محفوظ مقامات پر پہنچا دیا۔ مسلمان ہمارے شکریہ گزار تھے لیکن ہندو بھی ممنون تھے۔ ٹریبون اور بے ہند نے احرار زندہ باد کے عنوان سے ادارے لکھے اور اعتراف کیا کہ احرار کے نوجوان اس اندھیری رات میں انسانیت کی مشعلیں لے کر انسانی زندگی کے خدمت گزار ہیں۔ اس خدمت ہی نے نواب ممدوٹ اور بعض دوسرے لیگی راہنماؤں کی نگاہ میں احرار کو بالائیکیا اور وہ مانتی کی سیاسی آویزش قبول گئے۔

### تحریک مدح صحابہ

تحریک مدح - نابع اس طرح شروع ہوئی کہ شاہ جی لکھنؤ میں تقریر کر رہے تھے اپنی تقریر میں کہیں خنفا سے راشدین کا ذکر کیا تو ایک طرف سے آواز آئی۔

”شاہ جی! کیا کر رہے ہیں آپ؟“

شاہ جی نے پوچھا۔ کیا ہے بھائی؟

بتایا گیا کہ لکھنؤ میں مدح صحابہ ممنوع ہے، یہ تھا مدح صحابہ کے قضیہ میں احرار کا شمول۔ معلوم ہوا کہ ۱۹۰۴ء تک لکھنؤ میں شیعہ سنی قضیہ نہ تھا مگر اس سال ایک شیعہ مقبول احمد نے فتنہ جگایا نتیجتاً دو کربلا میں ہرگیزیں۔ شیعہ کربلا کا نام تال کٹورہ تھا۔ سنیوں نے اپنی کربلا کا نام پھول کٹورہ رکھا۔ چونکہ سنیوں کا نلیہ تھا اس لئے ان کے جلوسوں کی رونق سوا ہو گئی۔ ہندو بھی اپنا تعزیر لے کر ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ ۱۹۰۶ء میں شروع ہوا ۱۹۰۸ء میں شیعوں نے گورنریوں سے شکایت کی کہ سنیوں کا جلوس روکا جائے اور خلفائے راشدین کی مدح نہ ہو کیونکہ اس طرح ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ گورنر نے اس کی تحقیقات و سفارت کے لئے ایک آئی سی ایس مسٹر گیٹ کی صدارت میں کشن بنا دیا۔ جس کے ارکان میں دو ہندو، دو سنی اور دو شیعہ تھے۔ اس کشن کی رپورٹ پر یوپی گورنمنٹ نے اس ترمیم کا اضافہ کیا کہ کسی بھی پبلک مقام پر البوکرہ، شمر اور عثمان کی مدح زبردفعہ ۲۹۸ قابل مواخذہ ہے۔ اس پابندی کے بعد شیعہ سنی ایک ہی قوم کے دو متمارب ذریع ہو گئے۔ کوئی ۲۸ برس بعد (۱۹۳۶ء) اس باب میں مسٹر اسے ٹی نقوی جو لکھنؤ میں سٹی مجسٹریٹ تھے اپنے شیعہ عقائد کی وجہ سے سنیوں کی دل آزاری کا باعث ہوئے۔ انہوں نے میلاد النبی کا جلوس نکالنے اور اس میں مدح صحابہ پڑھنے کی ممانعت کر دی۔ واضح رہے کہ یہی سٹی مجسٹریٹ پاکستان آکر کراچی کے چیف کشر ہو گئے۔ ان کی بدولت لکھنؤ میں پہلی دفعہ جن تین صاحبوں کو مدح صحابہ کے جرم میں پکڑا گیا وہ مجلس احرار کے کارکن تھے۔ ان کی گرفتاری سے عوام مشتعل ہو گئے اور رسول نافرمانی شروع ہو گئی۔

۱۳ اپریل ۱۹۳۷ء کو یوپی گورنمنٹ نے الہ آباد یا فی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس اسپ کی صدارت میں اس قضیہ کا حل تلاش کرنے کے لئے کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے ۱۵ جون ۱۹۳۸ء کو اپنی رپورٹ میں سنیوں کے حق میں مدح صحابہ کو تسلیم کیا لیکن معاملہ عملاً جوں کا توں رہا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے مداخلت کی اور یوپی گورنمنٹ کو احوال و کوالف کے

علاوہ نتائج و نتائج سے مطلع کیا۔ لیکن بیل سنڈے نے چیپٹھی۔ لکھتے ہیں۔ ۸ ہزار سنی اور ۲ ہزار شیعہ رہتے تھے۔ شیعوں کے سال ہجر میں ۱۲۶۷ جلوس نکلتے لیکن سنیوں کو ایک جلوس بھی نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ مقامی احرار نے میلاد النبی پر جلسہ کرنا چاہا لیکن پولیس نے مدح صحابہ کے خدشہ سے رکوادیا اور یوپی کے بعض احرار زعماء پکڑ لئے۔ اس شرارت کا سرغنہ وہی ابوطالب نقوی تھا جس نے مدح صحابہ کے جرم میں کئی ہزار مسلمانوں کو جیل میں ڈلوادیا۔ احرار راہنماؤں میں مولانا مظہر علی اظہر شیعہ تھے انہوں نے تحریک مدح صحابہ کے نام پر ایک کتاب لکھی اور سارا مسئلہ بیان کیا کہ کس قسم کے لوگ استعمار کو تقویت پہنچانے کے لئے مدح صحابہ کر رہے اور ان کے عزائم کیا ہیں؟

شاہ جی نے لکھنؤ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو کالی زد می جائے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فلاں کی مدح نہ کی جائے۔ اس قسم کا اٹوٹا قانون لکھتے ہی میں ہے کہ مسلمانوں کے دد فرقوں میں سے اقلیت کا فرقہ اکثریت سے مطالبہ کرتا اور قانون کی آڑ لیتا ہے کہ وہ قرن اول کے اسلام کی ان شخصیتوں کا نام نہ لیں اور نہ ان کی منقبت سنیں جو مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ مظہر علی نے کہا اگر ابوبکرؓ عمرؓ عثمانؓ کے نام گردن زدنی ہوتے تو علی مرتضیٰ اپنے بیٹوں میں سے تین کے نام ان کے نام پر نہ رکھتے۔ یہ شیعوں کی زیادتی ہے کہ وہ کربلا کے شہداء میں ان کا نام نہیں لیتے حالانکہ ۷۰ کے قافلہ میں یہ تینوں بھائی کربلا ہی میں شہید ہوئے تھے۔

آواز آئی مظہر علی شیعہ ہو کر کیا کہہ رہے ہو؟

جواب دیا وہی کہہ رہا ہوں جو حق ہے میرے پاس مولا علی علیہ السلام کی

سند ہے۔

تحریک کشمیر

احرار کے عظیم کارناموں میں سے تحریک کشمیر (اکتوبر ۱۹۳۱ء) کو فوقیت حاصل ہے

جماعت احرار کے باب میں اس کا ذکر آچکا ہے۔ مزید برآں کہ یہ تحریک ریاستی استبداد کے خلاف عوامی احتجاج تھا سوال ہندو یا مسلمان نواب یا مہاراجہ کا نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ ریاستیں ہندوستان میں دوہری غلامی کا جہنم تھیں۔ کشمیر کا مسلمان غایت درجہ ستایا ہوا تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے ڈوگر سے مسلمانوں کو انسان ہی نہ سمجھتے تھے۔ گائے ذبح کرنے کی سزا عمر قید تھی احرار نے اس تحریک کی عنان ہاتھ میں لی تو اس کے کئی وجوہ تھے لیکن کشمیری مسلمانوں کی مظلومی کے علاوہ ایک برطی وجہ یہ تھی کہ میرزائی برطانوی استعمار کے آلہ کار کی حیثیت سے آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنا کر ایک چہار پہلو ناکم رچا بیٹھے تھے۔

اولاً: وہ ریاست میں اپنا سرخ و اقتدار چاہتے تھے جو کشمیر کو میرزائی ریاست بنانے کے خواب کی تعبیر تھی۔

ثانیاً: کشمیری مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں رسائی کے خواہاں تھے۔

ثالثاً: انگریزوں نے اپنے مقاصد مشنومہ کی تکمیل کے لئے انہیں ایک آلہ کار کی حیثیت سے اس راستہ پر لگایا تھا۔

رابعاً: برطانیہ جب تک ہندوستان میں رہا اس نے روس سے خطہ محسوس کیا۔ روس کے اس خطرے کا جائزہ لینے کے لئے اس نے بعض مسلمان فضلا کو بھی جاسوسی پر مامور کیا۔ مثلاً پچھلے ہی دنوں شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد کے نواسے نے اپنے نانا کی وہی خدمات کا انکشاف کیا تھا۔ قادیان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین مہاراجہ پر تائب سنگھ کے طلبیب تھے۔ انگریزوں نے مہاراجہ پر الزام لگایا کہ وہ برطانیہ کے خلاف روسی حکومت سے خفیہ خط و کتابت کرتا ہے حکیم صاحب متعدد سالوں تک مہاراجہ کی جاسوسی کرتے رہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مہاراجہ نے انہیں ۱۸۹۳ یا ۱۸۹۴ء میں مشکوک قرار دے کر نکال دیا۔

اس ضمن میں ایک قادیانی مبلغ محمد امین کا بیان جو ۲۸ دسمبر ۱۹۲۲ء کے الفضل میں طبع



ہوا۔ توجہ طلب ہے وہ لکھتا ہے کہ :

”اگرچہ میں روس میں تبلیغ احمدیت کے لئے گیا تھا لیکن سلسلہ احمدیہ اور برٹش گورنمنٹ کا مفاد چونکہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اس لئے جہاں میں تبلیغ کرتا وہاں لازماً مجھے گورنمنٹ انگریزی کی خدمت گزار ہی بھی کرنی پڑتی۔“

اس پس منظر میں کشمیر کمیٹی کا مطالعہ خالی از دلچسپی نہیں۔ ۲۵ جولائی ۱۹۳۱ء کو اس کی بنیاد رکھی گئی میرزا بشیر الدین محمود، علامہ اقبال کو ساتھ ملا کر اس کے صدر ہو گئے۔ احرار نے علامہ اقبال کو قسطنطیق کے مطالعہ کی دعوت دی۔ آخر کار علامہ انور شاہ، سید عطاء اللہ شاہ بھٹائی اور چودھری افضل حق کی تحریک پر حضرت علامہ کشمیر کمیٹی سے مستعفی ہو گئے۔

احرار نے تحریک کشمیر میں پچاس ہزار مسلمان قید کرانے ان کی اس تحریک کو ہندو کیا سمجھتے کہ مہاراجہ ہندو تھا اور ہندو من حیث الجماعت کو تاہ نظر اور تنگ دل تھے لیکن مسلمان امراء اس وقت تک تحریک کا ساتھ دیتے رہے یہ تک مہاراجہ ہر ہی سنگھ سے مقابلہ تھا جو ہندی احرار نے کاٹنا بدلائینی انگریزی سیاست کا زہر توڑنے کے لئے صوبہ میں بدیسی کپڑے اور شراب پر پکٹنگ شروع کی تو انگریزوں سے براہ راست تصادم ہوتے ہی امراء کا گروہ جھٹک گیا۔ مہاراجہ بے بس ہو گیا لیکن انگریز بھی چٹکارا چاہتے تھے۔ انہوں نے منفی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید کو بیچ میں ڈالا کہ احرار سے صلح کرادیں۔ معاملہ طے ہو رہا تھا کہ سرکاری مسلمانوں نے بیچ کاٹ ڈالا کہ اس طرح آپ پنجاب کی سیادت ان لوگوں کو ویں گے جو طبعاً انگریزوں کے خلاف ہیں۔ کچھ دیر توقف کیجئے۔ احرار کی تحریک ختم کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ وہی ہوا میرزا بشیر الدین محمود نے شیخ عبد اللہ اور ان کے نوجوان رفقاء کو مغالطہ دے کر اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ اس طرح کشمیر میں ان کی معرفت احرار کی مخالفت شروع ہو گئی۔ پنجاب میں مسلمانوں کے سرکاری امراء پہلے سے ادھار کھاتے بیٹھے تھے۔ تحریک کا چراغ ٹھنڈا ہو گیا لیکن کشمیر میں تحریک آزادی کو نشوونما حاصل ہوئی۔ گلانی کشن بیٹھا جس نے کشمیر میں ذمہ دار حکومت

کے قیام کو تسلیم کیا اور سب سے بڑی چیز جو اس تحریک کی معرفت، احرار کو حاصل ہوئی وہ کشمیر میں میرزا ایڈوں کے منصوبے کی ناکامی تھی اور علامہ اقبال کے مطالعہ کا یہ حاصل تھا کہ میرزا ایڈیت یہودیت کا چربہ ہے اور مسلمانوں سے الگ ایک دوسری امت ہے۔

### دوسری جنگِ عظیم

دوسری جنگِ عظیم تین ستمبر کو چھوٹی احرار نے اس سے اگلے روز امرتسر میں درکنگ کیٹی بلا کر ہندوستان کی آزادی اور افریشیا سے انگریزوں کے نکل جانے کا مطالبہ کر دیا اور اعلان کیا کہ جب تک برطانوی حکومت یہ اعلان نہیں کرتی وہ نہ صرف حکومت سے تعاون نہیں کرے گی بلکہ فوجی بھرتی کی مخالفت کرے گی اور اس غرض سے وہ ایک ہم گیر تحریک کا آغاز کرتی ہے۔ شیخ حسام الدین کو صدر اور راقم الحروف کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا۔ واضح رہے کہ احرار سال بھر سے آرمی ایکٹ کی مخالفت کر رہے تھے۔ شاہ جی کے خلاف ۱۲۴ الف، ۱۲۱ الف اور ۳۱۲ کے مقدمات دائر کئے گئے۔ اور وہ گرفتار ہو چکے تھے۔ مولانا حبیب الرحمن ۱۲۴ الف میں ماخوذ تھے۔ مولانا مظہر علی اظہر اولپنڈی کی ایک تقریر میں پکڑے گئے اور جیل میں تھے۔ احرار کے اس اقدام کا لب لباب یہ تھا کہ:

- (۱) انہوں نے حکومت کے خلاف ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہیں پہلے مقابلہ جنگ کا فیصلہ کیا اور اس فیصلہ کے ساتھ ہی اپنی تحریک کا آغاز کر لیا۔
- (۲) ملک میں ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ نافذ ہو گیا تو ہندوستان بھر میں پہلی گرفتاری راقم الحروف کی ہوئی۔
- (۳) پنجاب سوشلسٹ پارٹی نے احرار کے ساتھ مل کر تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس غرض سے منشی احمد دین لاہور تشریف لائے لیکن پنجاب میں وہ جماعتی اعتبار سے کمزور تھے۔

(۴) اس تحریک میں قید ہونے والے احرار کی صورت و ارتداد یہ تھی۔

پنجاب : تین ہزار کارکن قید، ۴۵ لیٹر نظر بند  
 سرحد : ایک ہزار کارکن قید، ۱۰ لیٹر نظر بند  
 یوپی : ایک ہزار کارکن قید  
 بنگال : پانچ سو احرار رضا کار قید  
 بمبئی : ایک ہزار احرار قید  
 بہار : ایک ہزار کارکن قید

(۵) احرار نے جو پالیسی ۱۱ ستمبر ۱۹۳۹ء کو اختیار کی کانگریس نے وہی پالیسی ۱۵ اگست ۱۹۴۲ء کو ہندوستان چھوڑ دو کے نعرے سے شروع کی۔

(۶) احرار پر جیلوں میں بے پناہ سختی کی گئی۔ چند ایک زعماء کو چھوڑ کر باقی سب سی کلاس میں رکھے گئے۔

(۷) بعض مجسٹریٹوں نے کمی کارکنوں کے فیصلے میں لکھا کہ احرار سیاسی قیدی نہیں ان سے اخلاقی قیدیوں کا سلوک کیا جائے۔

(۸) رائے بہادر مہر چند کھنڈا ایک زمانہ میں سرحد کی مہا سبھا کے صدر تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کانگریس میں شامل ہو گئے اور سرحد کی خان وزارت میں وزیر بنے گئے۔ انہوں نے گاندھی جی کو خط لکھا کہ احرار کلہاڑی رکھتے ہیں کیا ہم انہیں ستیہ گرہی مانیں؟ مہاتما گاندھی نے جواب دیا، کلہاڑی تشدد کا نشان ہے اور وہ ستیہ گرہی نہیں ہیں۔

(۹) مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور مولانا داؤد غزنوی اپنے طور پر کوشاں تھے کہ مہاتما گاندھی احرار پر حکومت کے بے دریغ مظالم کی مذمت کریں۔ اس غرض سے انہوں نے کانگریس میں احرار کے شمول کا مشورہ بھی قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی واردھاسے پنجاب واپس آتے برطانوی حکام

نے پکڑ کے انہیں منگرمی سنٹرل جیل میں نظر بند کر دیا۔ مولانا داؤد غزنوی کانگریس میں چلے گئے لیکن فوراً ہی دھر لئے گئے۔ یہ ۱۹۴۲ء کے وسط کا زمانہ تھا۔ شاہ جی رہا ہو کر تبلیغ میں سیاست لڑاتے رہے اور قرآن و تفسیر میں انہیں پکڑنا مشکل تھا۔ شیخ حسام الدین رہا ہو کر زبان بند تھے۔ چودھری افضل حق کا ۱۹۴۲ء میں انتقال ہو گیا۔ مولانا مظہر علی انظر قائمہ احرار ہو گئے لیکن ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کے دنوں میں جماعت کا اجلاس سہارنپور میں بلا کر ایک طویل قرارداد پاس کی کہ احرار اس مرحلہ میں حکومت کے خلاف اپنی تحریک ختم کرتے ہیں۔ لیگ کے جواب میں حکومت الہیہ کا مطالبہ اٹھا دیا جہاں تک احرار کی تحریک کا تعلق تھا اپنے اثرات پیدا کر چکی تھی اور اس کے سیکڑوں کارکن اب بھی جیل میں تھے۔ سب سے بڑی سزا (پانچ سال قید) راقم جگت رہا تھا۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی طویل عرصہ سے دھرم سالہ جیل میں نظر بند تھے۔ مولانا مظہر علی انظر کا حکومت الہیہ کی قرارداد منظور کرانا اور اس طرح تحریک ختم کرانا اصولاً اور معنا غلط تھا۔ رہا حکومت الہیہ کا معاملہ تو وہ سب کچھ ہو گا لیکن پاکستان کا جواب نہ تھا نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس احرار سے پہلے ہی بدظن تھی اور بدظن ہو گئی۔ لیگ راضی نہ تھی اور اس کا اس طرح راضی ہونا ناممکن تھا۔

## لیگ اور احرار

لیگ اور احرار کے فاصلوں کا تجربہ یہ جماعت احرار کے باب میں آچکا ہے، نظری طور پر اختلاف یہ تھا کہ لیگ کے نزدیک ہندوستان کی وکروٹ مسلمان اقلیت کے مسئلے کا حل پاکستان تھا احرار کو اس سے سیاسی اختلاف تھا ان کے نزدیک یہ حل ہی نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس طرح ۳۵ فی صد مسلمان جو ہندوستان میں رہ جائیں گے ایک طاقتور ہندو ذہن کا شکار رہوں گے۔ اور جو مسلمان پاکستان میں ہوں گے یا پاکستان میں آئیں گے انہیں بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے مابین ہندوستان ہو گا کب تک

دونوں حصے ایک حکومت کے تحت رہ سکیں گے مندرجہ ہونگے قائد اعظم کے بعد پاکستان میں ٹیک کی صفوں میں سے کسی فعال لیڈر شپ کا ملنا اور اٹھنا محال ہے۔ ملک جذبات سے کہیں زیادہ حقائق پر چلتے ہیں جو مسئلہ آج ٹیک اور کانگریس کا ہے وہ کل ہندوستان اور پاکستان کا ہو جائے گا۔ عجب نہیں دونوں ملک بین الاقوامی طاقتوں کا مہرہ بن جائیں اور ان کی باہمی چیلنج سے دونوں مملکتوں کے سر پر ہر لحظہ جنگ کا خوف مسلط ہو۔

احرار اپنے طبقاتی مزاج کے مطابق تاکہ کی سیاست کو مسلمانوں کے بطنہ امرار کی سیاست قرار دیتے اور گفتنی و ناگفتنی سب کہہ جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تاکہ کی تقسیم سے کہیں نسب دولت کی تقسیم ہے۔ اس غرض سے وہ ہندوستان کے دو ٹکڑے نہیں کٹی ٹکڑے کر دینے کے حق میں تھے لیکن اسلام کا نام لے کر کسی ٹکڑے میں کسی بڑے جیسے سلطان کے لئے تخت سلطنت بچانے کے حق میں نہ تھے۔ ان کے نزدیک ایسا سوچنا یا کرنا اسلام سے غداری کے ہم معنی تھا۔ چودھری افضل حق نے احرار کو ۱۹۴۱ء میں مشورہ دیا تھا پاکستان کے نعرے کی مخالفت نہ کرنا یہ دکھی دلوں کی آواز ہے اگر مخالفت کی تو جان لیوا قسم کی ایک اور شہید گنج آگرے گی۔ احرار نے عمل نہ کیا اور کتے دھرے کی سزا پائی۔ مولانا مظہر علی اظہر نے متحدہ ہندوستان کے آخری انتخابات (۱۹۴۶ء) میں حصہ لے کر احرار کی شرگ کٹوا دی۔ مولانا مظہر علی حدود اختلاف سے تجاوز نہ کرتے اور اپنی جنگ کو محض سیاسی رہنے دیتے تو احرار اپنے اختلاف کے باوجود ٹیک کے بعد پاکستان کی دوڑ کا بڑی جماعت ہوتے۔

مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی دوسری جنگ عظیم تک احرار کے صدر رہے۔ وہ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کانگریس کے قریب تھے ان کے امام و پیشوا مولانا ابوالکلام آزاد تھے اس کے برعکس مولانا مظہر علی اظہر احرار میں کانگریس کے سب سے بڑے مخالف تھے لیکن قائد اعظم کو جلد عام میں کافر اعظم کہہ کر اور ان کی اہلیہ کے متعلق نکاح سے

مخرومی کا فرنی الزام لگا کر انہوں نے احرار کو مصیبت میں ڈال دیا۔ مظہر علی کے اس الزام اور تبرہ سے کوئی خوش نہ تھا۔ شاہ جی نے سری نگر سے واپس آتے ہی مظہر علی کو مسطعون لیا کہ ایک غنیفہ عورت کے متعلق انہوں نے یہ شوشہ کیوں چھوڑا؟ اور ساتھ ہی بھری مجلس میں فرمایا کہ مظہر علی تم مار گئے ہو۔

مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تقسیم کے بعد دہلی میں آباد ہو گئے اور وہیں مر کے دفن ہوئے۔ ان کے صاحبزادے مولوی عزیز الرحمن نے جنوری ۱۹۶۱ء میں والد کے سوانح حیات شائع کئے اور کانگریس ہی کے ذہن کو ملحوظ رکھا۔ لیکن ان سوانح کے مشمولہ خطوط میں ایک خط پنڈت جواہر لال نہرو کے نام ہے۔ یہ خط مولانا نے ۲ فروری ۱۹۳۷ء کو تحریر کیا اس میں دوسری چیزوں کے علاوہ درج ہے کہ:

”آپ کی ایک تقریر کا خلاصہ جو آپ نے بمبئی میں مسٹر جناح کے خلاف کی ہے میری نظر سے گزرا۔ ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ مسلمان اخباروں نے آپ کے خلاف ایڈیٹوریل لکھے ہیں۔ ہمیں خود مسٹر جناح سے بیسیوں باتوں میں سخت اختلاف ہے لیکن ان کا ہندوستان میں کوئی مخالف ہو یا موافق؟ ہر شخص انہیں دیکھتا سمجھتا ہے۔ گورنمنٹ مسٹر جناح کو کسی قیمت پر خرید نہیں سکی۔ مرکزی اسمبلی میں کانگریس کی کامیابی مسٹر جناح کی رفاقت پر مبنی رہی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

نہرو رپورٹ میں ہمیں کیوں ناکامی ہوئی صرف اس لئے کہ کلکتہ کنونشن میں مسٹر جناح سے نازیبا سلوک کیا گیا۔ آپ آج اسی تاریخ کو پھر دہرا رہے ہیں؟ مسٹر جناح سے بہتر آدمی ملنا محال ہے، ان کو قریب لانے کی کوشش کیجئے۔“

احرار کی جدوجہد سے ملک دو قوم کو جو کچھ ملا وہ تجزیہ کی ابتدائی بحث میں آچکا ہے فی الجملہ احرار برعظیم کے پاکستانی علاقے کی سیاسی بیداری کا نصف اول تھے ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا تو ملک کا سیاسی نقشہ مختلف ہوتا۔ لیکن تاریخ انسانی کا مزاج ہی کچھ ایسا

ہے کہ بولنے والوں، کاٹنے والوں اور پانے والوں کے سلسلے مختلف ہوتے ہیں۔ احرار  
 اقتدار سے محروم رہے لیکن تاریخ کا شرف ان کے ساتھ ہے۔ ا۔ شرف کے تعین کا  
 فیصلہ مستقبل کا مورخ کرے گا کیونکہ آج جن لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے وہ منصف نہیں  
 غائب ہیں انہیں افسانوی رغبت نے ڈھیلی ڈھلائی حکایتوں کے اٹھ پھیر کا عادی بنا  
 دیا ہے۔

لے تحریکیں پیدا ہوتی ہیں پھر اپنی طبعی عمر گزار کر ختم ہو جاتی ہیں۔ قریب قریب یہی معاملہ ان  
 جماعتوں کا ہے جو ان تحریکوں کی داعی ہو کر عوام کی رہائی کرتی ہیں۔ بے شک دنیا میں  
 مختلف الاصل اصولوں کی مکرانی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصولوں سے کہیں زیادہ  
 اس کائنات کو انسانوں نے بلایا ہے اور وہی انسان اس دنیا کو ہلاتے ہے ہیں جو مختلف العنوا  
 اصولوں کے مظہر تھے۔

بر عظیم پاکستان و ہندوستان میں سب سے بڑی قومی جماعت انڈین نیشنل کانگرس  
 تھی کہ حصول آزادی تک اس کی قیادت بعض دوسری عظیم شخصیتوں کے باوجود مہاتما گاندھی  
 کے ہاتھ میں رہی۔ گو ان کے جانشین کم پایہ لوگ نہ تھے لیکن آزادی کے بعد تنظیم مدہم بڑ گئی۔  
 اور ذہن باقی رہ گیا۔ جو اندرا گاندھی تک موجود ہے۔ مسلم لیگ بر عظیم کے مسلمانوں کی سب  
 سے بڑی تنظیم ہو گئی لیکن اپنی عظمت کے باوجود وہ اول و آخر قائد اعظم کی سیادت کا نام  
 تھا۔ قائد کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔

اتفاقات کہہ لیجئے یا کچھ اور کہ ان دو بڑوں ہیروں کے علاوہ چھوٹے پیمانہ پر تنظیمیں  
 ہندوستان و پاکستان یا ان کے کسی صوبہ میں قائم تھیں وہ اپنا سیاسی کردار ختم کرتے ہی متروک  
 ہو گئیں۔ پھر جب ان کی لیڈر شپ رحلت کر گئی تو ہر شرمک یا تنظیم کی باقیات کو اس کے  
 رہنماؤں کی اولاد نے میراث بنا لیا۔  
 (اگلا صفحہ)

سوال میں یا غلط کا نہیں ہے اس واقعہ کا ہے۔

اس پاکستان میں خاکسار تحریک علامہ مشرفی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی سیادت میں آگئی لیکن بہمد وجہ وہ دستبردار ہو گئے۔ بالفاظ دیگر بھاری پتھر تھا اٹھ نہ سکا۔ چرم کے جھوٹا دیا۔ خدائی خدمت کار تنظیم، پختون زلمے کے نام سے خان عبد الغفار خان کے نژاد نذیر عبد الولی خان کو منتقل ہو گئی کہ ان کے والد جس ملک کے لئے آزادی کی طویل جدوجہد کرتے رہے اس ملک میں ان کا رہنا اجیرن ہو گیا اور وہ بڑھاپے میں افغان نشان چلے گئے اور اب کئی سال بعد آخری عمر میں لوٹ آئے ہیں۔

مجلس احرار اسلام حقیقتہً چند استعمار دشمن اور ہم خیال دوستوں کا مجموعہ تھی۔ اس کا دماغ افضل حق، اس کی زبان سید عطاء اللہ شاہ بخاری، اس کا دل حبیب الرحمن لدھیانوی اور اس کی آنکھ مظہر علی تھے۔ چودھری صاحب ۱۹۴۲ء میں اللہ کو پیار سے ہو گئے۔ ان کی اولاد نے سیاست احرار کا پنڈ جھوٹا دیا۔ مظہر علی کے بیٹے بھی افضل حق کے بیٹوں کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے لیکن وہ سیاست کی دوسری راہوں پر آگئے۔ مولانا حبیب الرحمن چونکہ ہندوستان میں آباد ہو گئے لہذا ان کے فرزند اپنے سیاسی مذاق کی بدولت بھارت میں رہنے لگے۔ ان کے ایک فرزند مولانا عزیز الرحمن جامعی نے اپنے والد مرحوم کے سوانح حیات لکھے ہیں جن میں ان کا استدلال ہندوستان کی آب و ہوا کے مطابق ہے۔ اس کتاب میں وہ احرار اسلام کے نہیں اپنے والد کے نمائندہ ہیں اور اسلام کا لفظ پاکستان کے احرار کی نذر کر دیا ہے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے فرزند سید ابوذر بخاری آج کل مجلس احرار کے ناظم اعلیٰ (جنرل سیکرٹری) ہیں انہوں نے احرار راہنماؤں کی تحریریں اور جماعت کی تاریخ کے گندہ اجزا جمع کر کے شائع کئے ہیں لیکن ہر کتاب کے ابتدا سے اکثر تاریخ کی ترازو سے نکل گئے ہیں۔ جس سے کئی چیزیں بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب اثاثہ کی بنیاد میراث پر ہو تو قدرتاً بعض چیزیں کی طرف سوجاتی ہیں۔ بہر حال ان عزیزوں کے مواد سے راق نے معتد بہ فائدہ اٹھایا ہے لیکن



ان کے استدلال سے اپنی راہ الگ نکالی ہے اور ان کے لہجہ سے بھی اجتناب کیا ہے۔  
 مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور سید عطار اللہ شاہ بخاری کے ان جلیل القدر فرزندوں  
 کے علاوہ احرار کے ایک آدھ کارکن نے شاہ جی کے سوانح مرتب کئے اور خطبات جمع فرماتے  
 ہیں۔ لیکن جن صاحب نے سوانح لکھے ہیں وہ لکھنا جانتے ہی نہیں جو کچھ ان کے نام سے  
 لکھا گیا وہ اس کے پڑھنے سے بھی معذور ہیں۔ اس سوانح عمری کا تین چوتھائی الفاظ و طاب  
 کا کوڑا کرکٹ ہے۔ ایسا ہی مذاق خطبات امیر شریعت میں ہے۔ مرتب نے ثریا کو شرمی  
 میں ڈال دیا ہے۔

احرار کی تحریکیں اصلاً اس کتاب کا حصہ نہیں ان کی تاریخ اور تجزیہ ایک علیحدہ کتاب کا  
 مضمون ہیں چونکہ شاہ جی نصف احرار تھے اور کوئی سی جماعتی تحریک ان کے بغیر متوک  
 ہوتی اس لئے زیر نگاہ باب مندرج بالا عنوان کے تحت مختصراً قلمبند کیا ہے، مولف،



## چند یادیں

شاہ جی کو دیکھا تو۔ چپن میں تھا۔ راقم اس وقت پانچویں یا چھٹی میں پڑھتا تھا، ۱۹۲۶ء کا سال تھا ساکن کشن کے درود پر ملک کی سیاسی فضا میں جوش و خروش تھا۔ ہر جگہ کشن کا استقبال اختلافی و احتجاجی مظاہروں سے ہو رہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی بائیکاٹ کی تحریک کے مددگار تھے۔ لاہور میں سرمیاں محمد شفیع انگریزوں سے اپنی فیر متزلزل وفاداری کے باعث اپنے حلقہ یاران کو لے کر حکومت کے طرفدار تھے ورنہ تمام شہر کشن کے متقاطعہ پر متفق تھا۔ کشن لاہور پہنچا تو ریلوے اسٹیشن پر زبردست مظاہرہ ہوا۔ لالہ لاجپت رائے، ڈاکٹر ستیہ پال، مولانا ظفر علی خان، چودھری افضل حق، سید عطار اللہ شاہ بنارسی وغیرہ اس مظاہرے کے راہنما تھے۔ اتنا بڑا اجلاس تھا کہ اسٹیشن کی سڑکوں پر پولیس نے کانٹے دار تار لگا کر راستے روک دیئے تھے اور پولیس کی زبردست جمعیتیں یس کاٹا ہو کر بزن کے لئے کھڑی تھیں۔ تب جیسپیں اور کاریں نہ تھیں۔ ایک ٹامی سنیر پرنٹنگ پریس گھوٹے پر سوار تھا اس نے بزن کیا تو اس کی ہندو مسلمان اور سکھ ذریت عوام پر ٹوٹ پڑی۔ اس زمانہ میں پولیس اور ظلم ہم معنی الفاظ تھے۔

لالہ لاجپت رائے لامٹی چارج سے شدید زخمی ہوئے۔ اسی رات مورسی دروازہ کے باغ میں جلسہ عام تھا۔ شاہ جی نے اس جلسہ میں اس غضب کی تقریر کی کہ مجمع کچھ سے کچھ

ہو گیا۔ معلوم ہوتا تھا ملک پر اس جلسہ کی حکومت ہے۔ شاہ جی کی یہ پہلی تقریر تھی جو راقم نے سنی تب شعور تو کچھ زیادہ نہ تھا بس ایک احساس تھا کہ اس ملک پر انگریزوں کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں وہ یہاں ایک غاصب کی حیثیت سے قبضہ کئے ہوئے ہے۔ اس وقت یہ تیز نہ تھی کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون؟ بس ایک جذبہ حریت تھا کہ عوام اس سے معمور تھے۔

شاہ جی کو ہندو نوجوان ڈنڈے والا پیر کہتے، جلسہ ختم ہو گیا تو ہر زبان پر تھا کہ ڈنڈے والے پیر نے جا دو کر دیا ہے۔ ہمارے ایک دوست پون کمار جو ایک آئی سی ایس کے صاحبزادے تھے اور اردو ادب سے انہیں ایک گہرا تعلق خاطر تھا۔ جلسہ گاہ سے لوٹتے وقت یہی کہتے رہتے کہ شاہ جی ویدوں اور اپنشدوں کے زمانے کے رشی ہیں۔ ان کی شکل والیک رشی کی لاہور کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی تصویر سے مشابہ ہے۔ آواز میں ان کی گنگا کی پوترنا اور جمنکا سندرتا ہے۔

دوسری دفعہ شاہ جی کو میکلیگن کالج کے طلبہ کی سرٹائیک سے متعلق منعقدہ جلسہ میں دیکھا، موچی دروازہ کے باغ میں جلسہ عام تھا ہزار ہا مسلمان جمع تھے۔ شاہ جی نے کئی چھ گھنٹے تقریر کی اور تین چوتھائی جلسہ اٹھا کر کالج کی طرف بھجوا دیا اور ات پو پٹنے سے پہلے نعروں سے شوق ہو گئی۔ راقم اس جلسہ میں ایک طرف کنارہ پہ کھڑا تھا۔ اور تاثر یہ تھا کاش اس شخص سے مصافحہ کر سکوں اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دوں۔ قدرت نے یہ دُعا اس طرح قبول کی کہ آٹھ سال بعد زندگی کا ایک ایسا سفر شروع ہوا کہ جس قافلہ کے شاہ جی امیر تھے راقم اس قافلہ کے گئے چھنے رفتار میں تھا اور ان سے جسم و جان کا ساق تعلق پیدا ہو چکا تھا پھر کے ساتھ دور دراز کے سفر کئے۔ کئی کئی مہینوں کی شانہ روز صحبتوں سے فیض اٹھایا، خدمت و محبت کا مطالعہ کیا ظاہر و باطن کی ایک پوری زندگی کا شاہدہ ہو گیا۔ کوئی شخص کسی کے باطن میں ہمتی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو پایا ہے یا میں اس کے وجود سے متعلق حرف آؤ

کہہ سکتا ہوں لیکن بہر حال انسان بتنا بیچیدہ ہے اتنا ہی سہل ہے۔ وہ کھلی کتاب کی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ شاہ جی کے ساتھ راقم نے ملک کے بہترین اور بدترین دن گزارے ہیں اور یہ دن سا لہا سال کی کیماٹی رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ راقم کے مشاہدہ و تجربے میں بہت سی شخصیتوں کا سونا — ملح سے بھی کمزوریت کی دھات نکلا۔ لیکن جن شخصیتوں نے راقم کے انکار و سوا رخ کا رخ بدل ڈالا ان میں شاہ جی ایک ایسی شخصیت تھے کہ بلاشبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرن اول میں ہوتے تو عشرہ مبشرہ میں ہوتے۔ راقم نے انہیں ہر لحاظ سے ایک سچا اور کھرا انسان پایا وہ اس عہد میں قدرت کا عطیہ تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ اور جھوٹ بول کر زندگی کی زندگی بسر کی جاتی ہے؟ یہ بات پہلے بھی کہیں آپکی ہے کہ وہ دو گروہوں کے دشمن تھے۔ اولاً انگریزی حکومت اور اس کے خوشہ چینوں کے، دوم میرزائی نبوت اور اس کے اعضا و جوارح کے۔ لیکن ان کے متعلق بھی کبھی کسی افتراء و کذب کے مرکب نہ ہوتے جو بات حقیقت ثابت ہوتی وہی بیان کرتے۔ کئی لوگ جن سے قومی گناہ سرزد نہ ہوئے تھے لیکن ان کے خیالات دوسرے تھے۔ وہ ان کے ذاتی دوست تھے۔ کوئی رفیق سفر ان کے متعلق سخت سست کہتا تو سختی سے روک دیتے۔ بھائی! جانے دو، وہ میرا دوست ہے۔ ان کی یہ عادت نقص کی مد تک چلی گئی تھی کہ دوستوں کے عیب چھپاتے تھے۔ فرماتے بھی اللہ تعالیٰ سارے میں غفار بھی اور رحیم بھی ہم ان کے بندے ہیں ہمیں سنت اللہ پر کار بند ہونا چاہیے۔

شاہ جی دعوت و تذکیر کے باب میں مشدد نہ تھے فرماتے جن لوگوں نے قرن اول سے لے کر اب تک اسلام قبول کیا وہ محض گفتار سے متاثر نہ ہوئے تھے انہیں داعیوں کے کردار نے متاثر کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ فرمایا اچھی تعلیم تو ہر مذہب میں مل جاتی ہے اصل مسئلہ اس تعلیم کی اساس اور تربیت پر انسانوں کے معاشرہ کا ہے۔ اسلام نے اوپنچ نپنم کی، غریبوں کو سرداری، نخشی، ہزاروں خداؤں سے نہات دلائی۔ ایک خدا

کا بندہ بنایا اور خدا بھی ان دیکھا کہ ہماری آنکھیں اس خدا کو دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ نیتو اس کا یہ نکلا کہ ساری خدائی میں اسلام چھلنے لگا۔ یہ گٹھریوں کی جہان بینی کا اعجاز تھا کہ نصف کائنات مسلمانوں کے زیر نگیں ہو گئی۔۔۔ لیکن اب مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ سیاسی مسلمان ہو گئے ہیں۔ خود علماء کو اپنے فرائض و مناصب کا احساس نہیں رہا۔ غیروں کو مسلمان بناتے بناتے مسلمانوں کو کافر بنانے کی تحریکیں چلا دی ہیں۔ ہندوستان میں یہ فصل انگریزوں نے کاشت کی۔ پہلے لوگ اہل اللہ کی نگاہ سے مسلمان ہوتے تھے اب اہل علم کی زبان سے کافر ہو رہے ہیں۔ شاہ جی کو ہمیشہ قلق رہا کہ سیاست دانوں نے تبلیغ اسلام کی رفتار روک دی ہے اب کوئی مسلمان نہیں رہا اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ سیاسی طور پر مسلمان ہوتا یا معاشی ضرورت کھینچ لاتی ہے یا پھر عشق و نفس کی مہربانی ہوتی ہے۔

۱۹۳۹ء کے ابتدائی مہینوں کا ذکر ہے بمبئی میں احمدیہ کانفرنس تھی۔ حافظ علی بہادر مرحوم نے بڑے مٹھاٹھ کا انتظام کیا۔ راقم کے چند احباب جو ویان فلم انڈسٹری میں کام کرتے تھے اور قدرت نے انہیں پنجابی حسن دے رکھا تھا۔ راقم کو ملنے آئے۔ راقم نے شاہ جی کو بھی ملایا، شاہ جی نے ان سے محفل جمالی اور زمانہ بھر کی باتیں زیر بحث لگائیں۔ ایک نوجوان نے جو کسی فلم میں سائیڈ ہیرو تھا شاہ جی سے کہا۔

”ہندو مسلم اتحاد ناقابل عمل ہے۔“

شاہ جی نے کہا۔

”ہاں بھائی تم بھی شکیک کہتے ہو، واقعی اتحاد سے بڑھ کر خطرناک چیز کوئی نہیں البتہ پیٹ کے لئے ہو تو خطرناک نہیں آزادی کے لئے ہو تو خطرناک ہے۔ فلمی صنعت میں ہمیں ہندو ہو اور ہیرو بن مسلمان تو وہ اتحاد قابل عمل ہے لیکن قومی سیاست میں عطا اللہ شاہ، جو اہل لال سے قدم ملا کے چلے اور مقصود انگریزوں کی فلامی ختم کرنا ہو تو اس سے بڑھ کر بھلا کیا چیز خطرناک ہو سکتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزی فوج کے ہندو اور مسلمان سپاہیوں نے

بیرون ملک شانہ بہ شانہ خون بہایا اور دوسروں کو غلام بنانے کے لئے خون بہایا وہ قابلِ عمل تھا اور اس سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن جلیانوالہ باغ میں مشرکہ خون واقعی خطرناک تھا:

اب شاہ جی اس نوجوان کو چھوڑنے کیونکر؟ اس کے لئے پیچھا چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ اتنے میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی وارد ہو گئے۔ کیا کرتے ہو؟ مولانا جلیانوی طبیعت کے زاہد خشک تھے، شاہ جی جمالی طبیعت کے باغ و بہار انسان۔

شاہ جی، کیا ارشاد ہے؟

مولانا نے خوبصورت انسانوں کا جھگٹ دیکھا تو کہا،

”یہ کون لوگ ہیں؟“

شاہ جی، ”یہ جُبہ و تار کے دشمن ہیں؟“

مولانا، ”تو آپ انہیں کیوں سمیٹ کے بیٹھے ہیں؟“

شاہ جی، ”جی نہیں! میں ان کے زرف میں ہوں۔“

مولانا، ”اچھا، چھوڑو! لوگ جلسہ گاہ میں انتظار کر رہے ہیں۔“

شاہ جی، ”آپ چلیں ابھی آتا ہوں؟“

مولانا، ”میرے ساتھ چلیں۔“

شاہ جی، ”آپ پدھارے کتنا بکھارے تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔“

کسی نے مولانا سے کہا یہ نوجوان فلم میں کام کرتے ہیں اور شاہ جی کو طے آئے ہیں۔

مولانا، نوجوانوں سے مخاطب ہو کر!

”آپ لوگ یہاں رہتے ہیں؟“

وہ، ”جی ہاں۔“

مولانا، ”کیا شغل ہے؟“

وہ، ”ہم فلم میں کام کرتے ہیں۔“

مولانا، "لاحول ولا قوۃ الا باللہ"

شاہ جی کے ہاتھ مضمون آگیا، فرمایا۔

"دو چیزوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے۔ پہلی چیز دین سے تعصب دوسری دین میں تشدد۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی چیز سے دین کی دعوت ختم ہو گئی ہے دوسری چیز سے نوجوان باغی ہو رہے ہیں۔"

ایک نوجوان نے شاہ جی سے کہا،

"شاہ جی، مولانا حبیب الرحمن لہریا نوبی کے لاجول نے ہمیں خوفزدہ کر دیا ہے درنہ ہم نے آپ کی شخصیت سے جو تاثر اخذ کیا یہ تھا کہ آپ سے دارورسن نام کی ایک بچہ کا بیرو بننے کی خواہش کریں۔ کیونکہ آپ کی صورت حضرت یسوع مسیح سے ملتی جلتی ہے۔"

شاہ جی کھکھلا کے ہنس پڑے فرمایا۔

"خوب ہے میاں! خود قد و گیسو میں رہو اور ہمارے لئے وہاں بھی دارورسن؟ اب سمجھ میں آیا کہ غالب کے ہاں "جہاں ہم ہیں وہاں دارورسن کی آزمائش ہے" کے معنی کیا تھے؟

ان نوجوانوں نے کہ شاہ جی کی گل افشانیوں سے سورتھے زحمت ہوتے وقت

شاہ جی کا ہاتھ پر مٹانا! تو ہاتھ کیچنے لیا فرمایا۔

دراں پٹہ یہ تو چھریا نہ جائے گا

استغنی میں مولانا حبیب الرحمن کے فرزند مولوی خلیل الرحمن آگئے کہ آبا بلا رہتے ہیں۔ مجمع ملکٹی باندھے بیٹھا ہے اور آپ کے انتظار میں ہے۔ شاہ جی نے مصافحہ کیا اور خلیل کے ساتھ ہو گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ شاہ جی اردو زبان کے سب سے بڑے خطیب تھے، ماضی و حال

میں اردو زبان کا اتنا بڑا خطیب پیدا نہیں ہوا۔ مسٹر اے ڈی اظہر برطانیہ میں پاکستان



کے مافی شریعتے۔ ایک دن ان سے سرو سنسٹن چرچل کی خطابت کا ذکر چھڑ گیا۔ اظہر صاحب نے اس کی خطابت کے متعلق بہت سی چیزیں بیان کیں، کہنے لگے چرچل عموماً لکھی ہوئی تقریر کرتے تھے اور انگریزی میں انہیں مکہ خاص حاصل تھا۔ لیکن ان کی خطیبانہ شہرت کا سبب انگریزی زبان کا غلبہ تھا۔ چونکہ انگریزی اس وقت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کو غلبہ عام حاصل ہے اس لئے چرچل کا نام ہر جگہ موجود ہے۔ اُردو اس کے برعکس محدود ہے۔ جس برعظیم میں بولی جاتی ہے وہاں بھی ایک زبان نہیں کہی زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ اُردو عالمی زبان ہوتی تو شاہ جی دنیا کے سب سے بڑے اور منفرد و یگانہ خطیب تسلیم کئے جاتے۔ اظہر صاحب نے کہا چرچل بہ لحاظ خطابت شاہ جی کے مقابلہ میں بیچ تھا۔ الفاظ شاہ جی کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے کہ وہ انہیں کب استعمال کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہزاروں الفاظ ان کے نطق کی حسرت لئے موجود ہوتے۔ وہ بڑے سے بڑے مجمع کو اکائی میں ڈھال کر شکار کر لیتے۔ ان کے ہاں الفاظ خانہ زاد کی حیثیت سے موجود رہتے اور وہ ان سے موقع و محل کی مناسبت سے اس طرح کام لیتے کہ یہ قول انیس

دُعا سے مجھے اے زمین سخن

کر میں نے تجھے آسمان کو دیا

ان کی زبان پر چڑھ کر سیکڑوں سنو خ و تہذیب الفاظ شائستہ و حسین بہر گئے اور سماعت میں جھولنے لگے۔ اکثر پنجابی الفاظ اور پنجابی دوہے جو کلہنڈروں کے مذاق کا حصہ تھے ان کی بدولت بالا ہو گئے اور ان کی زبان پر اگر ان کا شرف بڑھ گیا۔ علامہ اقبال فرماتے تھے شاہ جی اسلام کی چلتی پھرتی تلوار ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے راقم سے خطابت کے موضوع پر گفت گو کرتے ہوئے فرمایا شاہ جی کا اُردو خطابت میں وہی مقام ہے جو اُردو شاعری میں میر انیس کا درجہ ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے شاہ جی سے کہا تھا آپ لوگوں کو مرغ و بریانی

کھلا میں گے تو ہمارا ساگ سٹو گز پوچھے گا: "مولانا فخر علی خان فرماتے تھے اردو میں شاہ جی سے بڑا خطیب پیدا نہیں ہوا اور آئندہ بھی کئی نسلیں اتنا بڑا خطیب پیدا نہ کر سکیں گی۔" مولانا شوکت علی کا ارشاد تھا شاہ جی بولتے نہیں موقی رولتے ہیں ان کا وجود چشمہ صافی ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے ان کی وفات پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ سردار نثر تے راقم سے کہا تھا کہ شاہ جی نے خطابت میں انارٹھن کی بنیاد رکھی ہے، وہ بیک وقت سرو و من اور در و رس کے خطیب ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ "ان کی باتیں عطا اللہی ہوتی ہیں۔ علامہ انور شاہ نے کہا "عطاء اللہ مہذبوت میں ہوتے تو ناقہ رسالت کے حدیٰ خوان ہوتے۔۔۔۔۔ وہ یگانہ روزگار خطیب ہیں۔" مولانا شبیر احمد عثمانی کا بیان تھا کہ "اس قسم کے نابغہ لوگ روز بروز پیدا نہیں ہوتے وہ روزمرہ کی زبان میں دین کے بڑے بڑے مسئلے حل کر جاتے ہیں۔" مولانا حسین احمد منی نے انہیں اس زمانہ میں اسلام کی زبان قرار دیا اور مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا کہ "شاہ جی اسلام کی شمشیر برہنہ ہیں۔" پنڈت جو اہر لال نہرو نے ان کی رحلت پر کہا تھا "اردو خطابت کا تاج محل ڈھے گیا ہے" اور سب سے تاریخی جملہ مہاتما گاندھی کا تھا۔ کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے شاہ جی کا ذکر آگیا کہنے لگے،

اب بھی وہ چھ جھ گھٹے بولتے ہیں؟

جواب دیا۔ جی ہاں ان میں وہی کس بل ہیں۔

مہاتما جی نے کہا۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ دنیا مختصر ہو گئی ہے۔

ہم لوگ سکرائے، مہاتما جی بولے۔

"شاہ جی آگ ہیں جو دشمنوں کے نشیمن پھونکتی اور دوستوں کے چولہے جلاتی ہے۔

وہ ہوا کو روک کر اس سے روانی اور سمندر کو ٹھہرا کر اس سے طغیانی لیتے ہیں۔"

حقیقت یہ ہے شاہ جی قرآن پڑھتے تو معلوم ہوتا ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اور

جب بولتے تو ان کی تقریر اس طرح مسجع و مقفیع ہوتی کہ اس پر کوئی سی تشبیہ یا استعارہ وارد نہیں ہوتا۔ گمان ہوتا کہ قرن اول کے غزوات نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھادی ہے۔

شاہ جی کی خاص خوبی یہ تھی کہ وقت کی خصوصیت کو ملحوظ رکھتے اور اس سے بات پیدا کرتے۔ شب برات کا دن تھا کسی نے پوچھا شاہ جی خطابت کیا ہے؟  
جواب دیا۔ آتش بازی، احباب کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔

فرمایا ہنسنے کیوں، ہو خطابت آتش بازی نہیں تو اور کیلئے، اس میں پٹانے، ہوا تیاں، مہتابیاں، تانا پھلجھڑیاں سب شامل ہیں؟ اب جو اس موضوع پر شروع ہوئے تو خطابت پر تقریر ہو گئی۔ تقریر کیا مقالہ تھا۔ خطابت کے نشیب و فراز نہایت شرح و بسط سے بیان کئے۔ فرمایا خطابت اپنا کوئی موضوع نہیں رکھتی لیکن ہر موضوع کے ابلاغ کا نام ہے۔ خطیب وہی کامیاب ہوتا ہے جو عوام کو ان کی سطح سے اٹھا کر اپنی سطح پر لے آئے۔ خطابت فنون لطیفہ کی غیر مرئی آواز کے اجتماعی حسن کا نام ہے۔ چہروں کا حسن آنکھیں چمکتی ہیں آواز کا حسن کانوں سے چننا جاتا ہے۔ چہروں کا حسن شخصاً متاثر کرتا اور مضطرب رکھتا ہے آواز کا حسن اجتماعاً مسحور و مستعد کرتا ہے۔

فرمایا۔۔۔ تقریر کے لئے اول چیز زبان ہے کہ جس میں کلام کرتے ہو۔ اس پر کتنی قدرت حاصل ہے، رہا لہجہ تو زبان کے لئے سونے پر سہاگہ کی طرح ہے۔  
روانی تقریر کے لئے صیقل ہے، ذہانت اس تلوار کی کاٹ ہے ظرافت بس اتنی ہو جتنا حسین چہرہ پر تل ہوتا ہے۔ حرکات و سکنات خطیب کی وجاہت کے نشان ہیں۔  
ان سے خطابت واضح ہوتی ہے۔

انفرادیت سے متعلق فرمایا۔ وہ خطابت کا طرہ ہے، قدرت ہر خطیب کو ایک بانگین بخشی ہے، جو اخلاص و محنت سے پروان چڑھتا ہے۔ باقی موضوع، مضمون،

دعوت یا پیام کے بغیر تقریر اس کے سوا کچھ نہیں کہ الفاظ کا سخرہ ہے۔

بعض سوالوں کے جواب میں فرمایا۔

خطابتِ ابلاغ کی معراج کا نام ہے جس سے دماغوں میں افکار کو راہ ملتی اور

دلوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے تقریر الفاظ و مطالب کی مینا کاری ہے —

وعظ عقیدہ کی آبیاری ہے پارلیمانی تقریر افہام و تفہیم کی نمائش ہے۔ مذاکرے یا مباحثے

افکار و اذہان کی شطرنج ہیں۔

پبلک سپیکنگ کے متعلق فرمایا کہ شعلہ و شبنم کا آمیختہ ہے اور اس میں وہی لوگ

کامیاب ہوتے ہیں جو لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ انسانوں کے سر اکٹھے کر کے ان کے قدم

ملا دینا خطابت کا منہتی ہے۔

خطابت کے بارے میں شاہ جی کے یہ خیالات حافظ کی یادوں سے ماخوذ ہیں۔

انہوں نے خطابت کی وادی میں چالیس برس سفر کیا اور لاکھوں فقرے زبان و بیان سے

نکلے رہے۔ ان کے شرکار سفر میں کوئی صاحبِ قلم ہوتا تو نطشے کی تالیف بقول زرشاد

کی طرح ایک ایسی کتاب تیار ہو جاتی کہ اُس دو خطابت صدیوں ناز کرتی۔ افسوس ان کے

افکار و کلام کا وہ سرمایہ ہواؤں میں گھل مل گیا۔ نتیجتاً قرطاس و قلم خالی رہ گئے۔

بہر حال اپنی یادداشتوں اور دستوں کی روایتوں سے چند کلمات نذر قارئین ہیں فرمایا۔

● عمر بھر مسلمانوں کے دروازے پر دستک دیتا رہا جواب نہ آیا۔ سوچتا ہوں تو معلوم

ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی سرشت بڑھوں کی ہمت، بچوں کی ضد، اور غورتوں کی

عقل سے تیار ہوئی ہے۔

● میرے اعصار نے مجھ سے بغاوت کر دی ہے، ہمت نہیں کہ آپ سے خطاب

کروں، ساری عمر کی پونجی وہ نوجوان میں جو گھر سے اٹھا کر مجھے یہاں لے آئے۔ حقیقتاً

یہاں سزا کے طور پر کھڑا ہوں۔ ان نوجوانوں نے سزا دی ہے اور میں نے وہ سزا قبول

کر لی ہے۔

● ہم دونو بیمار ہیں۔ آپ بھی بیمار ہیں بھی بیمار ہوں۔ مجھے سچ بولنے کا عارنتہ ہے تمہیں سچ نہ سمجھنے کی بیماری ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دونو کو شفا دے  
ورنہ۔ ع

جی کا جانا ٹھیکہ کیا ہے صبح گیا یا شام گیا

● میں بیان کرتا ہوں بیان نہیں دیتا۔ میری ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے بالاستیعاب مطالعہ نے مجھے یہ رائے قائم کرنے میں بڑی مدد دی ہے کہ ان کی پوری تاریخ کا لب لباب یہ ہے کہ وہ ڈنڈے والے کے آگے آگے اور پیسے والے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔

● شاہ جی کے چل چلاؤ کا زمانہ تھا اکثر و بیشتر محسوس ہوتا دل گرفتہ ہیں۔ ایک دن کسی نے کہا شاہ جی اس قوم نے آپ کو کچھ نہیں دیا؟  
فرمایا۔ پہلے کس کو دیا ہے کہ مجھے دیتی میں نے جو کچھ کیا اللہ کے لئے کیا۔ ایک صاحب بولے۔

بہر حال اتنی طویل جدوجہد کا صلہ یہ ہوتا تو شکستیں دل پر داغ چھوڑ جاتی ہیں۔  
فرمایا۔

”مجھے اپنی قوم سے کوئی اُمید نہ تھی اگر وہ بہتر سلوک کرتی تو حیرت ہوتی اس قوم نے میرے باپ سے جو کر بلا میں کیا اور میرے نانا سے جو مکہ میں کیا وہ گویا میرا ورثہ تھا اس قوم کو وہی کرنا چاہیے تھا جو میرے خاندان سے کر چکی اور میرے اسلاف سے کرتی رہی ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس سے مطمئن ہوں سوک مختلف ہوتا تو متعجب ہوتا۔ البتہ اس قوم کے انجام سے متفکر ہوں مبادا یہ قوم۔ برعظیم سے محو نہ ہو جائے۔

● سلطان ابن سعود نے حجاز میں جلسے کروانے شروع کئے تو برعظیم کے ان علماء و مشائخ نے آسمان سر پر اٹھا لیا جن کے پیروؤں نے ان سے تعویذ لے کر زندہ عربوں کو

جلایا اور پہلی جنگ عظیم میں بھرتی ہو کر خلافت عثمانیہ کو تاراج کیا تھا۔ شاہ جی اور ان کے رفقاء ابن سعود کے طرفدار تھے ان کا خیال تھا کہ ابن سعود کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ انگریزوں کی سیاست کاری ہے اور اب وہ لوگ فتنہ اٹھا رہے ہیں جو پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے ریکروٹنگ ایجنٹ تھے۔

● شاہ جی بھی وہابی ہونے کی زد میں آگئے۔ ڈیرہ غازی خاں میں ختم نبوت کے مسئلہ پر تقریر کر رہے تھے کسی نے سوال کیا۔

حضرت قبوں سے متعلق کیا خیال ہے؟

مجمع پروردست اور قبر پرست۔ فرمایا،

روضہ تو ایک ہی ہے اور وہ ہے گنبد خضریٰ تلے سونے والے کا، اس کے بعد کوئی دوسرا روضہ مشرک فی النبوة ہے لوگ تھے کہ واہ واہ کر اٹھے، سبحان اللہ، جزاک اللہ فی الدارین۔

● عمر پھر قرآن سنا تا رہا ہوں میں نے جس محاذ پر کام کیا قرآن ساتھ رکھا اور کبھی افتراق بین المسلمین کے لئے استعمال نہیں کیا۔ اس سے انسانوں کو لڑایا نہیں ملایا ہے۔

● اگر دنیا سے قرطاس و قلم ختم ہو جائیں تو بھی یہ کتاب جوں کی توں رہے گی۔ یہ سینوں کی کتاب ہے دنیا میں کسی کتاب کی اشاعت اتنی نہیں ہوئی جتنا قرآن کے حافظ ہوئے ہیں اور اب بھی ہیں۔

مجھے فکر و نظر کے لئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرن اول میں گھومتا ہوں۔ جس کتاب سے انسان میں فقر و استغنا اور جہد و غیرت پیدا ہو وہ سب سے بڑی کتاب ہے اور قرآن کے سوا کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے۔

● انبیاء نہ آتے تو کائنات ایک ایسی کتاب ہوتی جس کے ابتدائی اور آخری

دعوات کھو گئے ہوں۔ یہ چیز انبیاء ہی کی معرفت بنی نوع انسان کو ملی ہے کہ انسان اور اس کے رب کے مابین کیا رشتہ ہے۔

● صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، رسالت مآب کی دعوت پر قائم شدہ معاشرے کے ابتدائی فرد تھے انہیں دعوتِ رسول ہی نے تیار نہیں کیا تھا بلکہ ان کی تربیت میں نگاہِ رسول شامل تھی۔ جو لوگ ان مقدس ہستیوں پر اعتراض کرتے وہ رسالت مآب کی ہیٹی (خاکِ بدہن) کرتے ہیں کہ اللہ کا آخری پیغمبر اپنے رفقاء کو بنانے اور پہچاننے سے قاصر رہا۔ اس طرح وہ لوگ حضور کی نبوت پر بالاسادہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر رسالت مآب اپنے رفقاء کے دل میں قرآنِ نزلت کے توپھر کون رہ جاتا ہے جن کے متعلق یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی بدولت فلاں عہد کے انسانوں نے اپنے تئیں اسلام کے سپرد کیا تھا۔

● ایک نے سوال کیا حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا اس قسم کے سوال نہ کیا کرو۔ سوالات میں چور ہو تو دل کافر ہوتا ہے۔ خدیجہؓ، محمد بن عبد اللہ کی بیوی اور عائشہؓ محمد رسول اللہ کی زوجہ تھیں۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق دل کا چور نکال دو۔ حضور، عائشہ ہی کے حجرہ میں آرام فرما رہے ہیں حضورؐ پیار سے انہیں حمیرا کہہ کر پکارتے تھے اور عائشہؓ ہی کے لئے جبرائیلؑ نے قرآن کے کھڑے میں کھڑے ہو کر صفائی دی ہے۔

● جو لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت علیؓ خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ کیوں تھے؟ تو گویا ان کے نزدیک آخری ہونا بمنزلہ امانت ہے، انہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔

● کسی قصبہ میں تقریر کرنے جا رہے تھے، دیکھا تکیہ میں کچھ لوگ چرس پی رہے ہیں اور چلم کاکش لگا کے یا علی مدد کا نعہ لگاتے ہیں۔ رگ گئے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا کیوں میاں! حضرت علیؓ چرس پیا کرتے تھے؟ چرس پی کر میرے باپ کا نام کیوں لیتے

ہوا اپنے باپ کا نام لو۔

○ کسی نے سوال کیا۔

شاہ جی! علیؑ اور عمرؓ میں کیا فرق ہے؟

فرمایا۔ بڑا فرق ہے علیؑ حضورؐ کے مرید تھے۔ عمرؓ مراد — اور سب خود ملکہ بگوش

اسلام ہوئے تھے لیکن عمرؓ کو اللہ تعالیٰ سے ناکا تھا۔

○ سوال کیا۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی دوسری بہنوں رقیہ، ام کلثوم اور زینب

میں کیا فرق ہے؟

فرمایا۔ فاطمہ نبوت کے بعد کی صاحبزادی اور باقی نبوت سے پہلے کی صاحبزادیاں ہیں۔

شاہ جی! اردو، عربی، فارسی، پنجابی اور ہندی اشعار کا مخزن تھے۔ اردو بولتے تو اہل بلان

منہ میں گھنٹیاں ڈال لیتے، پنجابی میں کلام کرتے تو معلوم ہوتا اسی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔

پنجاب کے ہر ضلع کی بولی ٹھولی میں آتا رہتے۔ بالخصوص ملتان اور بہاولپور کی زبانوں میں خاصی

مہارت پیدا کر لی تھی۔ بابا فرید کا کلام اور مولانا روم کی مثنوی حفظ تھے۔ کہانیاں، لطیفے،

تمثیلیں، منہ بالامثال اور چہستہ گوئیاں ان کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی تھیں۔

پنجابی کے دو بے ان کی معرفت عقد تریا تک چلے جاتے۔

ایک صاحب نے سوال کیا۔

شاہ جی جناح سے آپ کا اختلاف کیا ہے؟

فرمایا۔

کوئی نہیں۔

وہ۔ تو پھر ایک کیوں نہیں ہو جاتے۔

شاہ جی۔ بھائی، میں تو ان کی کفش برداری کو تیار ہوں لیکن میرے ذہن میں بعض



کانٹے ہیں وہ یاد فرمائیں سر کے بل جاؤں گا۔ سمجھا دیا تو وہ آرام سے بیٹھیں ان کی لڑائی خود لڑوں گا۔ لیکن وہ ہم سے بات نہیں کرتے صرف بیعت چاہتے ہیں۔

مجمع دیہاتی تھا قائد اعظم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا

میری گلگھری لوں گلگھر دلو اسے

جے تو میری ٹور دیکھنی !

اور شرح یہ کی پاکستان کا اور چھوڑتا دو عوام کے ہر نماز پر جاؤں گا اور لڑوں گا۔

ایک ٹھیٹھ پنجابی گاؤں میں معراج النبی پر تقریر کر رہے تھے، فرمایا۔

حضور معراج کو چلے تو کائنات رگ گئی۔

سوچا کہ دیہاتی سمجھ نہیں سکے کہ کائنات رگ گئی کے معنی کیا ہیں، پوچھا۔

کچھ سمجھے؟ مجمع نے کہا۔ جی نہیں۔

بہت سمجھایا لیکن اُردو اور پنجابی کے متبادل فقروں سے بات نہ بن سکی۔ کروٹ لی۔

”کہ سوہنا اپنے عاشق دل چلیاتے زمین و آسمان ٹھہر گئے“۔ کیوں؟ آواز کارس گھلاتے

تے یہ لہن سے

تیرے نوگ واپیا لشکارا

تے بالیاں نے ہل ڈک لئے

مجمع پھر ٹک اٹھا۔ آوازیں آئیں شاہ جی سمجھ گئے۔ اور یہ تھا خطابت کا اعجاز۔



سچ دونوں وزارتی مشن دہلی پہنچا شاہ جی اور احرار کی علیحدگی کے ارکان دہلی میں تھے اور اس

وقت تک دہلی میں ہی رہے جب تک مشن انگلستان لوٹ نہیں گیا۔

دواڑ حائی مہینے کی ان صحبتوں میں شاہ جی کا بالراست مطالعہ کیا تو ان کی طبیعت کے

مختلف پہلو اپنی خصوصیتوں سمیت ظاہر ہو گئے تمام دن لوگ چلے آتے مختلف موصوفات

پر گفت گو ہوتی، جو مومنوح چھڑتا گھنٹوں چلتا۔ بظاہر وہ کتاب کے آدمی نہیں تھے شاد و نادر کوئی سی کتاب دیکھی لی۔ فہما نہیں تو جدید ادب سے قطعاً نابلد تھے۔ ایک دن نئے شاعروں اور نئے ادیبوں کے انتخاب کا ذکر ہونے لگا پہلے تو غور سے سنتے رہے پھر اس ادب کا تجزیہ شروع کیا تو حیرت ہوئی کہ معلومات حیرت انگیز ہیں۔ فرمایا،

”نیا ادب بدعت نہیں بدعت ہے اس میں زیادہ تر گھنٹا پراہن ہے، ہر عہد کے بیان کا ایک اسلوب ہوتا ہے ہمارے نئے لکھاڑی اسلوب بدل ڈالتے تو عیب نہ تھا عصری روح کا اقتضاء ہوتا لیکن انہوں نے مطالب بھی بدل ڈالے اور ان کی جگہ جو نئے مطالب گئے وہ محض تقلید، اخذ اور توارد ہیں، اور تقلید بھی یورپ کے اس ہیجانی ادب کی جو مغرب میں معاشرہ و اخلاق اور دین و مذہب سے بغاوت کے نام پر جنا گیا ہے۔ اس قسم کا ادب کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ یہ محض نعرہ بازی ہے جو ایک قوم، ایک عہد چھوڑتے وقت دوسرے عہد کی راہوں میں اختیار کرتی ہے۔ یہ انقلاب نہیں مزاج ہے۔ غم و غصہ کی یادگار ہمارے شاعر و ادیب نہیں جانتے کہ تقلید ارتقا کی دشمن ہے، اس سے جمود پیدا ہوتا اور انقلاب مٹہر جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ادب کی پرانی قدروں سے بغاوت کے شوق میں ادب کے مسلمات بھی ترک کر دیئے ہیں۔ ہر قوم کی ایک زبان ہوتی، اس کا مزاج اور اس مزاج کے رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں، ہمارے ان ادیبوں اور شاعروں نے ان پر بھی ہتھوڑا چلایا ہے یہ چیز عمدہ ہے کہ نئے ادب سے زنجیروں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے لیکن حیرت ہے کہ ان ادیبوں کے ہاں ابلاغ کی روح نہیں۔ جو ادب عوام کے لئے نہ ہو وہ ادب نہیں پہلی ہے، تعجب ہے کہ ادب میں عوام کی زبان کے استعمال پر زور دینے والے عوام کی زبان سے نابلد ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ جس قوم سے مخاطب ہیں اسے کس لہجے سے پکارنا چاہیے اور اظہار کا وہ کون سا پیرایہ ہے جو ان کی زبان کا لازمہ ہے اور جس سے عوام حرکت میں آتے ہیں۔ نیا ادب عوام سے مغارت کی بنیاد پر ہے اس

کے پروڈیوسر مارکیٹ میں نہ تو اس کی ضرورت کا احساس کرا سکے ہیں اور نہ اس کی مانگ پائی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایک خاص مزاج کے چند سو لوگ ادب میں عربانی کی تحریک لیکر لگدگرنی کر رہے ہیں۔ جدید ادب — بالفاظ دیگر اردو میں ہنسی ازم ہے، یہ لوگ بازار حُسن کے تاجر ہیں ان کے ہاں آگ اور لہو کی سفارت نہیں تجارت ہوتی ہے۔ یہ سرو نہیں نشہ بیچتے ہیں — گھٹیا نشہ جس سے نئی پود ادب کی آڑ میں گناہ کا جواز لاتی ہے۔ شاہ جی نے اس ادب کے نوادرات کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا۔ مثلاً یہی نظم ہے۔

چھن — چھن — چھن

چھنا چھن ، چھنا چھن — چھنن

چھن — چھن — چھن

چھنا چھن ، چھنا چھن — چھنن

فرمایا میں نے اس کے ناظم سے پوچھا — اس شہ پارہ کا مطلب کیا ہے ہ کپنے لگے۔

یہ صوتی تصویر ہے ایک محبوبہ آشنا سے ملنے کے لئے گھر سے نکلتی ہے تو اس کی رفتار چوری چھپے کی ہوتی ہے، چھن — چھن — چھن۔ پھر دائیں بائیں کے خطرات سے اپنے تئیں محفوظ پا کر آشنا کے مکان میں جمعٹ سے داخل ہو جاتی ہے — چھنن۔ لوٹتے وقت اسی طرح چوری چھپے نکلتی اور اپنے گھر میں چھنن سے داخل ہو جاتی ہے — چھن چھنن اس کے پازیب کی آواز ہے۔

فرمایا، اول تو یہ صوتی تصویر شاعری نہیں، کچھ اور ہے — خیال کی بدکردار سی اور اگر شاعری یہی ہے تو میں بوڑھا جو کہ بھی دن بھر میں کئی دیوان مرتب کر سکتا ہوں۔ جہاں تک اختصار کا تعلق ہے اس سے بھی مختصر یعنی دو حصوں میں پوری کہانی کہی جاسکتی ہے۔

مثلاً

وصل کی شب، اور ان کا کہنا

جاؤ سمجھی ہم نہیں سنتے

عوام سمجھ لیتے اور بات ادھوری نہیں رہتی۔ دو مصرعوں میں پوری کہانی پیش

ہوتی ہے۔

ان دنوں شاہ جی کی بدولت مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور بعض دوسرے مشاہیر سے ملنے کا مفصل موقع ملا۔ ان سے یہ پہلی ملاقاتیں نہ تھیں لیکن شاہ جی سے ان کے تعلقات کا اندازہ ہو گیا۔ ان نجی محفلوں سے بعض ایسی باتیں معلوم ہوئیں جو اکثر و بیشتر عوام میں نہیں آتی ہیں۔

مہاتما گاندھی نے عزیز الرحمن کی معرفت انہیں یاد کیا اور وہ تاریخ مقررہ پر ان کے ہاں آدھ گھنٹہ رہے۔ شاہ جی سے بڑھ کر وقت کا دشمن کوئی نہ تھا وہ اس باب میں کسی پابندی کو ملحوظ نہ رکھتے۔ گاندھی جی کے ہاں پہنچے تو ٹھیک وقت پر لیکن وہاں ملکی مسائل کے بجائے سورہ اخلاص کی تفسیر لے بیٹھے۔ گاندھی جی اپنی پرارتھنا میں علاوہ اپنی دعاؤں کے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ شاہ جی نے کہا ان سورتوں کے معنی میں آپ کس کے ترجمہ پر انحصار کرتے ہیں؟ گاندھی جی نے کہا— دونو سورتوں کے معنی بیان کرتے وقت مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمہ ملحوظ رکھتا ہوں۔ فرمایا شاہ عبدالقادر کا ترجمہ دیکھا ہے کہنے لگے ہاں، فرمایا— انہوں نے سورہ فاتحہ کا جو نقلی ترجمہ کیا ہے وہ زیادہ بہل ہے۔ غرض اس بیان و کلام میں انتیس منٹ نکل گئے، ایک منٹ باقی تھا ہم چاہتے تھے کہ شاہ جی گاندھی جی سے پیش آمدہ مسائل سے تعلق معلوم کریں کہ وزارتی مشن سے گفتگو کس مرحلے میں داخل ہوئی ہے لیکن وہ ترجمہ کی بحث کو چھڑکے بیٹھ گئے۔

عزیز الرحمن نے کہا— شاہ جی وقت ہو گیا ہے۔

شاہ جی نے فرمایا— چھوڑ دو میرے اور مہاتما جی کے درمیان کوئی وقت نہیں۔ پورے

تیس منٹ ہو گئے تو شاہ جی کا فقرہ بھی ادھورا ہی تھا کہ مہاتما جی مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ اچھا شاہ جی - پرارتھنا کا وقت ہو گیا ہے میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بے بے ڈگ بھرتے ہوئے گاندھی جی موٹر پر سوار ہو کر میلا گراؤنڈ چلے گئے جہاں وہ بہ روز دیکھے شام پر ارتھنا کرتے اور بعض مکی مسائل پر ہلکے پھلکے اشارے کرتے تھے۔

میرا محمد حسین شملوی شاہ جی کے میزبان تھے۔ ان کی ایک دوکان کناٹ پلس میں تھی، پنڈت جو اہر لال نہرو شاہ جی سے ملنے وہاں آئے۔ اس ملاقات میں شاہ جی کے ہمراہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ماسٹر ماج الدین انصاری، شیخ حسام الدین اور راقم الحروف بھی تھے۔ پنڈت جی نے مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

۱ - ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ان کا نام تجربے رکھ لیا ہے۔

۲ - ہندوستان آزاد ہو رہا ہے لیکن جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح نہیں اس آزادی کی صورت بالکل دوسری ہوگی۔

۳ - مسٹر جناح دھن کے کچے ہیں وہ تقسیم سے کم پر راضی ہوتے نظر نہیں آتے۔ بلکہ تقسیم ہو گیا تو بزرگ عظیم ہندو مسلم مسئلہ سے نکل کے پاکستان و ہندوستان کے ٹکڑاؤ کا شکار ہوگا۔ نہ جانے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟

۴ - ہم سے مسٹر جناح کی شخصیت کا اندازہ کرنے میں ابتداً غلطیاں ہوئی ہیں۔ کانگریس ان کی شخصیت کو شروع میں نظر انداز نہ کرتی تو آج حالات و مسائل مختلف ہوتے۔

۵ - کانگریس نے پنجاب، سندھ اور بنگال میں مسلمانوں کو ناراضی کا موقع دے کر موجودہ صورت حال کو جنم دیا اور وہ مسلمان اپنے مسائل کیلئے ہندوؤں کے اکثریتی صوبوں کی مسلمان لیڈر شپ کے دست نگر ہو گئے۔

۶ - عجب بات ہے جن لوگوں کے پاس مسلمانوں کا دین ہے وہ ان کی سیاست سے متروک ہو گئے ہیں اور جن کے پاس سیاست ہے وہ مذہب کا نام لے کر ان کا

استحصال کر رہے ہیں۔

۷۔ لیگ نے اردو کو بڑا نقصان پہنچایا ہے ہندوستان تقسیم ہو گیا تو اردو تقسیم ہوگی  
عجب نہیں پاکستان بھی اس کو صحیح مقام دینے سے قاصر رہے کیونکہ نفرت پہلے  
قومی پھر علاقائی ہو جاتی ہے۔ افسوس کہ جناح کے بعد مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا  
لیڈر نہیں ہے۔

۸۔ بڑے عظیم تقسیم ہو گیا تو اس کی صحیح شکل ہندوستان اور پاکستان کی فیصلہ کن لڑائی کے  
بعد ابھرے گی۔

۹۔ سکندریات نے مجھے خط لکھا تھا اور وہ خط میرے پاس محفوظ ہے کہ پاکستان  
صرف قرارداد ہے۔ ہمارا مقصد ملک کی تقسیم نہیں لیکن اب تو ملک تقسیم ہوتا  
نظر آ رہا ہے۔

۱۰۔ میں آوارہ گرد ہوں لوگ بھی آوارہ گرد ہوتے ہیں اس لئے ہم دونو ایک دوسرے  
سے محبت کرتے ہیں۔

۱۱۔ ہم نے آزادی کی لڑائی میں عمریں گنوا دی ہیں لیکن نتائج ہمارا ساتھ نہیں دے  
رہے ہیں۔

۱۲۔ کانگریس میں عوام پر میرا اثر وسیع ہے لیکن کانگریس کی تنظیم میں میرا اثر محدود ہے۔  
وہاں سردار پٹیل جوڑ توڑ کرتے ہیں۔



مولانا آزاد نے تین بجے دن کا وقت دیا۔ شاہ جی بر امرار ساڑھے تین بجے قیام گاہ  
سے چلے۔ وہاں پہنچنے پر چار بج رہے تھے۔ مولانا اپنی موٹر کی خرابی کے باعث پریشان  
تھے ہمیں دیکھتے ہی شیخ صاحب سے کہا۔

میرے بھائی! آپ کا موٹر لے جاتا ہوں حقوڑی دیر میں لوٹ آؤں گا۔ آپ اندر کرے

میں بیٹھیں۔

شاہ جی نے آگے بڑھ کر کہا۔

حضرت میرے کاندھے حاضر ہیں۔

مولانا نے فرمایا۔

میرے بھائی وہ بوجھ تو آپ اٹھائے ہوئے ہیں۔

مولانا پون گھنٹہ بعد دائیں ریل سے لوٹ آئے، فرمایا۔

”گفتگو شملہ منتقل ہو گئی ہے“

شاہ جی نے عرض کیا۔

”غبارِ خاطر آگئی ہے“

فرمایا۔

ہاں بھائی، دس نسخے آئے ہیں ایک کاپی جو ابھرا لال کو بھجوا دی ہے۔ ملازم کو آواز دی دو نسخے منگوائے۔ ایک نسخہ شاہ جی کو دیا دوسرا راقم کو عطا فرمایا۔ پھر ایک اور نسخہ منگوایا، شیخ حسام الدین کو دیا پھر گلشنی گفتار سے نواذنا شروع کیا۔ راقم کی ڈائری سے چند تلخیصات نذر قارئین ہیں۔

۱۔ میں نے ملک کے مسائل پر وزارتی مشن کو ایک حل تجویز کیا ہے۔ کرپس صاؤ کر چکے ہیں اور پیٹھک لارنس بھی کہہ رہا تھا کہ ملک کی دونوں پارٹیاں تسلیم کر لیں تو یہ ہندوستان کے موجودہ سیاسی سٹے کا بہترین حل ہے۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ مسٹر جناح تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟

ہم میں سے کسی نے پوچھا وہ سیکم آپ نے کانگریس کی طرف سے پیش کی ہے یا آپ کی

لے مولانا کا اشارہ وزارتی مشن کی ابتدائی سیکم کی طرف تھا۔

طرف سے ہے۔ فرمایا اسکیم تو میری ہے لیکن کانگریس معترض نہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایک ذہین مخالف ہو اس کے پیش نظر مدت سے تقسیم ملک پر اصرار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح ہمیشہ کے لئے ہندو مسلم قضیہ ختم ہو جائے گا لیکن تقسیم صرف ہندوستان کی نہ ہوگی پاکستان بھی تقسیم ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں ملک تقسیم ہو کر آزاد ہوئے تو ان میں شانہ بشانہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جنگ کی سی حالت رہے گی تا آنکہ کوئی اور شکل نمودار ہو۔

۲۔ انگریزی واقعہ ہندوستان چھوڑ رہا ہے اب نہ اس کے اقتدار کا ہندوستانی نقشہ بحال رہا ہے اور نہ بین الاقوامی حالات اس کے موافق ہیں۔ ہم چاہیں بھی تو وہ ہندوستان میں ٹھہرنے کے لئے تیار نہیں۔

۳۔ مسلمانوں نے میرے سیاسی موقف کو مسترد کر دیا مسٹر جناح نے مسلمانوں کی عصیت کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ اب وہ اس کے خلاف کوئی سی رائے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں مسلمان اپنی انفرادیت کو مشخص کر لیں اور جو کچھ بھی ہو وہ انگریزوں کی معرفت نہ ہو، ہندوؤں کو بہ دلیل راضی کر کے ہو، گاندھی دہنرو غیر مخلص نہیں اگر بزرگ عظیم کی آزادی نفرت کی موجودہ لہروں سے نکلی تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہندوستان کا مسلمان اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ پھر پاکستان کی داخلات ان کو بچانے کے گی۔ مجھے تقسیم کی صورت میں دور تک کشمکش نظر آتی ہے۔ اندرون پاکستان بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔

۴۔ راقم نے عرض کیا موجودہ ادب سے متعلق آپ کا ارشاد کیا ہے؛ فرمایا تھو یک ایلٹی ہویا سیاسی سفر میں اسی قسم کے موڑ آتے ہیں۔ جب ملک میں پاروں طرف افراتفری چھا گئی ہو تو ادب جو معاشرہ کا عکس ہوتا ہے اس سے مختلف نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ بہر حال یہ ادب دائمی نہیں اس ادب کا مزاج سیاسی ہے اس کے لہجہ میں جھنجھلاہٹ ہے اور یہ ایک طبعی چیز ہے جب یہ دور لہ جائے گا تو ادب کی چمن بندھی میں خار و صحن نہیں رہینگے۔



۵۔ شاہ جی کے سوال پر فرمایا ترجمان القرآن کی تیسری جلد ذہنا تیار کر چکا ہوں۔ بعض حصے قلمبند کئے ہیں۔ ان پلاؤں سیاسی اشغال ایسے ہیں کہ دین و ادب کا سفر کا پڑا ہے۔ اس جمنٹ سے نکلنے ہی سفر شروع ہوگا۔ اور ترجمان القرآن کی تیسری جلد میں تاخیر نہ ہوگی۔ ایک روز مفتی کفایت اللہ کے ہاں چلے گئے اور دیر تک ماضی مرحوم کے واقعات دوہراتے رہے۔ مفتی صاحب نے کہا۔

شاہ جی، تقسیم کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ ہم لوگ کب کبھی نظریاتی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ ہندو تو نیشنلسٹ مسلمانوں کی مانند ہیں اور نہ پاکستان تسلیم کرتے ہیں تو کیا وہ مسلمانوں سے خود سپردگی چاہتے ہیں؟

مولانا احمد سعید دہلوی سے ملے تو تحریک خلافت میں میانوالی جیل کے ایام اسیری کا ذکر آگیا۔ دونوں کی زباں بکترنی کی طرح چلتی رہی اور دامن گفہار میں اس قسم کے موتی نکالتے رہے کہ بولی مٹولی کا مزہ آگیا۔

ہم نے کہا آئیے شاہ جی خواجہ حسن نظامی سے ملیں؟ فرمایا، مجھی وہ دوکاندار ہیں میں ان کی متاع کا خریدار نہیں۔ عرض کیا، اردو کے منفرد ادیب ہیں، فرمایا میں انہیں ادیب نہیں مانتا وہ اردو میں کلکوسے لڑاتے ہیں اور بس۔

ہم خود ہی چلے گئے اس وقت سماع کی محفل لگی ہوئی تھی اور خواجہ صاحب سرود میں تھے، قوال گارہے تھے۔

خسرو تو بس بلندی شدی در طریق عشق

یعنی پائے بوس شگانش رسید؟

وزارتی مشن کی رخصتی سے لے کر ماؤنٹ بیٹن پلان تک کا سارا عرصہ شاہ جی نے اپنے عیال سمیت لاہور میں گزارا۔ ان محفلوں کا مجمل تذکرہ ابتدائی باب میں آچکا ہے۔

ہم شاہ جی کی باتوں کو مزید کی بڑ سمجھتے لیکن ان کی تمام باتیں سچی ہوتی گئیں۔ فرمایا۔  
۱۔ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، ماں بیٹی، باپ بیٹا اور بہن بھائی کے رشتے  
ٹوٹ گئے ہیں۔ دریاؤں میں خون ہے، ہواؤں میں دھواں، دھرتی طوطا چشم  
ہو گئی ہے اور وہی ہو کے رہا۔

۲۔ سیاست دانوں نے جغرافیائی نقشہ اٹھا کر اس پر مزب و تقسیم کی ہے لیکن اس  
کی بدولت برطی مدت کے لئے انسان مر گیا ہے۔

۳۔ بڑ عظیم میں تبلیغ کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے۔ ہم نے سیاسی حقوق  
کے حصول کی خاطر دینی فرائض سے بغاوت کرادی ہے۔

۴۔ پاکستان سیاسی یزیروں کی آماجگاہ بن کے رہے گا۔

۵۔ احقر کے ایک ادارہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم اپنے ٹھیک لکھا ہے کہ ہندوستان  
میں مسلمان اور پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا، لیکن اسلام نہ رہا تو پاکستان  
کہاں ہوگا؟

مسٹر پر بودھ چندر ۱۹۶۰ء میں دہلی سے لاہور آئے تو شاہ جی سے ملنے ملان گئے۔  
شاہ جی سے کہا۔

”پنڈت جی سلام کہتے تھے اور ہاں اندرانے بھی سلام کہا ہے۔“ شاہ جی غوط کھا گئے۔  
مقوڑی دیر چپ رہے پھر فرمایا۔

بھائی! پنڈت جی سے کہنا جس عطا۔ اللہ شاہ کو آپ جانتے تھے وہ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء  
کو مر گیا تھا۔ البتہ اندرا کو سلام و دعا کہنا کہ وہ بیٹی ہے۔

